

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کہ دین نامان سے آقران میں

ایزومنان تحفہ عجایب و ہدیہ غرائب الی اللہ العزیز
مقبول بارگاہ کونین حضرت محمد ﷺ
مُسَمَّیٰ بِہِ

صَلَوَاتُ الرَّسُولِ

الجزء الرابع

فِي لِبَاسِهِ وَمَلْبَسِهِ ﷺ

رَضْوَانِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

حضرت خواجہ نوری محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِصَدْرِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَبِحَرْزِ بِسْمِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صدارت اور شروع میں آنے کے اور بطفیل بسم

اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَبِخَضْرِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَبِسْتِر

اللہ الرحمن الرحیم کے حرز و پناہ کے اور بطفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سرسبز و شادابی کے۔ اور بطفیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مترو پروردہ کے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پانے والا سب جہانوں کا ہے بہت رحم کرنے والا

الرَّحِیْمِ ۝ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا

مہربان ہے۔ مالک ہے روز جزا کا۔ اے ان صفات کمال سے متنازع و متضاد تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں چلا ہیں

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغضُوبِ

راہ راست پر۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نہ ان لوگوں کی جن پر تیری طرف سے غضب

عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ اٰمِیْنٌ ۝ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: یٰبٰنِیْ اَدْ مَرَقَدَا

کیا گیا ہے اور نہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے کی۔ ایسے ہی ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد آدم تحقیق

اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یَّوَارِیْ سَوْاَتِکُمْ وَرِیَاشًا وَرِیَاسًا التَّقْوٰی

ہم نے نازل کیا ہے تم پر لباس جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو اور تمہارے لیے سامان زینت و آرائش ہے اور تقویٰ کا لباس ہی

ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّہُمْ یَذْکُرُوْنَ ۝ یٰبٰنِیْ اَدْ م

سب سے بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم

لَا یَفْتِنٰکُمُ الشَّیْطٰنُ کَمَا اَخْرَجَ اَبَیْوٰیْکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْہُمَا

ہرگز فتنہ میں نہ ڈالے تمہیں شیطان جیسے کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے جبکہ کھینچتا تھا (باعینا سبب لغزش ہونے کے) ان

لِبَاسَہُمَا لِیَرٰیہُمَا سَوْاَتِہُمَا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ

دونوں سے ان کا لباس جنت ناکر دکھلائے انہیں ان کی شرمگاہیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پس جب چکھا ان دونوں نے درخت ممنوع کو

بَدَتْ لَهَا سَوَاتِحُهَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرَقِ الْجَنَّةِ

تو نظر ہو گئیں ان کے لیے ان کی شرمگاہیں اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر جنتی درختوں کے پتوں سے

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَهُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ

اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے حق میں "اور وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے اور تم

لِبَاسٌ لَهُنَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ

لباس ہوا ان کیلئے (ہر ایک گناہ سے بچاؤ کا سبب ہونے کی وجہ سے) اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے پہنائی پوشاک اور خلعت

التَّفْضِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرٍ مَنْ حَصَلَ لَهُ

فضیلت و برتری کی۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو بہتر ہیں ان تمام حضرات سے جنہیں حاصل ہوا

جَزِيلُ الثَّوَابِ مِنْ رَبِّ الأَرْبَابِ اللَّهُمَّ اعْطِنِي بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ

عظیم ثواب رب الارباب کی طرف سے۔ اے اللہ عطا فرما مجھے اپنے محبوب کے فضل و کرم کے صدقے میں

تَعْطَى لِبَاسِ التَّوْحِيدِ وَالْمَعْرِفَةِ وَتَلْبَسُ الْحُبَّ بِتَوْرِيَةِ الْعَارِفِ

پردہ پلوئی توحید اور معرفت کے لباس سے۔ اور پوششِ حب کی بسبب پہنانے عارف کے

بِكَمَالِ الْمَحَبَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَنْ

ساتھ کمالِ محبت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا "جو

لَيْسَ ثَوْبَ الشُّهُرَةِ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَوْبَ مِذْلَةِ يَوْمِ

پہنے اور اوڑھے لباسِ شہرت والا دُنیا میں پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے لباسِ دولت و رسوائی کا

الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

قیامت کے دن پھر اس میں بھڑکائے گا (اس پر) جہنم کی آگ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں

أُدْرِجَنِي بَرْدِ حَبْرَةٍ وَثَوْبَيْنِ أَيْضِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پیٹا گیا (وقتِ تکفین) یعنی چادر میں اور دو سفید کپڑوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضِ سَحُولِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر جنہیں کفن دیا گیا تین سفید سوتی کپڑوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَحَبُّ النَّبِيِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے نزدیک محبوب ترین کپڑا

إِلَيْهِ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحَبْرَةُ وَالنِّسَاءُ وَالْأَلْوَانُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

واسطے پہننے کے یعنی چادریں بھئی اور عورتیں اور کھانے کے مختلف اقسام اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِي لَبَسَ جُبَّةَ رُومِيَّةَ ضَيْقَةَ الْكَمَّيْنِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ جنہوں نے زیب تن فرمایا رومی جبہ جو تنگ آستینوں والا تھا۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِي كَانَ فَرَأَشُهُ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا وَحَشْوُهُ لَيْفٌ وَصَلَّ

کہ جن کا وہ بچھونا جس پر استراحت فرماتے تھے چمڑے سے تھا اور اس کی اندر کھجور کی جالی بھری تھی۔ اور صلوات بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ وَسَادُهُ الَّذِي يَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ

سیدنا محمد پر جن کا تکبیر کہ جس پر اوٹ لگاتے تھے چمڑے سے تھا

وَحَشْوُهُ لَيْفٌ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ قَائِلٌ فِيهِ

اور اس کی بھرائی کھجور کی جالی سے تھی۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے متعلق کہا کہنے والے نے

لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَّقِنًا

ابو بکر صدیق کو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ادھر تشریف لا رہے ہیں در آنجا بلکہ مبارک کو کپڑے سے ڈھانپے ہوئے ہیں

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى

اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہوں کے فرمایا "نہیں نظر فرمائے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت (نظر رحمت) طرف

مَنْ جَرَّ أَرَاةَ بَطْرًا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ بَيْنَمَا

اس شخص کے جو گھسیٹے اپنی چادر کو فخر و ناز سے۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے فرمایا "اس دوران کہ ایک آدمی

رَجُلٌ يَجْرُ أَرَاةَ مِنَ الْخَيْلَاءِ خُسْفٍ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ

گھسیٹ رہا تھا اپنی چادر کو تکبر سے تو اسے زیر زمین دھسا دیا گیا پس وہ حرکت کرتا رہے گا نیچے کی طرف زمین میں

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَنْ لَبَسَ

قیامت تک۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے فرمایا "جس شخص نے پہنا



الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ریشمی کپڑا دُنیا میں نہیں پہنے گا اسے آخرت میں۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر

الَّذِي قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَّا خَلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَ

کہ جنہوں نے فرمایا "نہیں اوڑھنا پہنتا ریشمی لباس دُنیا میں مگر وہی کہ نہیں ہے حصہ اس کے لیے آخرت میں اور

صَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الْإِسْبَالُ فِي الْأَزَارِ وَالْقَمِيصُ وَ

صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے فرمایا۔ کہ اسبیل اور تجاوز چادر۔ قمیص اور

الْعِمَامَةُ مَنْ جَزَمَهَا شَيْئًا خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ

عمامة تینوں میں ہے۔ جس نے گھسیٹا یا حد معروف سے تجاوز کیا ان میں ازراہ عجب نہیں نظر فرمائے گا اللہ تعالیٰ طرف اُسکی قیامت دن

صَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ كِهَامُ أَصْحَابِهِ يُطْحَأُ وَصَلَّ عَلَي

اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جن کے اصحاب کرام کی آستینیں کشادہ ہوتی تھیں۔ اور صلوٰۃ بیچ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ كَمُ قَمِيصِهِ إِلَى الرَّسْغِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا

سیدنا محمد پر کہ جن کے قمیص کی آستین کلائی اور کف کے جوڑ تک ہوتی تھی۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسَ قَمِيصًا بَدَأَ

محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو جب بھی قمیص اوڑھتے تو اوڑھنے کا آغاز فرماتے

بِمِيَامِنِهِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَقُولُ إِذَا رَأَى الْمُؤْمِنَ إِلَى

دائیں جانب (دائیں آستین) سے۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جو فرماتے ہیں "مومن کی چادر اس کی

أَنْصَافٍ سَاقِيهِ لِأَجْنَا حَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا

آدھی پنڈلیوں تک ہوتی چاہیے (اور) نہیں حرج اس پر وہاں سے ٹخنوں تک اور جو

أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ

اس سے نیچے ہے تو وہ آگ میں (جلائے جانے کے لائق) ہے۔ فرمایا اسے تین مرتبہ۔ اور نہیں نظر فرمائے گا اللہ تعالیٰ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ أَرَاهُ بَطْرًا وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

قیامت کے دن طرف اس کے جو گھیسے اپنی چادر کو بطور فخر و ناز کے۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جنہیں



قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَهْ حِينَ ذَكَرَ إِذَا قَالَ مَرَأَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا جبکہ آپ نے چادر کا ذکر کیا تو عورت کے متعلق کیا حکم ہے، یا رسول اللہ تو آپ نے

تُرْخِي شِبْرًا فَقَالَتْ إِذَا انْتَكَشِفَ عَنْهَا قَالَ فِذْرَاعًا لَا تَزِيدُ

فرمایا وہ ایک بالشت تک لٹکائے۔ تو انہوں نے عرض کی تب تو اس سے ہٹ کر اسے برہنہ کر دیجیے تو فرمایا ایک ہاتھ تک لٹکائے اس

عَلَيْهِ ح فَقَالَتْ إِذَا انْتَكَشِفَ أَقْدَامُهَا قَالَ فَيُرْخِي ذِرَاعًا

پر زیادہ دکرے۔ تو انہوں نے عرض کیا تب بھی ان کے قدم ننگے ہو جائیں گے تو آپ نے فرمایا تو ٹکائیں ایک ہاتھ نہ زیادہ

لَا يَزِدَنَّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي إِنَّهُ لَمَطْلُوقُ الْأَنْزَارِ

کریں اس پر۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جو قمیص کے ٹن کھوے ہوئے تھے

قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ بْنُ قُرَّةٍ فَادْخَلَتْ يَدِي فِي جَيْبٍ قَبِيصِهِ فَسَسْتُ

کہا ابو معاویہ بن قرہ نے پس میں نے داخل کیا اپنا ہاتھ آپ کے قمیص کے گریبان میں پس چھوا میں نے

الْغَائِمِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ

آپ کی غائم نبوت کو۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ فرمایا عبدالرحمن بن عوف نے (رضی اللہ عنہ)

عَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَ

عامر باندھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس لٹکایا اس کا ایک شملہ میری اگلی کی جانب اور دوسرا

مِنْ خَلْفِي وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلُ عِمَامَتِهِ بَيْنَ

پچھلی جانب۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جو خود دستار باندھتے تھے تو لٹکاتے عامر کے (دونوں شملے) اپنے

كَتْفَيْهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فَرَّقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ

دونوں کندھوں کے درمیان اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے فرمایا " فرق وہ جو ہمارے درمیان اور مشرکین کے درمیان ہے

الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْفَلَاحِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

وہ ہے دستاروں کا ٹوہیوں پر (باندھنا اہل اسلام کے لیے اور غیر ٹوہیوں کے مشرکین کے لیے) اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جو

كَانَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَبِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ

جدید کپڑا بناتے تو اس کا نام لیتے (کہ یہ) عامر یا چادر ہے۔ پھر فرماتے

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ أَسْئَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَنَعْتَ لَهُ وَأَعُوذُ

بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنَعْتَ لَهُ حِينَ رَزَقْتَنِي اللَّهُ أَوْ أَعْطَانِي أَوْ كَسَانِي هَذِهِ

تجھ سے اس کے شر سے اور اس کے شر سے جس کے لیے بنایا گیا ہے جبکہ رزق دیا مجھے اللہ نے یا عطا کیا یا پہنایا مجھے یہ

الْعِمَامَةَ أَوْ الْقَمِيصَ أَوْ الرِّدَاءَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَتْ

عَامِرَةُ يَا تَمِيمُ يَا جَادِرُ أَوْ صَلَاةَ يَهْجُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا بِرَأْسِ كَرَامَتِهِ كَمَا جَاءَ فِي مَطْلُوعِهَا

عَائِشَةُ قَالَتْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ

أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ نَعَى كَمَا فَرَّمَايَا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ عَائِشَةَ أَوْ

أَرَدْتَ الدُّحُوقَ بِنِي فَلْيُكْفِيكَ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّابِئِ وَرَأْيَاكَ وَ

تو ارادہ رکھتی ہے لاحق ہونے کا ساتھ میرے (دار آخرت میں) پس چاہئے کہ کفایت کرے تجھے دنیا سے مثل سوار کے سفر خزانے کے اور بچانا

مُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرْقِعِيهِ وَصَلِّ عَلَى

اپنے آپ کو اغنیاء کی ہم نشینی سے اور نہ بوسیدہ سمجھنا کسی استعمال میں لائے ہوئے کپڑے کو جب تک لے پیوند نہ لگائے اور صلوات بیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَتْ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ جس نے کھانا کھایا پھر کہا "سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے

أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقْتَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غُفْرَانِهِ

مجھے یہ کھانا کھلایا اور رزق دیا بغیر میری محنت اور قوت کے" بخشنے جائیں گے اس کے لیے

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ لَيْسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي


جو گزر چکے اس کے گناہوں سے۔ اور جس نے پہنا کپڑا پس کہا محمد ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے پہنایا

هَذَا أَوْ رَزَقْتَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غُفْرَانِهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

یہ اور نصیب کیا میرے بغیر میری محنت و قوت کے" بخشنے جائیں گے جو گزر چکے اس کے گناہوں سے

ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَتْ الْبَسُّ وَالنَّيَابُ

اور جو آئندہ سرزد ہوں گے۔ اور صلوات بیج سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ سفید کپڑے



الْبَيْضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ وَصَلِّ عَلَى

استعمال کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرے ہیں اور کفن دو انہیں میں اپنے فوت شدگان کو۔ اور صلوٰۃ بیچ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَا تَسْمَعُونَ إِلَّا تَسْمَعُونَ إِنَّ الْبَدَاذَةَ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا "کیا سنتے نہیں ہو کیا سنتے نہیں ہو" بے شک شکستہ حال

مِنَ الْإِيْمَانِ إِنَّ الْبَدَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ایمان کا جزو ہے۔ بے شک شکستہ حال ایمان کا جزو ہے۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد

الَّذِي قَالَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةَ فِي الدُّنْيَا لَبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ

پر جنہوں نے فرمایا جس نے شہرت والا لباس پہنا دُنیا میں پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو لباس

مِذْلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَنْ

ذلت کا قیامت کے دن۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے

تَرَكَ لِبْسَ ثَوْبٍ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ تَوَاضَعًا

ترک کیا پہننا زیبائش و آرائش والے لباس کا حالانکہ وہ اس کے پہننے پر قادر ہو اور ایک روایت میں یہ (اضافہ ہے) کہ بطور

كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكِرَامَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ بِاللَّهِ تَوَجَّهَ اللَّهُ تَابِعَ الْمَلِكِ

تواضع کے پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت و کرامت کی پوشاک اور جو شادی کرے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ پہنائے گا اسے ملک و سلطنت کا تاج

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ

اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے کہ دیکھا جائے اس کی نعمت کا اثر

نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

و نشان اس کے بندے پر۔ اور کہا ابو الاحوص رضی اللہ عنہ نے میں حاضر ہوا بارگاہ رسول اللہ صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ثَوْبٍ دُونَ فَقَالَ لِي أَلَيْكَ مَا لَقُلْتُ

اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں اور مجھ پر گھٹیا لباس تھا۔ تو آپ نے مجھے فرمایا۔ کیا تیرے پاس مال ہے؟ میں

نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيْ الْمَالِ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ

نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا تمام اقسام کا مال ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھے ہیں

مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَإِذَا اتَّكَأَ اللَّهُ

اونٹ اور گائیں۔ بھیڑیں بکریاں۔ گھوڑے اور غلام آپ نے فرمایا تو جب اللہ تھالے بچھے عطا کرے

مَا أَفْلَيْرَا نَثْرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مال تو چاہیے کہ اس کی نعمتوں کے اور کرامت و عنایت کے اثرات تجھ پر دیکھے جائیں۔ اور صلوٰۃ بیج سیدنا محمد پر کہ جن کے متعلق

قَالَ جَابِرٌ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا فَرَأَى رَجُلًا

حضرت جابر نے کہا۔ تشریف لائے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے تو دیکھا ایک آدمی

شَعَثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ

پراگندہ بالوں والا جس کے بال بھڑے ہوئے تھے تو فرمایا کیا نہیں پاتا یہ ایسی چیز جس کے ساتھ بٹھائے

رَأْسَهُ وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا

اپنے سر کے بالوں کو اور دیکھا دوسرے شخص کو جس پر میلے کچھے کپڑے تھے تو فرمایا کیا نہیں پاتا یہ ایسی چیز

مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَا أَرْكَبُ

جس سے دھوئے اپنے کپڑوں کو۔ اور صلوٰۃ بیج سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا میں نہیں سوار ہوتا

الْأَرْجَوَانَ وَلَا يَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكْفَفَ

سرخ ریشمی گدیوں (والی زین) پر اور نہیں پہنتے تھے آپ زرد رنگ سے رنگا ہوا کپڑا اور نہ استعمال فرماتے وہ قمیص جس کی

بِالْحَرِيرِ وَقَالَ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ بَرِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ

کفین ریشم کی ہوتی اور فرمایا عورتوں سے سنو مردوں کی خوشبو ایسی ہوتی چاہیے جس میں رنگ نہ ہو۔ اور عورتوں کی خوشبو ایسی ہو

لَوْنٌ لَا بَرِيحَ لَهُ وَمَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى


جو رنگ دے لیکن اس میں مہک نہیں ہوتی چاہیے۔ اور گزرا ایک آدمی جو دو سرخ کپڑے پہنتے ہوئے تھا پس اس نے سلام پیش کیا

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے اس کو جواب نہ دیا۔ اور صلوٰۃ بیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَهَى عَنْ عَشْرِ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ

محمد پر کہ جنہوں نے دس چیزوں سے منع فرمایا دانت باریک کرانے اور جلد میں رنگ بھرنے سے۔ اور سفید بال کھڑکنے سے



مَكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ شَعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ

اور عورت کے عورت کے ساتھ بغیر حجاب و محائل کے بیٹھنے سے اور یہ کہ کرے آدمی اپنے کپڑوں کے نیچے

ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكَبِيهِ حَرِيرًا مِثْلَ

ریشم مثل عجمیوں کے یا (رکھے) کندھوں پر ریشم مثل

الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهْبِيِّ وَعَنْ رُكُوبِ الثُّمُورِ وَلُبْسِ الْخَاتِمِ الَّذِي

عجمیوں کے اور لوٹ مار سے۔ اور چیتوں (کی کھالوں) پر سوار ہونے سے۔ اور انگوٹھی پہننے سے مگر ماسوائے

سُلْطَانٍ وَنَهَى عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَيْسِيِّ وَالْمِيَاثِرِ وَ

صاحب سلطنت کے۔ اور منع فرمایا سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور قیس کے بنے ہوئے ریشمی کپڑے اوڑھنے سے۔ اور سرخ ریشمی

نَهَى عَنِ الْمَيْثِرَةِ الْحُمْرَاءِ وَقَالَ لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النَّمَارَ وَصَلَّى

گدوں سے اور منع فرمایا سرخ ریشمی گدوں سے۔ اور فرمایا کہ نہ سواری کرو ریشم پر اور نہ چیتوں کی کھالوں پر۔ اور صلوات بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ مِنْ أَيْنِيَةِ الْفِضَّةِ وَ

سیدنا محمد پر جنہوں نے منع فرمایا ہمیں کہ پیئیں چاندی اور سونے کے برتنوں سے اور

الذَّهَبِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالرِّدْيَابِ وَأَنْ

ان میں کھانے سے۔ اور عام ریشم پہننے سے اور باریک نفیس ریشم اوڑھنے سے۔ اور اس پر

نَجْلِسَ عَلَيْهِ وَنَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمِينِي فِي نَعْلِ

بیٹھنے سے اور منع فرمایا اس سے کہ کھائے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے یا چلے صرف ایک پاؤں کے جوتے میں

وَاحِدَةً وَأَنْ يَشْتَمَلَ الصَّمَاءَ أَوْ يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَانَتْهَا

یا اپنے گرد چادر لپیٹے اس انداز میں کہ تکبیر کے لیے ہاتھ کاٹوں تک نہ لیجا سکے اور نہ رکوع میں گھٹنوں پر رکھ سکے یا احتیاطاً کرے ایک ہی کپڑے میں درآں جائیکہ

عَنْ فَرْجِهِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَهَى الرَّجَالَ وَالنِّسَاءَ

منکشف کر نیرالا ہوا اپنی شرمگاہ کو۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر جنہوں نے منع فرمایا مردوں اور عورتوں کو

عَنْ دُخُولِ الْحَمَامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوا بِالْمِيَازِرِ

حماموں میں داخل ہونے سے پھر زحمت دی مردوں کے لیے کہ چادریں باندھ کر ان میں داخل ہوں۔

وَقَالَ سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجِمِ وَتَسْتَجِدُونَ فِيهَا بِيوتًا يُقَالُ

اور سرمایا عنقریب فتح کی جائے گی تم پر عجم کی زمین اور تم پاؤ گے اس میں ایسے مکان

لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلُهَا الرَّجَالُ إِلَّا بِالْأُذْرَى وَأَمْنَعُوهَا النِّسَاءَ

جنہیں حمامات کہا جاتا ہے پس ہرگز نہ داخل ہوں اس میں مرد مگر چادریں باندھ کر اور دور رکھوں ان سے عورتوں کو

إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نَفْسَاءَ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

مگر بیمار اور نفاس والی کو۔ اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے

فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بَغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

تو وہ نہ داخل ہر حمام میں بغیر تہمد کے۔ اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور روز

الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ

قیامت پر پس نہ داخل کرے اپنی بیوی کو حمام میں۔ اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور

الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَا بَدَدَتْ تَدَارِعُهَا الْخَيْرُ وَصَلَّى

روز قیامت پر پس نہ بیٹھے ایسے دسترخوان پر کہ جس پر گردش میں لائے جاتے ہوں رجا شرب کے۔ اور صلوٰۃ بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سیدنا محمد پر کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے

فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ مَجْلًا شَاةَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ

مسجد میں کہ داخل ہوا ایک شخص جس کے سر اور ڈاڑھی کے بال پرانڈہ تھے تو آپ نے اشارہ فرمایا طرف اس کے

بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَأْمُرُكَ بِاصْلَاحِ شَعْرِهِ وَلِحْيَتِهِ ففَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ

اپنے ہاتھ سے گویا کہ آپ اسے حکم دیتے تھے سر اور ڈاڑھی کے بالوں کی اصلاح کا چنانچہ اس نے اس پر عمل کیا پھر لوٹ کر آیا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِمَّنْ

تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے کہ

أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ وَهُوَ تَأْكُرُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ وَصَلَّى عَلَى

آئے ایک تم میں سے اس حال میں کہ وہ پرانڈہ سر والا ہو گویا کہ وہ جنوں میں سے ہے اور صلوٰۃ بھیج



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ إِنَّ لِي جُمَّةً فَأَرَجَلَهَا

سیدنا محمد پر کہ جنہیں حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا کہ میرے سر پر بیٹے اور کانوں تک پہنچے ہوئے بال ہیں کیا میں انہیں کنگھی کروں

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْرَمُهَا قَالَ فَكَانَ

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور ان کی عزت کر (راوی نے) کہا کہ

أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَتْهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ نَعَمْ

حضرت ابو قتادہ بسا اوقات انہیں تیل لگاتے تھے دن میں دو مرتبہ آنحضرت کے تعمیل ارشاد میں کہ ہاں

وَأَكْرَمُهَا قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ

اور ان کی عزت کر (الحديث). فرمایا رسول معظم نے جس کے بال ہوں تو وہ ان کی مناسب دیکھ بھال کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے پسند فرماتا ہے

الطَّيِّبُ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرْمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ

پاکیزگی کو۔ نظیف ہے اور صفائی و نظافت کو پسند فرماتا ہے۔ کریم ہے کرم کو پسند فرماتا ہے اور صاحب جود ہے جو د کو پسند فرماتا ہے

فَنَظَّفُوا آرَاهُ قَالَ أَفْنَيْتَكُمْ وَلَا تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ قَالَ فَذَكَّرْتُ ذَلِكَ

پس صاف ستھرا رکھو (راوی کہتا ہے میرا گمان غالب ہے کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا) اپنے صحیحوں کو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ راوی نے کہا میں نے اس حدیث

لَهُمَا جَرِبْنِ مَسَارِفًا قَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ

کا تذکرہ ہمارے ساتھ کیا تو اس نے کہا مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے عامر نے اپنے باپ سعد کے واسطے سے نبی اکرم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَظَّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ وَقَالَ الْوَلِيدُ

صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مگر انہوں نے (غیر کسی تردد کے) کہا "صاف ستھرا رکھو اپنے صحیحوں کو اور کہا ولید نے

لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلَ مَكَّةَ

جب فتح کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو تو اہل مکہ نے

يَا تَوْنَةَ بِصَبْيَانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبُرْكَاتِ وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ فَجِيءُ

آپ کے پاس لانا شروع کیا اپنے چھوٹے بچوں کو تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے اور ہاتھ پھیرتے تھے ان کے سروں پر تو مجھے

بَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا مَخْلُوقٌ فَلَمْ يَمْسَسْنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلْقِ ح وَ قَالَ عُثْمَانُ

مجھے آپ کی بارگاہ میں لایا گیا جبکہ میرے سر پر مخلوق (مربوب) خوشبو رنگ دار لگی تھی تو آپ نے اس لیے مجھے ہاتھ نہ لگایا (الحديث). اور کہا عثمان

بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا

بن عبد اللہ بن موہب نے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کمالا ہماری طرف بالوں کا گچھا

مِّنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے جنہیں خضاب لگا ہوا تھا۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا

محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ ہوگی ایک جماعت میرے بعد والے دور میں جو سیاہ خضاب لگائیں گے

السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَبَامِ لَا يَجِدُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَصَلَّ عَلَيَّ

مثل جنگلی کیوتڑوں کے سینے کی سیاہی کے نہیں پائیں گے جنت کی خوشبو سے (میدان قیامت میں جس سے مقررین متفیید ہو گئے) اور صلوٰۃ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْجَنَاءُ

بھیج سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا بیشک خوشترین چیز جس کے ساتھ سفیدی بالوں کی تبدیل کی جائے وہ مہندی

وَالْكُتْمُ ۚ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ التَّعَالَ

اور رسم ہے اجڑا ہوا سرخی مائل رنگ دے اور بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے رنگے ہوئے

السَّبْتِيَّةَ وَيَصْفِرُّ لِحْيَتَهُ بِالْوُرْسِ وَالزَّعْفَرَانَ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

چمڑے کے جوتے اور زرد خضاب لگاتے ڈاڑھی مبارک کو درس اور زعفران کے ساتھ۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ قَالَ رَجُلٌ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَالِي أَرَاكَ شَعِثًا قَالَ إِنَّ

محمد پر کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے۔ ایک آدمی نے حضرت فضالہ بن عبید سے کہا کیا وجہ ہے کہ میں تجھے پراگندہ بال دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِّنَ الْإِرْفَاتِ


کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرماتے تھے زیادہ کٹھکی کرنے اور بننے سنورنے سے

قَالَ مَالِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حَذَاءً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اس آدمی نے کہا کیا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھتا تمہارے پاؤں میں جوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَرْنَانَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا ۚ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم ننگے پاؤں بھی چلیں۔ کبھی کبھی الحدیث۔ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ



اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غَبًّا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

علیہ وسلم نے کٹھی کرنے سے مگر کبھی کبھی۔ اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر کہ جن کے متعلق

قَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا فَرَّقْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ

فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب میں کٹھی کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو

صَدَعْتُ فَرْقَهُ عَنْ يَافُوحِهِ وَأَرْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَعَنَّهَا

تو نکالتی آپ کی مانگ آپ کے تالو سے اور سر کے اگلے حصے کے بال چھوڑ دیتی تھی آپ کے سامنے اور آپ مروی ہے

قَالَتْ كُنْتُ أُسْرِجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا

کہ میں کٹھی کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراقس کو باوجود یہ کہ

حَائِضٌ ح وَقَالَتْ أُمَّهَا نِي قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِبْرَاهِيمَ

حالت حیض میں ہوتی تھی الحدیث۔ فرمایا حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ قَدَمَهُ وَقَلَّ أَرْبَعُ غَدَائِرٍ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

وسلم ہمارے ہاں مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ اور آپ کی چار مینڈھیاں تھیں۔ اور صلوات بیچ سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ أَنَسُ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِبْرَاهِيمَ

محمد پر کہ جن کے متعلق فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے

سُكَّةً يَتَطَيَّبُ مِنْهَا ح وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْتَرُ

مخصوص خوشبو جس کو آپ استعمال فرماتے تھے الحدیث۔ اور حضرت انس نے ہی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات

دُهْنِ رَأْسِهِ وَتَسْرِيجِ لِحْيَتِهِ وَيُكْتَرُ الْقِنَاعَ كَانَتْ ثُوبَهُ ثُوبَ زِيَّاتٍ

سر مبارک کو تیل لگانے اور ڈراڑھی مبارک کے بال کٹھی کرتے اور سر مبارک پر بسا اوقات ایک خاص کپڑا لپیٹتے گویا وہ تیلی کا کپڑا تھا

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِبْرَاهِيمَ

اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے۔ اور منع فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گونے یا گونے سے

ح وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعُفَرَ الرَّجُلُ أَعْنَى عَلَى

الحدیث اور منع فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہ کوئی مرد زعفران رنگ لگائے یعنی

بَدَانِهِ وَتَوْبِهِ ۚ وَقَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَطِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اپنے بدن پر اور کپڑوں پر۔ الحدیث۔ اور فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں خوشبو لگا یا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا نَجِدُ حَتَّىٰ أَحَدًا وَيُبِصُّ الطَّيِّبَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ۚ

و سلم کو بائزہ ترین میسر آنے والی خوشبو سے حتیٰ کہ میں باقی تھی اس خوشبو کی سفیدی اور چمک کو آپ کے سرناز اور ڈاڑھی میں (الحدیث)

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ بِاللُّوَةِ غَيْرَ مُطْرَأَةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ

اور تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ جب سلگاتے خوشبودار لکڑی کو جو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کی ہوتی تھی اس سے خوشبو حاصل کرتے

اللُّوَةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ اور کافور کو اس لکڑی کے ساتھ ڈال دیتے تھے پھر فرماتے۔ ایسے ہی تھے سلگایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کیلئے

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَىٰ عَلَيْهِ

الحدیث۔ حضرت یعلیٰ بن مرہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان پر

خُلُوقًا فَقَالَ أَلَيْكَ إِمْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ

خلوق کو تو دریافت فرمایا کیا تیری بیوی ہے میں نے عرض کیا نہیں تو فرمایا اس کو دھو ڈال۔ پھر دھو ڈال اور پھر

اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُّ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ

دھو ڈال اور اس کے بعد ایسی خوشبو نہ لگانا اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے منخلق کہا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے

قَدِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَقُونِي

میں اپنے گھر آیا ایک سفر سے جبکہ میرے دونوں ہاتھ پھوٹ چکے تھے تو اہل خانہ نے مجھے زعفران ملی

بِزَعْفَرَانٍ فَقَدَوْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ

خلوق لگا دی پس میں صبح کو بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پس میں نے سلام

عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ إِذْ هَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنكَ ۚ قَالَ

عرض کیا مگر آپ نے جواب سلام مجھے نہ دیا اور فرمایا جھینے اور اس خوشبو کو دھو کر اپنے سے دور کیجئے۔ (الحدیث)

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ بِرِيحِهِ وَ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیئے کہ جس کی خوشبو تو ظاہر ہو

خَفِيَ كَوْنُهُ وَطَيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ كَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ ح قَالَ

لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو کا رنگ نمایاں ہو اور مہک نمایاں نہ ہو۔ (الحدیث)۔ فرمایا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ رَجُلٍ وَفِي

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قبول فرماتا اللہ تعالیٰ نماز اس آدمی کی جس کے

جَسَدُهُ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقٍ وَصَلَّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ قَالَ الْفَطْرَةُ

بدن پر خلوق میں سے کچھ خوشبو لگی ہو۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا فطرت رکی مقتضیٰ محصلتیں

خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ

پانچ ہیں۔ ختنہ۔ زیر ناف بال صاف کرنا۔ مونچھیں کاٹنا۔ ناخن تراشنا اور

تَنْفُ الْأَبْطَحِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ

بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ الحدیث۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی مخالفت کرو

أَوْفِرُوا اللَّحْيَ وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ كُوالشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا

ڈاڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مونچھوں کو ہلکا کرو اور ڈاڑھیوں کو

اللَّحْيَ ح قَالَ أَنَسٌ وَقَدْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ

دراز کرو۔ الحدیث۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے وقت معین کیا گیا مونچھیں کاٹنے۔ ناخن تراشنے اور نفل کے

الْأَبْطَحِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَصَلَّ عَلَيَّ

بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے کہ ہم انہیں نہ چھوڑیں چالیس دن سے زیادہ تک۔ اور صلوٰۃ بیچ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ قِيلَ مَا الْقَزَعُ قَالَ يُحَلِقُ بَعْضُ

سیدنا محمد پر جنہوں نے منع فرمایا قزع سے عرض کیا گیا۔ کیا ہے قزع؟ تو فرمایا کہ مونڈ لیا جائے

رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيَتْرَكَ بَعْضٌ ح رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيًّا

بچے کے سر کا کچھ حصہ اور چھوڑ دیا جائے کچھ حصہ۔ الحدیث۔ دیکھا نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو

قَدْ حَلِقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَتَهَا هُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ أَحَلِقُوا

جس کے سر کا کچھ حصہ مونڈا گیا تھا اور بعض اسی طرح چھوڑ دیا گیا تھا تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا سارا مونڈو

كُلَّهُ أَوْ أَتْرَكُوا كَلَّهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُنْتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

یا سارا چھوڑو۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بارگاہ میں لا یا گیا ایسا شخص

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخَدَّتٍ قَدْ خَصَبَ يَدَيْهِ وَرَجُلِيهِ بِالْحِنَاءِ فَقَالَ

جو بتکلف ہیچڑا بنا ہوا تھا جس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی لگا رکھی تھی تو رسول اللہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیا کیفیت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ بتکلف عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار

فَأَمْرِي بِهِ فَنَفَى إِلَى التَّقِيَةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ فَقَالَ إِنِّي

کرتا ہے تو آپ کے متعلق حکم دیا تو اسے تقیہ کی طرف نکال دیا گیا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا ہم اسے قتل نہ کریں تو آپ نے فرمایا

نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

میں منع کیا گیا ہوں نماز پڑھنے والوں کے قتل کرنے سے الحدیث حضرت عبد اللہ بن عباس نے فرمایا کہ لعنت فرمائی نبی صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَدَّتِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ

علیہ وسلم نے عورتوں کے روپ میں ڈھلنے والے مردوں پر اور مردوں کی ہیئت اختیار کرنے والی عورتوں پر اور فرمایا

أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی

سَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ

اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والوں پر اور عورتوں میں سے

النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ

مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والیوں پر۔ اور لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر جو

يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ ح النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

پنے عورتوں کی طرح لباس۔ اور عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس استعمال کریں (الحدیث) نبی مکرم صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْسِمَةَ وَ

علیہ وسلم نے فرمایا لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے واصلہ اور مستوصلہ پر یعنی جو عورت بال بڑھانے کیلئے دوسرے بال ساتھ ملائے یا ملانے کو کہے اور

الْمُسْتَوْشِبَاتِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ

گودنے والی پر اور گودنے والی پر الحدیث، فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے گودنے والی عورتوں پر

وَالْمُسْتَوْشِبَاتِ وَالْمُتَنَبِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ لِلْحُسْنِ وَالْمُبَغِّضَاتِ

اور گودوانے والیوں پر اور بال نوچنے والیوں پر اور دانت باریک کر کے ان میں حسن پیدا کرنے کیلئے کشادگی پیدا کرنے والیوں پر اور تبدیل

خَلَقَ اللَّهُ وَجَاءَتْ تَهْ إِمْرَأَةً فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَّغَنِي إِنَّكَ لَعْنَتُ كَيْتٍ وَ

کرائے والیوں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تو آئی ان کے پاس ایک عورت جس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایسے ایسے لعنت کی

كَيْتٍ فَقَالَ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں ان پر لعنت نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ

لعنت کی ہے اور جو لعنت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تلاوت کی ہے سارے قرآن کی

فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَيْنُ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ

مگر میں نے تو اس میں نہیں پایا جو تم کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا۔ اگر تو نے اسے پڑھا ہوتا تو ضرور پایا ہوتا میرے قول کو

أَمَا قَرَأْتَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ

کیا نہیں پڑھا تو نے کہ جو دین تمہیں رسول اللہ تو اسے پکڑو۔ اور جس سے منع کریں تو اس سے رک جاؤ اس نے کہا

بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا الحدیث، فرمایا ابن عباسؓ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ

وسلم کاٹتے تھے یا لیتے تھے اپنی مونچھوں سے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی

الرَّحْمَنِ يَفْعَلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ

اسی طرح کرتے تھے الحدیث۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نہ

يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لیا (اور کاٹا) مونچھوں سے تو وہ نہیں ہے ہم سے یعنی کامل طریقہ پر نہیں۔ اے اللہ صلوات بھیج سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے

قَالَ غَيْرِو الشَّيْبِ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

فرمایا کہ (بڑھاپے کی) سفیدی کو تبدیل کرو۔ اور نہ مشابہت اختیار کرو ساتھ یہودیوں کے۔ الحدیث۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي

وسلم نے کہ سفید بالوں کو نہ اکھیڑو کیونکہ وہ مسلمان کے لیے نور ہیں جو شخص سفید بالوں والا ہو

الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَهُ بِهَا

اسلام میں لکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بسبب اس کے نیچی اور دور کرے گا اس کے بسبب اس کے گناہ اور بلند کرے گا اس کے لیے

دَرَجَةً مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ح

بسبب اس کے درجہ۔ الحدیث جو بڑھا ہوا اسلام میں تو یہ بڑھاپا ہو گا اس کے لیے نور قیامت کے دن۔ ح

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ الرَّجُلُ خَرِيمٌ إِسْدَى

فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مرد ہے خیرم اسدی

لَوْ لَا طَوْلُ جَمَّتِهِ وَأَسْبَالُ إِزَارِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ خَرِيمًا فَأَخَذَ شُفْرَةً

اگر نہ ہوتی اس کے سر کے بالوں کی حد سے تجاوز یافتی۔ اور اس کا چادر کو گھسیٹنا تو کتنا اچھا ہوتا تو آپ کا یہ فرمان خیرم کو پہنچ گیا تو اس نے ایک چھری لی

فَقَطَعَ بِهَا جَمَّتَهُ إِلَى أذُنَيْهِ وَرَفَعَهَا إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ اللَّهُمَّ

اور اس کے ساتھ بالوں کو کانوں تک کاٹ دیا اور بلند کیا اپنی چادر کو آدھی پنڈلیوں تک۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَسُ كَانَتْ لِي ذَوَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي لَا

صلوات بھیج سیدنا محمد پر فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے میری ایک مینڈھی تھی تو فرمایا مجھے میری ماں نے میں

أَجْرُهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُهَا اللَّهُمَّ

اسے نہیں کاٹوں گی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھیلتے تھے اور پکارتے تھے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي إِذَا سَافَرَ كَانَ

صلوات بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا جب سفر فرمانے لگتے تو آپ کی

أَخْرَعَهُمْ وَيَأْتِسَانِ مِنْ أَهْلِهَا فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اللَّهُمَّ

آخری ملاقات اپنے اہل میں سے جس ہستی کے ساتھ ہوتی تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تھیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْبَسَهُ اللَّهُ حُلَّةَ

صلوٰۃ بیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب مکرم کو اللہ تعالیٰ نے زیب تن کرایا ہے حلتہ

التَّوْحِيدِ وَالْإِصْطِفَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْبَسَ

توحید کا اور خلعت اصطفاء کی۔ اے اللہ صلوات بیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں پہنائے گئے

رِيَابَ الْعِزِّ وَسَوَابِغَ النِّعَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

حلتے عز و جاہ کے اور زرہیں نعمتوں اور انعاموں کی۔ اے اللہ صلوات بیج سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے

اِتَّخَفَ ثَوْبَ الْمَجْدِ وَكُتِبَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اڑھا مجد اور بزرگی کا لباس اور کتب خیر کی خلعت کو۔ اے اللہ صلوات بیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں

أَلْبَسَهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْجَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَرَيْنَ

اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی پوشاک پہنائی۔ اے اللہ صلوات و سلام بیج سیدنا محمد پر کہ مزین کیا ہے

اللَّهُ مَفْرُقَهُ وَجَيِّنَهُ بِتَاجِ التَّوْبِ وَالْإِكْلِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ نے ان کے سرناز کو اور جبین اقدس کو نور کے تاج اور اس کی آرائش سے۔ اے اللہ صلوات بیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَبَسَ حُلَّةَ الْخَلْعَةِ وَخَلْعَةَ الْخَلْعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ جنہوں نے زیب تن فرمایا خلعت کے لباس کو۔ اور مخلوق سے علیحدگی کی خلعت کو۔ اے اللہ صلوات بیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي فَازَ بِهِ مَنْ فَازَ وَتَدَاءَدَ عَلَى حُلَّةِ قُرَيْشٍ كَالطَّرَازِ اللَّهُمَّ

محمد پر کہ جن کے طفیل کامیاب ہوئے جو خوش قسمت کہ کامیاب ہوئے اور جم کر بیٹھ گئے قریش کے حلتہ پر مانند نقش و نگار کے۔

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ الْمَحَاسِنِ وَعَلَيْهِ

اے اللہ صلوات بیج سیدنا محمد پر کہ جن کے سرناز پر بلند کیا گیا محاسن اور خوبیوں کا تاج اور وہ اسی سرناز پر ہی

اِنْتَصَبَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ مِنْ

قائم ہو گیا۔ اے اللہ صلوات بیج سیدنا محمد پر کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مخلوق کو ان کے

لَبَسَ جَمَالَ نُورِهِ وَمِنْ مَلْبَسِ جَلَالِ ظُهُورِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جمال نور والے لباس سے اور ان کے جلال ظہور کے پہناوے سے۔ اے اللہ صلوات بیج سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ كَمَا لِه فِي الْكَمَا لَاتِ وَصَدَقْتِه فِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے کمال پر کمالات میں۔ اور صدقہ پر

الصَّدَقَاتِ وَسِرِّهِ فِي الْأَسْرَارِ وَلُغْتِهِ فِي اللُّغَاتِ وَعِبَارَتِهِ فِي الْعِبَارَاتِ

صدقات میں اور آپ کے ستر اور رمز پر اسرار و رموز میں۔ اور آپ کی لغت اور بولی پر لغات میں۔ اور عبارت پر عبارت میں

وَفِكْرِهِ فِي الْأَفْكَارِ وَدَرَجَاتِهِ فِي الدَّرَجَاتِ وَأُسْطُورَاتِهِ فِي الْأُسْطُورِ

اور آپ کے فکر پر افکار میں۔ اور آپ کے درجہ پر درجات میں اور آپ کے لکھے ہوئے شان اور قصوں پر قصص میں۔ اور

قَصَّتِهِ فِي الْقَصَصِ وَخَاصَّتِهِ فِي الْخَصَائِصِ وَاحْسَانِهِ فِي الْمُحْسِنِينَ

آپ کے بیان کئے ہوئے قصے پر قصص میں۔ اور آپ کے خاصے پر خواص میں۔ اور آپ کے احسان پر محسنین میں

وَنَهْدِهِ فِي الزَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور آپ کے زہد پر زاہدین میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ شَفَاعَتِهِ فِي الشَّفَعَاءِ وَمَحَبَّتِهِ فِي الْمُحِبِّينَ وَشُرَافَتِهِ

محمد کی آل پر اور آپ کی شفاعت پر شفاعت کرنے والوں میں۔ اور آپ کی محبت پر محبتوں میں اور شرافت پر

فِي الشُّرَفَاءِ وَنَجَابَتِهِ فِي النَّجَبَاءِ وَهَدَايَتِهِ فِي الْهُدَاةِ وَهَجْرَتِهِ فِي

شرفاء میں اور آپ کی حسبی و نسبی عمدگی پر نجابتوں میں۔ اور آپ کی ہدایت پر ہادیوں میں۔ اور آپ کی ہجرت پر

الْمُهَاجِرِينَ وَرِيَاضَتِهِ فِي الْمُرْتَضِينَ وَتَوْبَتِهِ فِي التَّائِبِينَ وَتَوْبِهِ فِي

مہاجرین میں۔ اور آپ کی ریاضت و مشقت پر اہل ریاضت میں۔ اور آپ کی توبہ پر توبہ کرنے والوں میں اور کپڑوں پر

الْأَثْوَابِ وَرَنْمَةِ ثِيَابِهِ فِي الرِّزْمَاتِ وَصَوَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ

کپڑوں میں اور آپ کے کپڑوں کی گھٹڑی پر گھٹڑیوں میں اور کپڑے مغفوتار کھنے کے طرف میں۔ اے اللہ صلوات و سلام اور

بَارِكْ وَعَظِّمْ وَكْرِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

برکت عطا فرما اور تعظیم و تحکیم فرما سیدنا محمد کی۔ اور سیدنا محمد کی

لِبَاسِهِ فِي الْمَلَابِسِ وَخِيَاطَةِ مَلْبُوسِيهِ فِي الْمَلْبُوسَاتِ وَحُلَّتِهِ فِي الْحُلَلِ

آل کی۔ اور آپ کے لباس کی لباسوں میں اور آپ کے ملبوسات کی ملبوسات پر ملبوسات میں اور آپ کے حلقہ و پوشاک پر پوشاکوں میں



وَوُزُرِ أُمَّتِهِ فِي الْأَوْتَارِ وَعَصِيَانِ أُمَّتِهِ فِي الْعَصَاةِ وَسَيْلِهِ فِي الْأَسْمَالِ

اور آپ کی اُمت کے بوجھ پر ایسے بوجھوں میں۔ اور آپ کی اُمت کے عصیان پر عاصیوں میں اور آپ کے بوسیدہ کپڑے پر بوسیدہ کپڑوں میں

وَسُمُولِهِ فِي السَّمُورِ وَسَرَاوِيلِهِ فِي السَّرَاوِيلَاتِ وَتُقَاتِهِ فِي الْأَتِقِيَاءِ

اور آپ کے پھٹے ہوئے کپڑوں پر پھٹے ہوئے کپڑوں میں اور آپ کی شوار پر شواروں میں اور آپ کے تقویٰ پر اہل تقویٰ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے

قَمِيصِهِ فِي الْقَمِيصِ وَآزَارِهِ فِي الْأَزْرَامِ وَمَرْقَعِهِ فِي الْمَرْقَعَاتِ وَبَطَانَتِهِ

قمیص پر قمیصوں میں اور تمہد پر تمہدوں میں اور آپ کی بیوندگی گوڑھی پر بیوندگی گوڑھوں میں اور آپ کے کپڑے کے استر

فِي الْبَطَائِنِ وَظَهَارَتِهِ فِي الظَّهَائِرِ وَكَفَّتِهِ فِي الْكَفَّاتِ وَجَبَّتِهِ فِي

پراستروں میں اور ابرہ پر ابروں میں اور کنارے اور حاشیے پر کناروں اور حاشیوں میں۔ اور آپ کے جیمہ پر

الْجَبَّاتِ وَقَبَائِعِهِ فِي الْقَبَائِعِ وَعَبَائِعِهِ فِي الْعَبَائِعِ وَزَّرَّهِ فِي الْأَزْرَارِ

جیموں میں اور قباء پر قباؤں میں اور عباؤں پر عباؤں میں اور آپ کے ہرٹن پر ہٹنوں میں

وَكَيْبِهِ فِي الْأَكْمَامِ وَذَيْلِهِ فِي الْأَذْيَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آپ کی ہر آستین پر آستینوں میں اور آپ کے دامن پر دامنوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى رُذْنِهِ فِي الْأَرْدَانِ وَجُرْبَانِهِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کی آستین پر آستینوں میں۔ اور آپ کے پھیلے پر

فِي الْجُرَابِ وَعُرْوَتِهِ فِي الْعُرَوَاتِ وَجَيْبِهِ فِي الْجُيُوبِ وَدِخْرِيصِهِ

تھیلوں اور زنبیلوں میں۔ اور آپ کے کاج پر کاجوں میں۔ اور گریبان پر گریبانوں میں اور تریز پر

فِي الدَّخْرِيصِ وَرْدَائِعِهِ فِي الْأَرْدَائِعِ وَبُرْدِهِ فِي الْبُرُودِ وَطَيْلَسَانِهِ

تریزوں میں اور آپ کی اوڑھنے والی چادر پر چادروں میں۔ اور آپ کی مینی چادر پر مینی چادروں میں اور طیلسان پر

فِي الطَّيْلَسَانِ وَنَطَاقِهِ فِي النَّطَاقِ وَمَرْطَهُ فِي الْمَرْوِطِ اللَّهُمَّ صَلِّ

طیلسانوں میں اور کمر بند پر کمر بندوں میں اور کمبل پر کمبلوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَنْزَلَ هَذِهِ السُّورَةَ
وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهَا
مِنْ دُونِهَا حَقًّا

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی تَاجِهِ فِي

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور آپ کے تاج پر

التَّيْجَانِ وَعِمَامَتِهِ فِي الْعِمَامَةِ وَمُنْدِيلِهِ فِي الْمَنَادِيلِ وَعَدَابَةِ

تاجوں میں اور عمامہ پر عماموں میں۔ اور رومال پر رومالوں میں۔ اور عمامہ کے نچلے

عِمَامَتِهِ فِي الْعَدَابَاتِ وَكُوْبُرِ عِمَامَتِهِ وَحَلْسِيهِ فِي الْاَحْلَاسِ وَعِظَانِهِ

شملہ پر شملوں میں۔ اور آپ کی دستا مبارک کے ہر بیچ پر۔ اور آپ کے زمینی بچھونے اور ٹاٹ پر ان بچھونے میں۔ اور پردے پر

فِي الْاَعْطِيَةِ وَعَصِيَّتِهِ فِي الْعَصَمِ وَلِحَافِهِ فِي اللَّحْفِ وَقَطِيْفَتِهِ فِي

پردوں میں اور آپ کے گلوبند پر گلوبندوں میں اور آپ کے لحاف پر لحافوں میں اور سوتری چادروں پر ان

الْقَطَائِفِ وَدُرْعِهِ فِي الدَّرُوعِ وَنَعْلِهِ فِي النَّعَالِ وَخُصْفِهِ فِي

چادروں میں اور آپ کی زرہ پر زرہوں میں۔ اور جوتے پر جوتوں میں اور آپ کے جوتوں کو بیوند لگانے پر

الْخِصَافِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

بیوند لگانے والوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی قِبَالِهِ وَشِرَاكِهِ وَخُفِّهِ فِي الْخِفَافِ وَسَرِيْرِهِ فِي السَّرِيْرِ

محمد کی آل پر اور آپ کے جوتے کے اگلے تسمے پر اور پھلے تسمے پر اور آپ کی تحف پر خفوں میں اور چارپائی پر چارپائیوں

وَقَائِمَةِ سَرِيْرِهِ فِي الْقَوَائِمِ وَرَسَنِ سَرِيْرِهِ فِي الْاَرْسَانِ وَخَشَبِ

میں اور چارپائی کے ہر پائے پر اس کے پائیوں میں۔ اور آپ کی چارپائی کے ریسے پر رسوں میں۔ اور آپ کی چارپائی کی ہر کڑی

سَرِيْرِهِ فِي الْاَخْشَابِ وَمَسَامِيْرِهِ فِي الْمَسَامِيْرِ وَاسْرِيْكَتِهِ

پر کڑیوں میں۔ اور اس چارپائی کے ہر کیل پر کیلوں میں۔ اور اوٹ والی کرسی پر

فِي الْاَسْرَاكِ وَمَسْحِهِ فِي الْاَمْسَاحِ وَحَصِيْرِهِ فِي الْحُصْرِ وَفَرَاشِهِ فِي

کرسیوں میں۔ اور آپ کے بوریا پر بوریوں میں اور چٹائی پر چٹائیوں میں اور بچھونے پر

الْفُرُشِ وَاَدِيْمِ فَرَاشِهِ فِي الْفُرُشِ وَحَشُوْفَرَاشِهِ فِي الْحَشُوَاتِ

بچھونوں میں۔ اور بچھونے کے چڑے پر ان بچھونوں میں۔ اور اس کی پری پر بچھونوں کی پریوں میں

وَمَحْمَلِهِ وَشُعْدَفِهِ فِي الشَّغَادِفِ وَشِبْرِيهِ فِي الشَّبْرِيَّاتِ وَ

اور آپ کے محل پر اور گدے پر گدوں میں اور بچھونے پر بچھونوں میں اور تکیہ پر تکیوں میں اور

نَمْرَقَتِهِ فِي النَّهَارِقِ وَزِمْرِيهِ فِي الزَّمْرَانِي وَوَسَادَتِهِ فِي الْوَسَائِدِ وَ

مسند ناز پر مسندوں میں اور آرامگاہ پر آرامگاہوں میں اور

مَجْلِسِهِ فِي الْمَجَالِسِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّغْرِبِ اَسْرَارِ

آپ کے بیٹھنے کی جگہ پر ان جگہوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو عمل غروب و خفا ہیں اسرار

الذَّاتِ وَشُرُقِ اَنْوَارِ الصِّفَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ذات کے لیے اور محل طلوع و اشراق ہیں انوار صفات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ التَّجَلِّيَّاتِ بِاَنْوَارِ السُّبْحَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کے مظہر تجلیات ہیں بسبب انوار نوازل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْمُصَلِّيِّ فِي جَمْعِ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب اچھی طرح تعریف کرنے والے ہیں جمع

الْجَمْعِ بِاَحْمَدَ وَالْقَارِي بِفُرْقَانِ الْفَرَقِ بِمُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

الجمع کے مقام میں احمد ہو کر اور قرأت کرنے والے ہیں فرقان میدی جو فرق کر نواہی ہے مالک و ملوک اور عابد و مجبور ہیں محمد ہو کر۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِمِ فِي السُّلْكِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو قائم کرنے والے ہیں ملک خداوندی میں

بِشُرْعِهِ وَجَلَالِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

اپنی شریعت اور جلالت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاحِمِ فِي الْمَلَكُوتِ بِرَحْمَتِهِ وَجَمَالِهِ اَللّٰهُمَّ

کی آل پر جو رحم فرمانے والے ہیں عالم اعلیٰ و اسفل میں اپنی رحمت اور جمال کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُوْحِ جَنَّتَيْنِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو روح ہیں اجسام اسرار



الْأَسْرَارِ وَكُورِ صُورِ الْأَنْوَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے لیے اور لوح ہیں انوار کی صورتوں کے ظہور کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ غَيْبِكَ الْكَامِلَةِ وَخَلِيفَتِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا تیرے غیب کے لیے کامل آنکھ ہیں اور تیرے خلیفہ مطلق ہیں

الشَّامِلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

رحم کی خلافت سب کائنات کو شامل ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ تُوْبْرًا وَسِرًّا الْأَبْهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد کی آل پر جو محبوب مکرم تیرے نور ہیں اور تیرے خوبترین راز ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْأَعْلَى وَصَفِيكَ الْأَرْكَانِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ہمارے آقا تیرے حبیب اعلیٰ ہیں اور تیری پاکیزہ ترین منتخب ہستی ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا تیرے نبی ہیں اور

الْمَلِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

در بانجی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

رَحْمَتِكَ الْمَفَاضِلَةِ الْوَاصِلَةِ مِنْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو ہمارے آقا تیری سراسر قابل محترمیت ہیں جو ملنے والی ہے تیری طرف سے (ساری مخلوقات کو) اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَافِعِ الْبَلِيَّاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَجِزُ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب مکرم بلیات و مصائب کے دور کرنے والے ہیں (بازن اللہ) اے اللہ میں تحفظ و پناہ حاصل کرتا ہوں

بِكَ وَأَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِكَ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ

تیرے ساتھ اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری ذات کریمہ اور تیری سلطنت عظیمہ کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے

شَيْءٍ خَلَقْتَ وَأَحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُمْ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ

جو تو نے پیدا کی اور میں تمکبانی طلب کرتا ہوں تیری ان کے شر سے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ عظیم کی



الْغُرُقُ وَالْحَرْقُ وَالسَّرِقُ وَالْقَتْلُ وَالْهَدْمُ وَالْخَسْفُ وَالزَّلَازِلُ

عزق ہونے اور جلنے سے اور چوری و قتل سے اور دہکرنے اور زلزلہ و خسائے جانے سے اور زلزلوں سے

وَالرَّمَالُ وَالصَّيْحَةُ وَالْفِتْنُ وَالصَّوَاعِقُ وَالْجُنُونُ وَالْجُدَامُ

اور ریت کے (ٹیلوں کے نیچے) دب جانے سے اور زوردار آواز کے عذاب سے اور فتنوں سے اور بھلے کے کڑکوں سے اور جنون و کوڑھ

وَالْبَرَصُ وَأَكْلُ السَّبْعِ وَمِيتَةُ السُّوءِ وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ يَا فِي

سفید داغوں والی بیماری سے اور درندوں کا لقمہ بننے سے اور برے طریقہ پر مرنے سے اور تمام اقسام کی بلیات و مصائب

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِكَ تَحَصَّنْتُ

دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اے ارحم الراحمین۔ اے زندہ و پائندہ ہستی تیرے ساتھ ہی حفاظت اور بچاؤ حاصل کیا میں نے

فَارْحَمْنِي بِحِمَايَةِ كِفَايَةِ وَقَايَةِ حَقِيقَةِ بَرِّهِانِ حُرِّزِ بَرِّهِانِ

اللہ ارحم فرما مجھ پر ساتھ حمایت و کفایت فرمانے اور تحفظ و وقایت مہیا کرنے کے بسم اللہ کے برہان حقیقت اور

بِسْمِ اللَّهِ وَأَدْخَلْنِي يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ بِمَكْنُونٍ غَيْبٍ سِرِّ دَائِرَةِ

برہان حفظ و امان کا۔ اور داخل فرما مجھے اے اول اے آخر مکنون غیب اور سر مخفی میں اس خزانہ امان کے

كُنْزِمَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَأَسْئَلُ عَلَى يَا

دائرہ سے کہ جو اللہ نے چاہا (وہی ہوا) نہیں قوت و طاقت مگر ساتھ توفیق بخشنے اللہ العالی شان عظیم کے اور لگا مجھ پر اے

حَلِيمٍ يَا سِتَّارَ كَنْفٍ سَتَّرَ حِجَابَ صَيَانَةِ نَجَاةٍ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ

حلیم اے ستار کنارا اور پہلو اس سترو حجاب کا جو اللہ کے اس قول کی بدولت حاصل ہونے والی حفاظت اور نجات کا ہے یعنی

اللَّهُ وَابْنَ يَأْمُحِيطُ يَا قَادِرَ عَلَى سَوْمٍ أَمَانَ إِحَاطَةِ مَجْدِكَ وَ

چنگل مارو سبھی مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی سے اور تعمیر فرما مجھ پر اے محیط اے قادر فصیل اور شہر پناہ اپنی مجد بزرگی کے امان و احاطہ والی اور

سَرَادِقِ عِزِّ عَظَمَتِكَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَعُدْنِي

نیچے اپنی عزت و عظمت کے۔ وہی سب سے بہتر صورت امان کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہے اور پناہ دے مجھ

يَا رَقِيبٌ يَا مُجِيبٌ وَاحْرُسْنِي فِي نَفْسِي وَدِينِي وَأَهْلِي وَمَالِي

اے نگہبان اے دعا میں قبول کرنے والے اور میری حراست و نگرانی فرما میری جان۔ میرے دین۔ میرے اہل اور مال



وَوَلَدِي وَدَارِي بِكَلَاثَةِ إِعَادَةِ إِغَاثَتِهِ وَكَيْسٍ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ

و اولاد میں اور میرے مکان میں ساتھ ایسی نگہبانی اور پناہ اور فریاد رسی کے جزا تیرے اس قول میں ہے اور نہیں وہ ان کو ضرر دینے والا ذرہ بھر مگر ساتھ

اللَّهِ وَقِنِي يَا مَانِعُ يَا نَافِعُ يَا دَافِعُ بِأَسْبَابِكَ وَأَيَاتِكَ وَكَلِمَاتِكَ

اللہ کے اذن کے اور مجھے بچالے دور رکھے والے (میرے اے نفع دینے والے اے دفع کرنے والے (مصالحے) اہل بیت اپنے اہم آیات اور تمام کلمات کے

مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَالسُّلْطَانِ فَأَمَى ظَالِمٍ أَوْ جَبَّارٍ بَغِيٍّ عَلَيَّ أَخَذَتْهُ

شیطان اور حاکم وقت کے شر سے پس جو ظالم اور جابر و سرکش مجھ پر یعنی وعدہ ان سے کام لے اس کو اپنی پلیدی میں لے لے ایک عظیم

عَاشِيَةٍ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ وَنَجِّنِي يَا مُدِلُّ يَا مُنْتَقِمُ مِنْ عَبِيدِكَ

ٹھانکنے والی (موج) اللہ کے عذاب کی۔ اور نجات عطا فرما مجھے اسے ذلت دینے والے۔ اے انتقام لینے والے اپنے ظلم پیشہ نبیوں

الظَّالِمَةِ الظَّالِمِينَ الْبَاغِينَ عَلَيَّ وَأَعْوَانِهِمْ فَإِنَّ هَمِّي أَحَدٌ مِنْهُمْ

سے جو مجھ پر ظلم و تعدی کرتے والے ہیں اور ان کے معاونین سے بھی بچا اگر ارادہ کرے میرے ساتھ ظلم کا) کوئی بھی ان میں سے

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ أَعِيذُ حَامِلَ هَذَا الْكِتَابِ وَصَاحِبَهُ وَقَارِئَهُ

اے اللہ اے میرے پروردگار میں پناہ میں دیتا ہوں اس کتاب کے اٹھانے والے اور اس کو ساتھ رکھنے والے اور اس کے پڑھنے والے کو

وَكَاتِبَهُ بِالْأَمْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى سُرَادِقِ الْعَرْشِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور کتابت کرنے والے کو اس اصل مکتوب کی پناہ میں جو لکھا ہوا ہے عرش اعظم کے حیموں پر یعنی بے شک شان یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوا حق پر

الْغَالِبِ الَّذِي لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ وَلَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبٌ وَأَعِيذُهُم بِالْحَيِّ

اللہ جو کہ (سب پر) غالب ہے غالب نہیں آسکتی اس پر کوئی شئی اور نہ بھاگ کر بچاؤ حاصل کر سکتا ہے اس سے کوئی بھاگنے والا اور میں ان سب کو پناہ میں دیتا ہوں اس

الَّذِي لَا يَمُوتُ وَبِالْقِيَوْمِ الَّذِي لَا يَنَامُ وَبِالْكُرْسِيِّ الَّذِي لَا

زندہ اور ابدی ذات کی جس پر کبھی موت نہیں آئے گی اور اس پائندہ اور سرمدی ذات کی پناہ میں جو نہیں سوتا۔ اور اس کرسی کی پناہ میں جو کبھی

يَزُولُ وَبِالْعَرْشِ الَّذِي لَا يَنَامُ وَأَعِيذُهُم بِأَسْبَابِ الْمَكْتُوبَةِ

زوال پذیر نہیں ہوگی۔ اور اس عرش کی پناہ میں کہ نہیں سوتا رمالک اس کا اور میں ان سب کو پناہ میں دیتا ہوں ان اسما کے جو لکھے ہوئے ہیں

فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ وَأَعِيذُهُم بِتِسْعِ الْآيَاتِ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَى مُوسَى

لوح محفوظ میں۔ اور میں انھیں پناہ میں دیتا ہوں ان نو آیات کے جو نازل ہوئیں موسیٰ کلیم علیہ السلام پر۔



بَطُورِ سَيْنَاءَ وَأَعِيدُ هُمْ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ نَازِرَةٍ وَأَذِنَ سَامِعَةٍ وَ

طوریستیا پر۔ اور پناہ میں دیتا ہوں ان سب کو ہر دیکھنے والی آنکھ۔ سننے والے کان اور

السِّنَةِ نَاطِقَةٍ وَأَقْدَامَ مَاشِيَةٍ وَقُلُوبٍ وَأَعْيَةٍ وَأَنْفُسٍ كَافِرَةٍ

بولنے والوں زبانوں سے۔ چلنے والے قدموں اور محفوظ رکھنے والے دلوں اور کافر نفس سے

وَيَمِينٍ لَأَرْزَمَةَ ظَاهِرَةً أَوْ بَاطِنَةً وَأَعِيدُ هُمْ مِمَّنْ يَعْمَلُ الْخَطَايَا وَيَهُمُّ

اور لازم آنیوالی قسم سے ظاہر ہو یا مخفی ہو۔ اور پناہ میں دیتا ہوں ان سب کو ان لوگوں سے جو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں یا ان کا

بِهَامِنٌ ذَكَرُوا أَنْتِي وَأَعِيدُ هُمْ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَقْدٍ هُمْ وَمَكْرِهِمْ وَسَاحِحِهِمْ

ارادہ کرتے ہیں تمہارے ناموں یا عمرتیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں ان سب کو ان کے اعداء کے، منتروں سے اور مکر سے اور ان کے مہتیا روں

وَيَبْرِيقُ أَعْيُنَهُمْ وَحَرَاجِسَادِهِمْ وَمِنْ شَرِّ الْجِنَّ وَالشَّيَاطِينِ وَ

ان کی آنکھوں کی چمک سے اور ان کے اجسام کی حرارت سے اور جن و شیاطین کے شر سے اور

التَّوَابِعِ وَالسَّحَرَةِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ تَكُونُ فِي الْجِبَالِ وَالْجِيَاضِ وَالْخُرَابِ

(عاطلوں کے) تابع جنوں سے اور جادو گروں کے شر سے اور ہر اس چیز کے شر سے جو پہاڑوں میں۔ حوضوں اور تالابوں میں یا

وَالْعِمْرَانِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَكُونُ فِي الْبِحَارِ وَالْبَرَارِيِّ وَالْمَفَاوِزِ وَالْبُلْدَانِ

ویرانے اور آبادیوں میں اور ہر اس چیز کے شر سے جو سمندروں میں یا خشکیوں میں۔ جنگلات و بیابان اور شہروں میں۔

وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ النَّوْأِ وَيُسٍ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الطُّيُورِ وَسَاكِنِ الْقُبُورِ وَ

اور نصاریٰ کے قبرستانوں میں رہنے والوں سے اور پرندوں کے اندر رہنے والوں کے شر سے۔ اور قبروں میں رہنے والوں اور

سَاكِنِ الطَّرِيقِ وَأَعِيدُ هُمْ مِنْ شَرِّ كُلِّ غُولٍ وَغَوْلَةٍ وَسَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ

راستوں پر رہنے والوں کے شر سے۔ میں انہیں پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے، ہر غول اور چھلاوے سے مذکورہ یا مونت اور جادو گروں اور

وَمِنْ شَرِّ الطَّيَارَاتِ وَأَعِيدُ هُمْ بِأَهْيَا شَرِّ أَهْيَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ

عورزوں سے اور اڑنے والے جنوں کے شر سے اور میں انہیں پناہ میں دیتا ہوں اہیا شراہیاء کی تیرے لیے ہی حمد ہے اور طرف تیری ہی

المُشْتَكِي وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

شکایت ہے حوادث زمان سے اور تو ہی حدود و تو متین طلب کیا جانے والا ہے (ہر ایک کا) اور تو ہی ہر چیز پر بہت ہی قدرت والا ہے۔ اے اللہ مخلوق

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاسِطَةِ اَهْلِ الْحُبِّ وَقِبْلَةِ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو واسطہ ہیں تیرے وصل کیلئے اہل محبت کا اور قبلہ و مرکز توجہ ہیں مقام قرب

اهل القرب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد

والوں کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

لوح اسرار القيومية وروح المشاهدة الملوكة تيبة اللهم صل و

جو اسرار قیومیت کے لیے لوح (نقش و نگار) اور ملکوت کے مشاہدہ کے لیے روح ہیں (اہل مشاہدہ کی) اے اللہ صلوٰۃ و

سلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد ترجمان الازل والابد

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ہمارے آقا ترجمان ہیں ازل اور ابد کے

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد لسان الغيب

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محرم اسرار خداوندی ترجمان اور سبب انظار ہیں اس

الذي لا يحيط به احد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

غیب کا جس کا احاطہ نہیں کر سکتا کوئی شخص۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

ال سيدنا محمد صورة الحقيقة الفردانية اللهم صل وسلم على

جو محبوب جسم صورت اور منظر ہیں حقیقت احدیہ فردانیہ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد الصورة المزينة بانوار الرحمانية

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا ایسی صورت کے مالک ہیں (جو مزین اور آراستہ ہے انوار رحمانیہ کیساتھ

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد انسان

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو اللہ تعالیٰ کے

الله المختص بالعبادة عنه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و

ایسے انسان ہیں جو مختص کر دیے گئے ہیں عبادت خداوند تعالیٰ کے ساتھ اس کی طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

على اهل سيدنا محمد سر القابلية الالهية الامكانية المتلقية منه

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سر اور راز مخفی ہیں اس خدا واد قابلیت و استعداد کا (جو مخلوقات کے احکام مکان میں ہے اور حاصل ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کی



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَاطِنِ

طرح۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کم باطن ہیں۔ (اپنی

وَالظَّاهِرِ بِتَفْعِيلِ التَّكْمِيلِ الذَّاتِي فِي مَرَاتِبِ قُرْبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

حقیقت کے اعتبار سے) اور ظاہر ہیں (اپنی صورت جہانیا اور برائین رسالت کے اعتبار سے) بسبب اثر انگیزی اس تکمیل ذاتی کے جو اللہ نے فرمائی ہے، آپ کے

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَايَةَ طَرْفِ الدُّورَةِ

مراتب قرب میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو رسول منظم کونایت اور مقصد آخری ہیں

التَّبَوُّيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دور تبوت کا۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو وسیلہ ایجاد

الْمُتَّصِلِ بِالْأَوَّلِ نَظْرًا وَمُدَادًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

متصل ہیں ساتھ اول حقیقی اور قدیم ذات کے از روئے نظر عنایت اور امداد و اعانت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِدَايَةِ الْإِنْفِعَالِ الْوُجُودِيِّ إِرْشَادًا وَرِشَادًا

اور سیدنا محمد کی آل پر جو مخلوق اول کہ نقطہ آغاز و ابتداء ہیں انفعال و وجودی کا اور نتیجہ اول ہیں تاثیر خداوندی کی اثر پذیری کا از روئے رہنمائی اور پہنچتی ہستی کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَيْمِنَ اللَّهِ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا امین ہیں

عَلَى سِرِّ الْأُلُوْهِيَّةِ الْمُطْلَسِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الوہیت کے اس راز مخفی کے جس تک رسائی سے مخلوق کو دور رکھا گیا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَفِيظُهُ عَلَى غَيْبٍ لَا هُوْتِيَّةَ الْمَكْتُمِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محمود خلاق و خالق محافظ ہیں اللہ کے لاہوتی غیب و اسرار کے جو اچھی طرح چھپا دئے گئے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب اس قدر معنی حقیقت والے ہیں کہ نہیں

تُدْرِكُ الْعُقُولُ الْكَامِلَةَ مِنْهُ إِلَّا مَقْدَارًا تَقْوَمُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الْبَاهِرَةُ

احاطہ کرتے کامل ترین عقول ان کی کسی شان کا مگر اتنے قدر کا کہ قائم اور موجود ہو اس پر روشن دلیل اور حجت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد کی آل پر کہ جس راز مخفی کو

لَا تَعْرِفُ النَّفُوسُ الْعَرَشِيَّةُ إِلَّا مَا يُتَعَرَّفُ لَهَا مِنْ لَوَامِعِ أَنْوَارِهِ

نہیں پہچانتے عرش نشین نفوس مگر اسی قدر کہ پہچان کرانی جاتی ہے انہیں آپ کے روشن انوار کے

الزَّاهِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عکس اور چمک سے لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو قبلہ موجودات

مُنْتَهَى هِمَمِ الْقُدْسِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

منتہی اور مقصد حقیقی ہیں قدسیوں کے قصد و ارادوں کا لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ بَدَأَ بِهِ مِمَّا فَوْقَ عَالَمِ الطَّبَائِعِ مَرْمِي أَبْصَارِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس مخلوق اول سے آغاز ہوا عالم طبائع اور ماویات سے مافوق عالم کا جو منتہی مقصود ہے موجدین کی

الْمُؤَجِّدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نظروں کا۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ نور مطلق ہیں

إِلْتِبَاسِ الْمَطْلُوقِ اللَّهُمَّ أَحْرِقْ عَوَارِضَ خِيَالِي مِنْ نَارِ عَشْقِكَ وَشَوْقِي

(باعبار وجود اول کے) لے اللہ جلاؤں اپنے عشق کی آگ سے ان رکاوٹوں اور موانع کو جو پیش آنیوالے ہیں میرے خیال اور

إِلَى جَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَقَطِّعْ حِجَابًا مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَنُورِ قَلْبِي بِنُورِ

شوق کو جو طوت تیرے جلال اور جمال ذات کے ہے۔ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس حجاب کو جو میرے اور تیرے درمیان ہے۔ اور منور فرما میرے دل کو

مَعْرِفَتِكَ وَأَرْزُقْنِي كَأْسًا مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ وَخَلْعَةَ وَصَالِكَ وَ

اپنے نور معرفت اور عطا فرما مجھے جام اپنے شراب محبت سے اور مشرف فرما مجھے اپنے وصال کی خلعت اور اپنی لقا کے

تَشْرِيفِ لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ

اعزاز سے۔ لے جلال و اکرام کے مالک۔ لے اللہ کھول دے میرے دل کے کان اپنے ذکر سننے کیلئے

وَأَرْزُقْنِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

اور مجھے نصیب فرما اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت اور اپنی کتاب پر عمل لے اللہ لے اللہ

يَا اللَّهُ وَصَبَّ عَلَيْنَا مِنْ أُنَانِيْبٍ مِيَانِيْبٍ التَّوْفِيْقِ فِي رَوْضَاتِ

اے اللہ۔ اور زور سے پلٹ ہم پر اپنی توفیق کے پر نالوں کی نالیوں سے (توفیق کا آب حیات) سعادت مندوں کے

السَّعَادَاتِ اِنَاءَ لَيْلِكَ وَاَطْرَافِ نَهَارِكَ وَاَغْمِسْنَا فِي اَحْوَاضِ

باغات میں رات کی ہر آن میں اور دن کے ہر حصے میں۔ اور ہمیں ڈبو دے ان تالابوں اور حوضوں میں

سَوَاقِيْ مَسَاقِيْ بَرِّبَرِكَ وَمَرَحْمَتِكَ وَقَيِّدْنَا بِقِيُوْدِ السَّلَامَةِ عَنِ

جو تیرے خاص احسان اور رحمت کے دریا سے پھرتے والی نروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور مقید فرما ہمیں سلامتی کی بیڑیوں کے

الْوُقُوْعِ فِيْ مَعْصِيَّتِكَ يَا اَوَّلُ يَا اٰخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا قَدِيْمُ

ساتھ اپنی نافرمان برداری کے (گڑھوں میں) اگرنے سے۔ اے اول۔ اے آخر۔ اے ظاہر۔ اے باطن۔ اے قدیم

يَا قَوِيْمُ يَا مُقِيْمُ يَا مَوْلَانِيْ يَا قَادِرُ يَا مَوْلَانِيْ يَا غَافِرُ يَا لَطِيْفُ يَا

اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ اے قائم رکھنے والے (سموات وارض) کے اے میرے مولیٰ۔ اے قادر۔ اے میرے مولیٰ۔ اے بخشنے والے۔ اے

خَيْرُ اللّٰهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لطیف۔ اے خیر رکھنے والے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِيْ لَا يَتَجَلَّىٰ اَشْعَةُ اللّٰهِ لِقَلْبِ الْاِمْنِ مِرَاةَ سِرِّهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ

نہیں پر تو نکلن اور نمایاں ہوتیں اللہ کے نور ذات کی تجلیات کسی دل پر مگر اسی محبوب آئینہ راز سے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ لَا تَرْتَمُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ نہیں نغمہ سرا ہوتے

الْمَزَامِيْرُ عَلٰى لِسَانِهِ اِلَّا بِرَتَاتِ ذِكْرِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

مزامیر اور آلات غنا آپ کی زبان اقدس پر مگر ذکر باری تعالیٰ کے نعمات کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ الْوَتْرُ الشَّفِيْعُ الْمَحَقَّقُ الْمَحْكُوْمُ بِالْجِهَادِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا مرتبہ ذات میں ایکتا ہیں اور گناہگاروں کیلئے (ازراہ رحمت) شفیع ہیں مرتبہ تحقیق پر فائز ہیں

عَلٰى كُلِّ مَنْ اَدْعٰى الْكُفْرَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اور حکم دے گئے ہیں جہاد کا ہر اس شخص کے خلاف جو کفر کا دعویٰ رکھتا ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْرِفَةِ اللّٰهِ مَجْرَدَةً فِي نَفْسِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد کی آل پر جو رشد کامل کہ سراسر اللہ تعالیٰ کا عرفان ہیں اور واقع میں (سب مخلوق اور ان کے علاقے سے) الگ تھلک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَرْعِ الْاِحْتِثَانِ الْمُبْتَرَعِ عَرِيٍّ فِي غَايَتِهِ بِمَا يَبْدُو بِهِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر جو کہ (باغ قدس) کی تازہ شاخ ہیں جو نشوونما پانے والی ہے اپنی غایت تک رسائی کیلئے بسبب اس کے جو ہر وقت تیار ہے

كُلِّ اَصْلِ اَبَدِيٍّ حَيْثُ نَزَلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اسے ہر اصل ابدی وقت نشوونما میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ثَمْرَةَ شَجَرَةِ الْقِدَامِ وَنَسْحَةَ الْوُجُوْدِ وَالْعَدَمِ اَللّٰهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ پھل ہیں درخت قدم کا اور نسختہ کاملہ جامعہ ہیں جن سے ایجاد و اعدام کا آغاز ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَ

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقائے خلق اللہ تعالیٰ کے عبد خاص ہیں اور

نِعْمَ الْعَبْدُ الَّذِي بِهِ كَمَالُ الْكَمَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بہت اچھے عبد ہیں انہیں کی بدولت کمال نے کمال پایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَابِدِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِلَا اِتِّحَادٍ وَلَا اِحْلَاطٍ وَلَا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ساتھ اللہ کی توفیق مخصوص کے بغیر اتحاد و احلول کے اور بغیر

اِتِّصَالٍ وَلَا اِنْفِصَالٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اتصال و انفصال کے (بلکہ ایسے ربط سے جو تصور سے بالاتر ہے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِيَ اِلَى اللّٰهِ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اَللّٰهُمَّ

محمد کی آل پر جو کہ بلانے والے ہیں (مخلوق کو) طرف اللہ تعالیٰ کے (اور خود بھی) راہ راست پر ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْاَنْبِيَاءِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ انبیاء کے نبی ہیں

وَمِيْمَةِ الرُّسُلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَل

اور رسل کرام کے فیض رسال ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ مِنْ حَيْثُ كَمَا أَنْتَ وَهُوَ عَبْدُكَ مِنْ حَيْثُ

محمد کی آل پر جو کہ تیرے عبد خاص اور طاعت گزار ہیں اس عبدیت و طاعت کے ساتھ جو تیری ذات والا کے لائق ہے اور وہ تیرے عبد کامل

كَافَّةِ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں از روئے تیرے تمام اسماء و صفات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمَالَ التَّجَلِّيَاتِ الْإِخْتِصَاصِيَّةِ وَجَلَالَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سراسر جمال ہیں (تیری) مخصوص و مختص تجلیات کا۔ اور سراپا جلال ہیں

التَّنَزُّلَاتِ الْأِصْطَفَائِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تنزلات اصطفائیہ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَاطِنِ بِكَ فِي غِيَابَاتِ الْعِزِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ پوشیدہ اور مخفی ہونے والے ہیں تیری اعانت سے تیرے عز و اکرام کے پرووں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الظَّاهِرِ بِبُورِكَ فِي

اور سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ ظاہر ہونے والے ہیں تیرے نور کی بدولت

مَشَارِقِ الْمَجْدِ الْأَفْخَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بلند مرتبت مجد اور بزرگی کے مطالع ظہور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَزِيزِ الْحَضْرَةِ الصَّمِدِيَّةِ وَسُلْطَانَ الْمَهْلِكَةِ الْأَحْدِيَّةِ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ بارگاہ صمدیت میں معزز و مکرم ہیں اور مملکت احدیت و خداوندی کے بادشاہ ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَائِرَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اطہار پر جو آقا کہ دائرہ ہیں

الْإِحَاطَةِ الْعُظْمَى وَمَرْكَزِ مَحِيطِ الْفَلَكَ الْأَسْمَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

عظیم احاطہ والا جس کے گھیرے میں سب کائنات ہے اور مرکز ہیں بلند مرتبت فلک محیط اور فلک الافلاک کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ سَتَرْتَهُ بِمَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کو تو نے چھپا دیا ہے ان پردوں میں جو نہیں نمایاں واسطے کسی کے

مَنْ خَلَقَكَ وَفِي بَاطِنِهِ لَكَ أَسْرَارٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

تیری مخلوق سے سوال کے اور ان کے باطن میں تیرے اسرار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ كَحَلَّتْ بِنُورِ قُدْسِكَ مُقَلَّتْ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی آنکھ کو سرملین کیا ہے تو نے اپنے نور قدس کے ساتھ

قَرَأِي ذَاتِكَ الْعَلِيِّ جَهَارًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

پس دیکھا انہوں نے تیری ذات کو علانیہ رو برو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ بِهِ نَطَقَتْ أَسْرَارُكَ وَكَمُلَ بِهِ جَلَالُكَ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی وساطت سے بولنے لگے تیرے اسرار اور کمال پذیر ہوا ساتھ ان کے تیرا جلال (عالم ظاہر میں)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

الَّذِي مِنْهُ ظَهَرَتْ أَنْوَارُكَ وَبَرَزَتْ كَمَا لَا تُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس تیرے منہ سے ظاہر ہوئے تیرے انوار اور آشکار ہوئے تیرے کمالات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسْتَوِي تَجَلَّىٰ عَظَمَتِكَ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا موزوں تر مقام وصل ہیں تیری سخی عظمت

وَرَحْمَتِكَ وَحُكْمِكَ فِي جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اور ظہور رحمت کے لیے اور تیرے حکم کی جلوہ گری کے لیے تیری تمام مخلوقات میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ فَلَقْتَ بِكَلِمَةِ الْخُصُوصِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ پھاڑا تو نے خصوصیت محمدیہ والے کلمہ کے ساتھ

بِحَادِ الْجَمِيعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سب کے راستہ میں سائل اسمندروں کو (انہیں پار لگانے کے لیے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مَنْ مَنَنْتَ مِنْهُ مَعْرِفَتَكَ وَجَمَالَكَ وَخَطَابَكَ لِلْقَلْبِ وَالْبَصَرِ وَالسَّمْعِ

کہ جس وسیلہ نطق کے طفیل احسان و انعام کیا تو نے اپنی معرفت اور جمال و ہمکلامی کا ہر قلب و نظر اور سب کانوں کے لیے



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا أَحْمَدُ

لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو بہت حمد و ثناء کرنے والے

الْأَحَدِي الْحَامِدِ الْمُحَمَّدِيِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُتَوَسِّلًا بِهَذَا الْحَامِدِ

ہیں ذات بے ہمتا و میتا کی اور خود صاحب حمد ہیں اور بہت ہی حمد کئے ہوئے ہیں۔ لے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے توسل کرتے ہوئے ساتھ

الْحَمْدِ الْمَحْمُودِ مُحَمَّدٍ أَنْ تَشْفِيَنِي وَتَقْوِيَنِي شِفَاءً بَدَنِيًّا قَلْبِيًّا وَ

اس ذات کے جزیری حمد کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ حمد کر نیوالے ہیں نیز حمد و ثناء کئے ہوئے ہیں اور بار بار حمد و ثناء کئے ہوئے ہیں کہ تو مجھے شفاء

قُوَّةَ ظَاهِرِيَّةٍ وَبَاطِنِيَّةٍ وَشِفَاءً لِلظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ عَامًّا لِلصُّورِ

اور تقویت عطا کرے شفاء ایسی جو بدن اور قلب کی ہو۔ اور قوت ظاہر اور باطن کی اور شفاء واسطے ظاہر کے اور باطن کے جو شامل ہو صورتوں کو بھی

وَالْمَعَانِي وَتَجْعَلَنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ فِي عِبَادَتِكَ وَعِبُودِيَّتِكَ وَعِبُودِيَّتِكَ

اور معانی کو۔ اور بناؤ مجھے طویل عمر والا اپنی عبادت کیلئے۔ اور اپنی عبادت کو مضی حصول شرف اور لطف اندوزی کیلئے سر انجام دینے کیلئے اور عبادت

وَتُبَيِّنَنِي عَلَى الطَّرِيقَةِ الْخَاصَّةِ إِلَى سَانِيَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ

کو جزاء و عطا سے بالاتر ہو کر صرف اپنے ذاتی استحقاق کی خاطر بجالانے کیلئے اور مجھے ثابت قدم رکھے اور پر طریقہ خاصہ السانیہ محمدیہ کے اور اس معرفت کے جس

التَّوْحِيدِيَّةِ الْكَمَلِيَّةِ الْأَجْمَعِيَّةِ الْأَحَدِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَتُبَيِّنَنِي عَلَى

کا تعلق کامل ترین توحید سے اور احدیت احمدیہ سے ہے اور مجھے ثابت قدم رکھ اور پر

طَلَبِ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْكَمَالُ وَفَوْقَ الْكَمَالِ أَوْصَلَنِي

طریقہ محمدیہ کی طلب و آرزو کے جو کہ عین کمال ہے اور سب کمالات سے بلند و بالا مرتبہ ہے اور مجھے واصل فرما

إِلَيْهَا بِحُرْمَتِهِ وَاجْعَلَنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ فِي اتِّبَاعِ شَرْعِكَ وَسُنَّةِ حَبِيبِكَ

اس طریقہ تک بطفیل عزت و حرمت محبوب کے۔ اور بناؤ مجھے عمر دراز والا اپنی شریعت اور اپنے حبیب کی سنت کی اتباع کیلئے

وَاهْدِنِي صِرَاطَ الْمَعْرِفَةِ الْكَامِلَةِ الذَّوْقِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ اللَّهُمَّ وَاشْفِنِي

اور مجھے ہدایت عطا فرما ان معرفت کاملہ کے راستہ کی جو سراسر رزق و شوقِ محمدی ہے۔ لے اللہ اور مجھے شفاء عطا کرنا

وَأْمُرْ عَن لَوْحِ وَجُودِي رَفِيمَ الْمَرَضِ الْقَالِبِيِّ بِحُرْمَةِ مِيْمِهِ الْمَاحِي

اور مٹا دے میرے لوح و خود سے نقش و نشان جسمانی امراض کا بطفیل حرمت میم کے جو محبوب کریم کے اسم ماحی سے ہے (مٹانے والے)



وَحَوْلُ وَجْهِ الْبَيْتَةِ عَنِّي بِحُرْمَةِ حَائِجَةِ الْمُحَوَّلِ بِالْحَقِّ نَمَّ امْرُؤٌ رَقَمَ

اور پھر دے رُخ بلیت و مصیبت کا مجھ سے بطفیل حرمت حائجہ کے جو محبوب کے اسم محول بالحق سے ہے الحق کے ساتھ دائرہ پھر مٹانے

الْمَرَضِ الْقَلْبِيِّ بِحُرْمَةِ مِيْمِهِ الثَّانِي وَدَلَّنِي عَلَى مَا يَدْفَعُ عَنِّي

نام و نشان مرض قلبی کا بطفیل حرمت و کرامت اسم محمد کے میم ثانی کے۔ اور میری رہنمائی فرمان امور کی طرف جو دور کریں مجھ سے

مَرَضِ التَّوَجُّهِ إِلَى غَيْرِكَ وَالْعَمَلِ بِمَا يَخَالِفُ الشَّرِيعَةَ الْبِحَبْدِيَّةِ بِحُرْمَةِ

تیرے ماسواہ کی طرف متوجہ ہونے کا مرض اور (دور کریں مجھ سے) شریعت محمدیہ کے برخلاف عمل کرنے کا مرض بطفیل حرمت

دَالِهِ الدَّلِيلُ لِلْعَالَمِينَ إِلَى الْحَقِّ الصَّرْفِ اللَّهُمَّ اشْفِ هَذَا الْعَبْدَ

اسم محمد کی دال کے جو رہبر ہیں تمام عالمین کے لیے طرف مرض اور خالص حق کے۔ اے اللہ شفا بخش اس عبد کو

الْمُتَدَلِّلَ الْمُتَوَسِّلَ بِحَبِيبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْبُ

جو سراپا عجز و نیاز ہے اور توسل کرنے والا ہے تیرے حبیب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تیرے التجائیں قبول فرما

بِحُرْمَتِهِ اللَّهُمَّ بِبِرْكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا مِنَ الْفَائِزِينَ وَعَلَى

بطفیل حرمت حبیب کے۔ اے اللہ ان پر صلوات کی برکت سے بنا ہمیں کامیاب اور فائز المرام لوگوں سے اور آپ کے

حَوْضِهِ مِنَ الْوَارِدِينَ الشَّارِبِينَ وَبُسْتَتِهِ وَطَاعَتِهِ مِنَ الْعَالَمِينَ

حوض کوثر پر وارد ہونے اور پینے والوں سے۔ اور آپ کی سنت اور اتباع میں عمل کرنے والوں سے

وَلَا نَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاسْتَعْمَلْنَا بُسْتَتَهُ وَتَوَفَّنَا عَلَى

اور نہ حائل ہوتا درمیان ہمارے اور درمیان ان کے قیامت کے دن۔ اور ہمیں عمل پیرا بنا ان کی سنت کے ساتھ اور وفات دینا

مِلَّتِهِ وَاحْشَرْنَا فِي زَمْرَتِهِ وَتَحْتَ لَوَائِهِ وَاجْعَلْنَا مِنَ رَفَقَائِهِ وَأُورِدْنَا

ان کی ملت پر۔ اور ہمیں قیامت کے دن جمع کرنا ان کی جماعت کے ساتھ اور ان کے لواہ محمد کے نیچے اور ہمیں آپ کے رفقاء میں داخل فرما

حَوْضَهُ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ وَانْفَعْنَا بِحَبِيبَتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

اور ہمیں آپ کے حوض پر وارد فرمانا اور ان کے دست کرم سے جام پلانا۔ اور ہمیں نفع اندوز بنا ان کی محبت اور ہمیں بنا ہدایت پانے والوں

بَيْنَهَا بِشَرِيعَتِهِ وَاهْدِنَا بِهَدْيِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَاحْشَرْنَا يَوْمَ

سے ان کی شریعت کے واضح اور کشادہ راستہ کی۔ اور ہمیں ان کی سیرت پر چلا اور ہمیں وفات دینا ان کی ملت پر اور اٹھانا ہمیں



الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ مِنَ الْاَمْنِيْنَ فِي زَمْرَتِهِ وَاَمْتَنَا عَلٰى حُبِّهِ وَحُبِّ اِلَيْهِ

بہت بڑی گھبراہٹ والے دن میں ان کے دامن رحمت میں امن پانے والی جماعت سے۔ اور ہمیں وفات دینا ان کی اور ان کی آل کی محبت

وَاَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ اَمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ هُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

پر۔ اور آپ کے اصحاب اور ذریعات کی محبت و عقیدت پر آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کر دے اپنی

حُبِّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ اِلَيَّ وَاَجْعَلْ خَوْفَكَ اَخَوْفَ الْاَشْيَاءِ عِنْدِي وَاَقْطَعْ

محبت کو سب اشیائے محبوب تر طرف میرے اور کر دے اپنے خوف کو سب اشیائے زیادہ خوف دلانے والا میرے نزدیک اور قطع

عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ اِلَى لِقَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

کر دے مجھ سے تمام دنیوی حاجات کو اپنے شوقی لقاء کے ذریعے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَخْرَجْتَ عَنْ مَقَامِهِ تَاْخِيْرًا اِذَا اْتِيََا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس مقتدرائے خلاق کے مقام تقدیم سے موخر کر دیا ہے تو نے بطور تاخیر وانی کے

لِكُلِّ اَحَدٍ اِلَيْهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہر ایک کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي جَعَلْتَهُ بِحُكْمِ اَحَدِيَّتِكَ وَتَرَالْعَدَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

کہ جس آقا کو بنا دیا تو نے اپنے علم احدیت وازل میں طاق عدد والے (کہ والدین کے اکوٹے فرزند تھے اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

مُحَمَّدًا وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِّوَا عَزَّتِكَ الْخَافِقِ وَلِسَانِ حِكْمَتِكَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو خلیفہ مطلق تیری عزت و عظمت کے لہراتے علم ہیں اور تیری حکمت کی

التَّاطِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بولتی زبان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

سُلْطَانَ مَمَالِكِ الْعِزَّةِ اِلَى كَافَّةِ بِلَادِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

جو آقا کہ ممالک عزت کے سلطان ہیں تیری طرف سے تمام بلاد اور آبادیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَا طَمْتُ بِرِيَا حِ التَّعِيْنِ الصَّمْدَانِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ایسے سمندر ہیں کہ تلاطم خیز ہیں صمدانی تعین کی ہواؤں سے



أَمُوجَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

موجیں اس کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

الَّذِي قَائِدُ جَيْشِ النَّبُوَّةِ الَّذِي تَسَارَعَتْ بِكَ إِلَيْكَ أَفْوَاجُهُ اللَّهُمَّ

جو آقا قائد ہیں جیش نبوت کے کہ سرعت کے ساتھ چلنے والی ہیں تیری توفیق کیساتھ تیری ہی طرف افواج ان کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا تیرے

خَلِيفَتُكَ عَلَى كَافَّةِ خَلِيقَتِكَ وَأَمِينُكَ عَلَى جَمِيعِ بَرِيَّتِكَ

خليفة مطلق ہیں تیری ساری مخلوق پر اور تیرے امین اور معتمد علیہ ہیں تیری مخلوقات پر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مَنْ هُوَ غَايَةُ مَجْدِ الْبَحِيدِ وَفِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ الْإِعْتِرَافُ بِالْعِزِّ عَنِ

کہ جو عالی مرتبت محبوب غایت و انتہا ہیں بزرگی و برتری کی جو خود موصوف ہے رفعت و بلندی سے اور ان پر ثناء و توصیف میں ہر مخلوق کو اعتراف ہے عجز و

الْتِنَاهُ صِفَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تصور کہ ان کی صفات کی حقیقت معلوم کرنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ نَهَايَةَ الْبَلِيغِ الْمُبَالِغِ أَنْ لَا يَصِلَ إِلَى مُبَالِغِ الْحَمْدِ عَلَى مَكَارِمِهِ

آل پر کہ فصیح و بلیغ بلکہ بلاغت کی انتہائی بلندی پر فائز خطیب کی غایت و نہایت یہ ہے کہ نہ پہنچنے پائے حمد و ثناء کی آخری حدود تک اعلیٰ کام افلاق

وَهَبَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور خدا و اوصاف کمال پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي اسْتَوْجَبَ مِنْ الْحَمْدِ بِكَ لَكَ إِصْدَارُهُ وَإِيرَادُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ جو امد و ثناء مستحق ہو گئے ہیں تیری توفیق سے تیری حمد کے بعد سیر ہو کر واپس ہونے کے اور سیرانی کیلئے اس چشمہ حیات پر وارد ہونے

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ الْكَبِيرِ وَالْأَسَدِ

کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ تیرے عبد اکبر ہیں اور تیسری نورانی سند



اَلَا تُوْرَاللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ستاویز ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

اَلْبَاطِنِ تَحْتَ سُرَادِقَاتِ عِزَّتِكَ وَعَظَمَتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

کہ جو محبوب حقنی و پوشیدہ ہیں تیری عزت و عظمت کے نیچوں کے نیچے (ازرہ غیرت محبت) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الظَّاهِرِ بَنُوْا مَيْسَ اَمْرِكَ وَنَهْيِكَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو رسول معظم ظاہر ہیں تیرے امر و نہی لانے والے ملائکہ کے ذریعے۔ اور

وَرَحْمَتِكَ وَحَبْرَتِكَ الْمَبْتُغَى اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِى الدُّنْيَا طَاعَتِكَ وَ

تیری رحمت اور تیری تزیین و آرائش مطلوبہ کے ساتھ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دُنیا میں تیری طاعت کا اور

اَلْفِرَارِ عَنِ مَعْصِيَتِكَ وَفِى الْاٰخِرَةِ جَنَّتِكَ وَرِعِّيَّتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ

بھاگ نکلنے کا تیری معصیت سے۔ اور آخرت میں تیری جنت کا اور تیرے دیدار کا۔ اور تیری عقوبت و سزا سے

عُقُوْبَتِكَ اَللّٰهُمَّ وَاَعِمُّرُ بَاطِنِيْ بِاَمْدَادِ اِيْتِكَ وَاَعِمُّرُ ظَاهِرِيْ بِالْجُلُوْسِ عَلٰى

محفوظ رہنے کا۔ اے اللہ آباد فرما میرے باطن کو اپنی امدادوں سے اور میرے ظاہر کو ساتھ بھٹانے کے

بِسَاطِ مُنَاجَاةِكَ وَاَجْعَلْنِيْ اَهْلًا لِّلْجُلُوْسِ عَلٰى مَوَآئِدِكَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِكَ وَانْفُخْ فِىَّ

اپنی مناجات اور بھلائی کی مسند پر۔ اور بنا مجھے اہل اور حقدار واسطے بیٹھنے کے اور اپنی کرامت و عنایت کے دسترخوانوں کے اور پھونک

رُوْحًا مِّنْ عِنْدِكَ لِكِّىْ اَقْهَرِبَ بِهٖ مَا اسْتَوْلٰى عَلٰى مِنْ قَبِيْحِ الصِّفَاتِ وَ

میرے اندر روح اپنے پاس سے تاکہ قاہر و غالب ہو جاؤں میں بسبب اس کے اپنے اُوپر غلبہ پا جائے والی قبیح خصلتوں پر اور

انْفُخْ فِىْ قَلْبِيْ مِنْ نَّفْحَاتِ الْقُدْسِيَّةِ مَا يُوْصِلُنِيْ اِلَى التَّحَقُّقِ بِحَقَائِقِ

پھونک میرے دل میں قدسی خوشبودار ہواؤں سے اتنا قدر کہ پہنچاؤں مجھے طرف تحقیق اور مصفح ہونے کے ساتھ حقائق

الدَّٰثِرَاتِ وَاَزْحُ عَنْ عَيْنِ بَصِيْرَتِيْ مُشَاهِدَةَ الْغَيْرِ وَحَقَّقْنِيْ فِى الْمَقَامَاتِ

ذات کے اور دوز فرما دے میری چشم بصیرت سے غیروں کے مشاہدہ والا پردہ۔ اور مجھے ثابت و برقرار رکھ مقامات

اَلْفَرْدِيَّةِ وَحَسِّنْ مَبِيَّ السَّيْرِ لِكِّىْ اَشْهَدَ اَهْلَ السَّمَآءِ فِى الْقُرْبِ كَاَهْلِ

فردانیت و احدیت کے انکشاف کے وقت) اور میری سیر اور ترقی سلوک کو خوشتر بنانا کہ میں مشاہدہ کر سکوں اہل سموات کا مقام قرب میں



الْأَرْضِ وَتَدْحِي فِي نَظْرِي الْمَوْجُودَاتُ كُلَّهَا فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ

مثل اہل ارض کے۔ اور کشادہ ہو کر اور کھل کر آجائیں میری نظر میں موجودات تمام کے تمام اپنے طول و عرض میں

وَأَرَى الْكُلَّ فِي مَشْهَدِي كَحَلْقَةِ الْخَاتَمِ الصَّغِيرِ وَيَسْرِي حُكْمُ أَمْرِي

اور دیکھوں میں سب کو اپنے مقام شہود میں مانند چھوٹی انگوٹھی کے حلقے کے۔ اور جاری و ساری ہو میرا حکم و امر جو کہ

الْمُؤَافِقُ لِأَمْرِكَ فِي الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَلَا سَمْعَ بِكَ كُلَّ نَاطِقٍ فِي الْوُجُودِ

موافق ہو تیرے امر کے ہر صغیر و کبیر میں۔ اور تاکہ سن لوں میں تیری توفیق سے ہر بولنے والے کا کلام جو بھی وجود میں آئے اور

مَا تَمَّ يَفْهَمُ هَذَا أَهْلُ الشُّهُودِ وَفَهْمِي الْمَشْكَلَاتِ الْأَبِيَّةَ عَنِ الْوُضُوحِ

نہیں اس مقام پر سمجھتے اس کو اہل شہود اور مجھے سمجھارے وہ تمام مشکل امور جو بذات خود واضح و آشکار ہونے سے انکاری ہیں

وَعَلَّمَنِي مِنْ عُلُومِكَ الدُّنْيَا وَأَجَعَلَنِي مِنْ أَهْلِ الرَّسُوحِ وَالْفِتْوَحِ

اور بتلا مجھے اپنے علوم لدنیہ سے اور بنا مجھے ثنابت قدم لوگوں اور ارباب کشف سے

يَا فَتَّاحُ ارْفَتْحْ عَلَيَّ بَابَ قَلْبِي وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِالْأَسْرَارِ الْمُبْدَاةِ بِالْقَبُولِ

اے کھولنے والے کھول مجھ پر میرے دل کا بند دروازہ۔ اور جاری فرما میری زبان کو ساتھ ان اسرار کے جو ہمیشہ قبولیت پلنے والے ہیں

وَأَفْلِحْ صَبْحَ وَجُودِي بِنُورِ شَهُودِي لِيَفْهَمَ السَّامِعُ عَنِّي مَا أَقُولُ وَ

اور روشن فرما میری صبح وجود کو ساتھ میرے نور شہود کے تاکہ مجھ سے سننے والا سمجھ سکے اس کو جو میں کہوں۔ اور

أُحْيِي عَنِّي حَتَّى لَا أَشْهَدَ أَنِّي وَأَبْقِي بِكَ لِابْنِي وَأَجْعَلْ فِيكَ

مجھے نو کردے مجھ سے حتیٰ کہ میں نہ مشاہدہ کر سکوں اپنی انانیت و وجود کا۔ اور باقی رکھ مجھے اپنی توفیق سے میرے اصل کیلئے اور بنا

بِكَ إِلَيْكَ ذَهَابِي وَإِيَابِي لِأَشْهَدَكَ بِكَ وَأَوْحِدَكَ بِكَ

اپنی ذات میں۔ اپنی توفیق سے۔ طرف اپنے ہی میرا جانا اور لوٹنا تاکہ میں تیرا مشاہدہ کر سکوں تیرے (نور) کے ساتھ اور تجھے واحد مانوں

كَذَلِكَ فَيَكُونُ تَوْحِيدِي هُوَ عَيْنُ تَوْحِيدِكَ لِذَاتِكَ وَ

تیرے نور کی بدولت مشاہدہ کر کے پس ہو جائے میری توحید اور ایک ماننا عین تیرے واحد جاننے کا اپنی ذات کو اور

الْغَيْرُ هَالِكٌ أَللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا وَمَنْ نُحِبُّ فِيكَ وَمَنْ فِيكَ

تیرے ماسوا سبھی مرتبہ ذات میں ہالک و فنا ہی ہیں۔ اے اللہ بنا ہمیں اور جنہیں ہم تیری خاطر محبوب رکھتے ہیں اور جو تیری خاطر

يُحِبُّنَا وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ خَاصَّتِكَ الْإِبْرَارِ الْمَكْسِينَ جَلْبَابَ الْوَقَارِ

ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ اور تمام اہل اسلام کو جو تیرے خواص ابرار و محسنین سے ہیں عز و وقار کی وسیع و عریض چادریں اوڑھائے ہوئے۔ اور

الْمُتَنَعِمِينَ فِي شُهُودِكَ وَالْمَحَافِظِينَ عَلَى الْوَفَاءِ بِعَهْدِكَ الْقَائِمِينَ

تیری نعمتوں سے سرفراز ہونے والے تیرے شہود ذات میں۔ اور محافظت کرنے والے تیرے عہد اور پیمانوں کی وقار پر قیام کرنے والے

بِكَمَالِ الْأَدَابِ إِلَيْكَ وَالْفَائِزِينَ بِجَمِيلِ الْإِنْتِسَابِ إِلَيْكَ رَبِّ أَيْ بَابِ

کمال آداب تیری بارگاہ کی طرف اور فائز و سرفراز ہونے والے تیری ذات کی طرف خوبترین نسبت و تعلق کے ساتھ۔ اے میرے رب کس دروازے

أَقْصِدُ غَيْرَ بَابِكَ وَأَيْ جَنَابِ اتَّوَجَّهُ إِلَيْهِ غَيْرَ جَنَابِكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ

کا قصد کروں سوائے تیرے دروازے کے اور کس بارگاہ کی طرف توجہ کروں سوائے تیری بارگاہ کے تو ہی عالی شان

الْعَظِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَنَا إِلَّا بِكَ رَبِّ إِلَى مَنْ أَقْصِدُ وَأَنْتَ الرَّبُّ

و عظیم ہے۔ اور نہیں کمزور ہونے کی استطاعت گناہوں اور نفاق نیک اعمال پر مگر اے اللہ تیری توفیق سے۔ اے میرے رب میں کس کا قصد کروں

الْمَقْصُودُ وَإِلَى مَنْ أَتَوَجَّهُ وَأَنْتَ الْحَقُّ الْمَعْبُودُ وَمَنْ ذَا الَّذِي يُعْطِينِي

حالانکہ تو ہی میرا رب اور میرا مقصود ہے۔ اور طرف کس کے توجہ کروں حالانکہ تو ہی حق ہے اور معبود ہے اور کون ہے وہ جو مجھے عطا کرے

وَأَنْتَ صَاحِبُ الْكَرَمِ وَالْجُودِ رَبِّ حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَشْتَكِيَ إِلَّا إِلَيْكَ

حالانکہ تو ہی صاحب جود و کرم ہے۔ اے رب میرے یہ امر لائق و سزاوار ہے میرے کہ میں نہ شکایت کروں (حوادث دہری) مگر طرف تیرے

وَلَا زِمَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَتَوَكَّلَ إِلَّا عَلَيْكَ اللَّهُمَّ أَجِبْ دَعْوَتِي وَأَقْضِ حَاجَتِي

اور واجب و لازم ہے مجھ پر کہ نہ اعتماد اور بھروسہ کروں مگر اوپر تیرے۔ اے اللہ قبول فرما میری دعا کو اور پورا فرما میری ہر حاجت کو

وَ اكْشِفْ عَنِّي بَصِيرَتِي وَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ وَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَ بَارِكْ لِي

اور میری بصیرت سے پردے ہٹا دے۔ اور بخش دے میرے لیے گناہ مجھ سے۔ اور فراخی کر میرے لیے میرے (آخری) گھر میں اور برکت

فِي رِزْقِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ

عطا فرما میرے لیے میرے رزق میں۔ اے اللہ بیشک تو ہی محسن۔ جواد اور کریم ہے۔ میرے لیے مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے

عَافِنِي وَ ارْزُقْنِي وَ اسْتُرْنِي وَ اجْبُرْنِي وَ ارْفَعْنِي وَ اهْدِنِي وَ لَا تُضِلَّنِي وَ

عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما اور مجھے (اپنے) دامن رحمت میں چھپا۔ اور میرے نقص کو دور فرما اور مجھے باندی عطا کر اور ہدایت دے اور



أَدْخَلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِي وَفِي

مجھے گراہ نہ فرمانا۔ اور داخل فرمانا مجھے جنت میں اپنی رحمت کے ساتھ لے ارحم الراحمین۔ طرف تیری ہی (تو جو ہوں) لے میرے پروردگار! لہذا مجھے اپنا محبوب بنا

نَفْسِي لَكَ رَبِّ فَذَلِّلْنِي وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظْمَنِي وَمِنْ سَيِّءِ

اور مجھے میرے نفس اور دل میں لے میرے پروردگار! پس عاجز و بے بس بنا۔ اور لوگوں کی نظروں میں پس عظیم بنا مجھے۔ اور بُرے

الْأَخْلَاقِ فَجَبِّبْنِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اخلاق سے پس دور فرما مجھے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَزَلِّ وَالْأَبَدِ تَقْدِيرًا ثُمَّ تَصْوِيرًا ثُمَّ تَحْقِيقًا ثُمَّ تَحْلِيقًا

کی آل پر جو تیرے شانہ بکار قدرت ازل بھی ہیں اور ابد بھی از روئے علی و جود کے۔ پھر صورت کے تعین کے پھر حقیقت ثابت ہونے کے۔ پھر حاجی

ثُمَّ ظُهُورًا ذَاتِيًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

وجود کے ساتھ موجود ہونے کے پھر بے پردہ و بے حجاب ذات کے طور پر ظاہر ہونے کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ مُسَخَّرَ الْحُكْمِ بِلَا أَمْرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد کی آل پر جس آقا کے لیے ہم مسخر کر دیا گیا اور ان کے اختیار میں دے دیا گیا ہے تیرے کسی تاخیر و ہمت کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَجْلِيًّا تَكَ الْقُدْسِيَّةِ الْأَكْرَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سراسر تیری تجلیات قدسیہ (کا منظر) ہیں اور انتہائی عزت و کرامت والے ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورَانِي الْمَشَارِقِ وَ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو تیرا محبوب نورانی مشارق والا ہے (جن کا چہرہ آفتاب نبوت کیلئے افق مشرق ہے)

الْمَغَارِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور نورانی مغارب والا ہے (آفتاب رخ کے پردہ میں ہونے پر)۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

صَدَّقَ إِنِّي الْوَجْهَ بِكَ إِلَيْكَ فِي الْمَارِبِ وَالْمَطَالِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو محبوب کہ صمدانی اور بے نیاز چہرے والے ہیں بسبب تیری توفیق کے (صرف محتاج ہیں تو طرف تیرے تمام حاجات اور مطالب میں)۔ لے اللہ صلوٰۃ و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَوْحِ نَقُوشِ سِرِّكَ الْمُحِيطِ الْجَامِعِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو تیرے امین اسرار کہ تیرے نقوش اسرار کے لیے محیط اور جامع لوح ہیں



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سُورِح

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کر تیرے وسیع امر لدنی کے

هِيَ كُلُّ أَمْرِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ڈھانچے اور مجسمہ کی روح رواں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِسَانَ نُقْطَةِ الْأَزَلِ الْبُفِيضَةِ لِكُلِّ مَا شِئْتَ

پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کرم کہ نقطہ ازل کی لسان ترجمان ہیں جو فیض رساں ہیں ہر اس شئی کیلئے جس کیلئے تو فیض رساں چاہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خِرَانَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ابدی مراتب کے لیے خزانہ ہیں

رُتْبَةِ الْأَبَدِ الْمُبَدَّةِ لِكُلِّ مَا أَرَدْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ امداد و اعانت کرنے والے ہیں ہر اس شخص کی جس کی امداد کا تو ارادہ فرمائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَوَّلِ الْقَابِلِ لِأَنْوَاعِ تَعْيِينَاتِكَ الْعَلِيَّةِ وَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ تیرے شاہکار اول ہیں جو قبول کرنے والے ہیں تیرے تمام قسم کے تعینات عالیہ کو۔ اور

كُنُوزِ أَمْدَادِكَ الزَّكِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تیری امداد و اعانت کے پاکیزہ خزانوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَبْدِ الْقَائِمِ بِسِرِّ الْغَيْبِ وَالْإِحَاطَةِ بِغَايَةِ الْوَصْلِ وَ

آل پر جو کہ تیرے ایسے عبد ہیں جو قائم ہیں تیرے سر غیب کے ساتھ اور وصل کی انتہا کے احاطہ کے ساتھ۔ اور

التَّائِظِ بِعَيْنِ الذَّاتِ وَلَا كَيْفَ وَلَا مِثْلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

دیخنے والے ہیں تیری عین ذات کو جو کیفیت سے پاک ہے اور مثل و مثال سے منزہ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاتِحَةِ كُتُبِ الْإِلَهِيَّاتِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ آغاز و افتتاح ہیں کتب الہیہ اور

الْصِّفَاتِ وَالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

صفات الہیہ اور آیات بینات کا باعتبار جدب بطور ہونے کے اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّلَامُ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ الدَّائِمَةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ راز ہیں باقیات صالحات (راز دائمی) جو کہ دائم و پائیدار ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

جَامِعِ الْجَوَامِعِ الْمَحِيطِ الْفَرْدَانِيَّ وَتَحْتَهُ ذَخِيرَةُ كَنْزِ التَّعِينِ

جو آقا کہ سب جامع اور عام و شامل اشیاء کے بھی جامع اور محیط فردانی ہیں اور انہیں کے گھیرے اور احاطے میں ہے تعین عرفانی

الْعُرْفَانِيَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کے عرفانے کا ذخیرہ۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ مَرْقُومٍ نُقُوشِ أَسْرَارِ الْمَحَبَّةِ عَنْ قَوَائِلِ الْخَلَائِقِ

آل پر کہ جس محبوب میں رقم کئے گئے ہیں اسرار محبت کے نقوش (انہیں نسخہ جامہ بنانے کیلئے) ساری مخلوقات کے آئینوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

لِسَانَ الْأَصْطِفَاءِ الْمُرْفَعِ بِصُورِ الْحَقَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو کہ زبان ہیں مرتبہ اصطفاء کی اور مزین و آراستہ ہیں رنگ برنگ صورت حقائق کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْتَاطِقِ بِلِسَانِ كَانِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ کلام کرنے والے ہیں ساتھ اس زبان (وکلام) کے موجود سخا

اللَّهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اللہ تعالیٰ جبکہ نہیں موجود تھی کوئی شئی ساتھ اس کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ بِكَ فِي مِيدَانِ تَجَلِّيَاتِكَ الْمُبْدَعَةِ اللَّهُمَّ

آل پر جو محبوب کہ سبقت لے جانے والے ہیں تیری توفیق سے تیری انوکھی اور عمدہ تجلیات کے میدان میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُوحِ أَشْبَاحِ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ روح رواں ہیں جمعیت و سکون



الرُّوحِ الْجَمِيعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

والی روتوں کے اشباح اور روحوں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَجَلِ أَصْفِيَاءِكَ وَتَابِ أَوْلِيَاءِكَ وَأَشْرَفِ

آل پر جو آقا کہ تیرے سب اصفیاء سے جلیل تر ہیں اور تیرے تمام اولیاء کے سزا ج ہیں۔ اور تمام انبیاء سے

أَنْبِيَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بزرگ تر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ دَعْوَةَ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ وَبُشْرَىٰ أَخِيهِ عِيسَىٰ وَمَنْعُوتِ

جو محبوب و مطلوب کہ تم دعا ہیں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور سرا پا بشارت ہیں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی اور جن کا

يَذْكُرُهُ فِي تَوْرَةِ مُوسَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تذکرہ اوصاف موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں کیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَوْرِكَ السَّاطِعِ وَسَيْفِ حُجَّتِكَ اللَّامِعِ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ تیرا بلند یوں تک پہنچنے والا نور ہے اور تیری حجت و برہان کی چمک دار اور شگموک و شبہات کی چمک

الْقَاطِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کاٹنے والی تلوار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَيَّدْتَهُ بِرُوحِ قُدْسِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

آل پر جس آقائے کائنات کی تو نے تائید و تقویت فرمائی ہے اپنے مقدس روح جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَقَّقْتَهُ بِحَقَائِقِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہیں تو نے ثابت و برقرار رکھا ہے اپنی حقائق اور

مَعْرِفَتِكَ وَأَنْسِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

انس کے حقائق کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّادِعِ بِالْحَقِّ وَالنَّاطِقِ بِالصِّدْقِ وَالنُّصُورِ

محمد کی آل پر جو پوری قوت کے ساتھ حق کا اظہار کرنے والے ہیں اور صدق و سچائی کے ساتھ نطق و کلام فرمانے والے ہیں اور

بِالرُّعْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خدا اور عرب و بدر کے ذریعے نصرت و امداد دے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔

الْمَلَأْ قَلْبَهُ بِالْحِكْمَةِ وَالْفُرْقَانَ وَالْحُبَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کہ جس معلم حکمت کا قلب نور بھر پور ہے حکمت کے ساتھ اور حق و باطل کے فرق و امتیاز کے ساتھ اور محبت مولیٰ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعْتَ ذِكْرَهُ مَعَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب معظم کے ذکر کو بلند فرمایا تو نے اپنے

ذِكْرِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ذکر کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقَمْتَهُ فِي مُحَرَّابِ الْعَبُودِيَّةِ وَالرِّسَالَةِ اللَّهُمَّ

پر کہ جس محبوب کو تو نے قائم فرمایا ہے عبودیت و رسالت کی محراب میں۔ اے اللہ

اجْعَلْ حُبَّ مُحَمَّدٍ فِي قَلْبِي وَنَفْسِي وَجَسَدِي وَعَيْنِي وَبَصِيرِي وَ

پیدا فرما محمد کریم کی محبت میرے قلب و نفس اور جسم میں۔ اور میری آنکھ اور میری بصارت میں۔

سَمْعِي وَفِيهِ وَرِسَانِي وَشَفْتِي وَشَامَتِي وَفِي وَجْهِ وَجِبْهَتِي وَ

میرے کان اور میرے مُتہ اور زبان میں اور ہونٹوں پر اور میرے سونگھنے والے حاسہ میں اور میرے چہرے اور پیشانی پر۔ اور

فِي صَدْرِي وَجِلْدِي وَفِي لَحْيِي وَدُمِي وَعَظْمِي وَعَصْبِي وَفِي شَعْرِي

میرے سینے اور جلد و پوست میں اور میرے گنت اور خون میں میری ہڈیوں اور اعصاب اور بالوں میں۔

وَفِي جَمِيعِ اجْزَائِي وَاعْضَائِي وَفِي كُلِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ

اور میرے تمام اجزاء و اعضاء بدن میں اور میرے پورے وجود میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ

إِذَا أَقْرَبْتَ عِيُونَ أَهْلِ الدُّنْيَا بَدُنِّيَاهُمْ فَأَقْرِبْ عَيْنِي بِكَ وَ

جب ٹھنڈا اور غرض کرے تو اہل دنیا کی آنکھوں کو ان کی دنیا کے ساتھ تو ٹھنڈا کرنا میری آنکھوں کو اپنی خات کے دیدار

بِعِبَادَتِكَ وَاقْطَعْ عَنِّي لَذَائِدَ الدُّنْيَا بِأَنْسِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ

اور اپنی عبادت کے ساتھ۔ اور منقطع فرما دے مجھ سے دنیا کی لذتوں کو اپنا انس اور شوق لقا کے۔

وَأَجْعَلْ طَاعَتَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِّمِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ

اور پیدا فرما اپنی اطاعت کو میری ہر چیز میں۔ اے جلال و اکرام والے۔ اے اللہ

ارزُ قِنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ

مجھے نصیب فرما اپنی محبت اور اپنے محبوبوں کی محبت اور ہر ایسے عمل کی محبت جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے

وَأَوْصِلْنَا إِلَى مَقاصِدِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَحِينَا عَلَى الْإِسْلَامِ

اور پہنچا ہمیں ہمارے مقاصد و مطالب تک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں زندہ رکھنا اسلام پر۔

وَأَمْتِنَا مَعَ الْإِيْمَانِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْنَا مِنْ

اور موت دینا ساتھ ایمان کے۔ اے اللہ بنا دے اپنی محبت کو محبوب ترین تمام اشیا سے طرف ہمارے (تجلی کر)

الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلْعَطْشَانِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ اسْقِنَا

ٹھنڈے پانی سے واسطے اچان بلب ایسا سے۔ اے جلال و اکرام والے۔ اے اللہ ہمیں پلانا

يَكَاؤِسَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُرْبَةَ هَنِيئَةٍ مَرِيئَةٍ

محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جام سے ایسا خوشگوار اور مفید و نافع شربت کہ

لَا نَظْمًا بَعْدَهَا أَبَدًا أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نہ پیاسے ہوں اس کے پی لینے کے بعد کبھی بھی۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ مُطِيعٌ لِمَرْكٍ وَمُعْتَرِفٌ بِعَظِيمٍ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اطاعت گزار ہیں تیرے حکم کے اور دل و جان سے تسلیم کرنے والے ہیں تیرے

قُدْرَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عظیم قدر کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقْسَمْتَ بِعَمْرِهِ فِي كِتَابِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل پر کہ جس آقا کے لیے تو نے قسم اٹھائی ان کی عمر شریف کی اپنی کتاب میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَضَّلْتَهُ بِمَا فَضَّلْتَهُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں تو نے اپنے ہاں وہ فضیلت و برتری بخشی جو

عِنْدَكَ مِنْ أَنْوَاعِ خَطَابِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صرف ترقی جانتا ہے یعنی خطاب و عہد کے انواع و اقسام اور انعام سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَقْتَ نُورًا ذَاتِ آيَةٍ مِنْ نُورِ ذَاتِكَ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس نورانی محبوب کے نور ذات کو تو نے پیدا فرمایا اپنی ذات کے

الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عظیم نور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَجَّحْتَ بِهِ فِي غَيْبٍ لَاهُوتِ سِرِّكَ الْأَسْمَى اللَّهُمَّ

کی آل پر کہ جس پر وقار محبوب کو تو نے راجع اور روزنی بنا دیا ہے اپنے بلند مرتبت راز کے غیب لاهوت میں اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کے لیے

ثَبَّتَ لَهُ فِي الْخِلَافَةِ عِنْدَكَ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ قَدَمًا اللَّهُمَّ صَلِّ

ثابت ہو چکی ہے خلافت و نیابت تیری طرف سے جب سے کہ تو ہے شان قدیمی کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَشَرْتَ لَهُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے متعلق مشہور کر دیا تو نے

بِوَارِثَةِ إِسْمِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اپنے ہر اسم کا وارث اور مظہر ہونا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فِي الْكُونَيْنِ عِلْمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

پر جو آقا کہ ظاہر و باطن ہیں دونوں جہان میں از روئے علم کے یعنی ظاہر کے علم کے لحاظ سے ظاہر اور حقیقت کے علم کے لحاظ سے باطن اے اللہ

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَقَّقْتَ بِكَ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کو تو نے ثابت و قائم فرمایا ہے اپنی توفیق سے

فِي مَظَاهِرٍ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفِيَ اللَّهُمَّ صَلِّ

ان مظاہر میں کہ (اور نہیں مالا تو نے جبکہ مارا ہے تو نے لیکن وہ تو) اللہ تعالیٰ نے مارا ہے اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْطَقَتْ لِسَانَهُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کی زبان کو تو نے ناطق اور گویا فرمایا ہے

بِحُجَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اچی حجت اور دلیل قدرت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

أَفْقِ أَنْوَارِكَ وَبِحُرَّاسِرَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو آقا کہ تیرے انوار کا افق و مطلع ہیں اور تیرے اسرار کا سمندر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيْعْتَهُ عَيْنٌ بَيْعَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس تیرے نائب مطلق کی بیعت بعینہ تیری بیعت ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَائِدِ جِيُوشِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ہادیِ برحق کہ قائد و رہبر ہیں تیری طرف ہدایت

الْهُدَايَةِ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

و رہنمائی کے لئے کہوں گے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْمَكْرَمِ وَمُرْسُولِكَ الْمُعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آل پر جو آقائے خلق کہ تیرے حبیب مکرم اور رسول معظم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِ فِي ذَاتِهِ وَ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو اسمِ با مستحی کہ حمد و ستائش کئے ہوئے ہیں باعتبار اپنی ذات کے اور

أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اپنے اسماء و صفات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَمَّرْتَ الْأَكْوَانَ بِبَرَكَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

آل پر کہ جس بہار جانفزا کی برکت سے تو نے تمام کائنات کو معمور اور آباد فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَ بِهِ تَشْتَّت

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے ذریعے جمعیت بگشتی تو نے نفوس کے افتراق و

النُّفُوسِ وَجَعَلْتِ بِهِ ظَلَامَ الْقُلُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

انتشار کرو۔ اور جلاؤ۔ بخشتی ان کی بدولت تاریکی میں ڈوبے ہوئے دلوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَضَّلْتَهُ عَلَى جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِكَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کو تو نے فضیلت دی اپنی ساری مخلوقات پر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب مكرم کو

كَرَّمْتَهُ عَلَى عَمُومِ مَوْجُودَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو نے عزت و کرامت بخشی ہے ایسے عام موجودات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَصَّصْتَهُ بِالْمَقَامِ الْمَحْبُوبِيَّةِ اللَّهُمَّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو تو نے مخصوص ٹھہرایا ہے ساتھ مقام محبوبیت کے اور دوسروں کو اس مقام میں آپ کا طفیلی بنایا

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَعَثْتَهُ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس رسول مبعوث کو تو نے مبعوث فرمایا

إِلَى كَافَّةِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تمام انسانوں اور جنوں کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَسِيمِ الْوَسِيمِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا تیری نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں اور خصوصیت ہیں اور کریم نبی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَوْلَاهُ لَمَا أَظْهَرَ مَوْلَاهُ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو مخلوق اول موجود نہ ہوتے تو نہ ظاہر فرماتا ان کا مولیٰ

الْمَوْجُودَاتِ بِأَسْرَارِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

موجودات کو۔ بمعہ ان کے اسرار و حکم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبَاحَهُ الْأَسْرَارِ فِي الْأَسْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد کی آل پر کہ جس سر وحدت کو ظاہر کیا اسرار نے زمرہ اسرار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا



مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَمَدَّا مِنْهُ نَبِيلٌ طَاعِلٌ كَالْأَهْلِ أَحَدٌ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امداد بہت ہی عظیم شرافت و منفعت کہتے ہیں شایاں

فِي الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس کے کوئی بھی انبیاءِ عظیم السلام میں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔

شَمْسِ الْمَعَارِفِ وَقَمَرِ الْعَوَارِفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جو شمس عرفان کہ معارف کا آفتاب ہیں اور عطیات کا ماہتاب۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُنْزِ اللَّطَائِفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ لطائف و نقائص کا کنز و خزانہ ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ الْعُلُومِ وَمَطْلَبِ الْفُهُومِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ علوم کے (بحر) نا پیدا کفار) ہیں اور نعم و دانشوں کا مقصد اہم ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَرْعَسِ رُبُوعِ الضَّلَالِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس آقائے سرنگوں کو دیا ضلالت و گمراہی کے مہلات کو۔ اور

مَا حَىٰ شَرِيعَةَ أَهْلِ الْمَحَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جو ماننے والے ہیں شریعت اور طریقہ اہل بطالت کا۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَدْرِ الطَّالِعِ وَالضِّيَاءِ الْأَمِيعِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ (از روئے نورانیت کے) ماہ تاباں ہیں اور چمکتی ضیاء اور روشنی۔ اے اللہ صلوات و

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تُرْهِهَ النَّفُوسِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ نفوس کیلئے سامان تفریح ہیں

وَرِيحَانَ الْقُلُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور دلوں کے کیلئے (صنہی) پھول اور خوشبو اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِسَانَ حُجَّتِكَ وَعَرُوسِ مَمْلَكَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد کی آل پر جو آقا کہ تیری حجت و دلیل کی زبان و ترجمان ہیں اور تیری مملکت کے دولہا ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعِزِّ السَّامِحِ

و سلام بھیج سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سراسر عز و وقار اور عزت کی سخاوت کرنے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

التُّورِ الْبَاهِرِ السَّاطِعِ اللَّامِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو آقا کہ غالب نور ہیں اور بلند ہونے والا اور چمکنے والا نور۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبُرْهَانَ الظَّاهِرَ الْقَاطِعَ وَالْبَحْرَ الرَّاحِرَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سراپا برہان ہیں جو کہ ظاہر ہے اور شکوک و شبہات کے لیے قاطع بھی اور ایسا سمندر میں ٹھاٹھیں

الْوَاسِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

ماننے والا ہے اور وسیع و عریض ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

جو محمود خلائق ایسی رحمت ہیں جو سب کو محیط ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَضْرَةَ الْجَامِعَةَ لِلْمَكَارِمِ وَالْفَائِقَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جس آقا کی بارگاہ جامع اور محیط ہے بلند ترین اخلاق کریمہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَنْوَارِ الْمَخْلُوقَةِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ روشن ترین نور ہیں ان تمام انوار سے جو پیدا کئے گئے ہیں

الرَّائِقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور نظروں کو بھلا معلوم ہونے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُعَدِنِ الْحِكْمِ وَالْاَسْرَارِ وَطَرِزِ حَلَّةِ الْفَخَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

جو آقا کہ معدن اور سرچشمہ ہیں حکمتوں اور اسرار کے اور باعثِ زینت نقش ہیں خلعتِ فخر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دُرَّةَ صَدْفِ الْوُجُودِ وَذَخِيرَةَ الْمَلِكِ الْوَدُودِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ صدف و وجود کے گوہر مکتا ہیں اور ملک و دود کے ذخیرہ اور خزانہ اسرار ہیں



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَتَّبِعِ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کے سر چشمہ ہیں

الْفَضَائِلِ وَالْكَرَمِ وَالْعَطَاءِ وَالْجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فضائل و کرم اور عطا و جود کا۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَابِ مَبْلَكَةَ التَّمِيمِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کے تاج (وقار و عزت) ہیں مملکت تمکین و طانیت کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النِّعْمَةِ الْوَفِيَّةِ عَلَى الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کے خلق کے سراسر نعمت تامہ کاملہ ہیں تمام مخلوقات پر۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْسَانَ عَيْنِ أَعْيَانِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کوزرچشمہ اور آنکھ کی پتی ہیں اللہ کی موجود

خَلْقِ اللَّهِ فِي الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مخلوق کے اعیان و اکابر کے لیے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ بِكَافَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةِ اللَّهِ الْجَامِعَةِ لِلْعَالَمِينَ

محمد کی آل پر جو آقا کے رؤف و رحیم ہیں (بالخصوص) تمام مومنین کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مجمبہ میں جو محیط ہے تمام جہانوں کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقِيقَةَ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کریم کراسر حقیقت ہیں

الْإِسْتِقَامَةِ فِي حَضَائِرِ قُدْسِكَ وَمَقَاصِيرِ أُنْسِكَ عَلَى أَرَائِكَ اللَّهُمَّ

استقامت اور ثابت قدمی کی تیری بارگاہ مقدس کے قافلوں اور جماعتوں کے لیے اور تیرے انس و الفت کے محلات میں اور آرام کرسیوں کے رینچھے والوں کیلئے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ مُشَاهَدَاتِكَ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو جسم نور اکر تیرے مشاہدات کا نور مجسم ہیں۔

وَتَجَلِّيَاتِ مَنَازِلِكَ وَالْمُزَيِّنِ بِسَطْعَاتِ سُبْحَاتِ أَنْوَارِ ذَاتِكَ

اور تیری منازل رفعت کی تجلیات کا منظر اور جو مزین و آراستہ ہیں تیرے بلند ہونے اور بھلنے والے انوار ذات سے۔



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُتَعَطِّرٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بجاں باغِ قدس کہ معنبر و معطر ہیں۔ تیری

بِأَخْلَاقِ حَقَائِقِ دَقَائِقِ صِفَاتِكَ وَأَثَارِ بَرَكَاتِ أفعالِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

صفات ازلیہ کاملہ کے اخلاق۔ حقائق اور دقائق سے۔ اور تیرے افعال کے برکات کے آثار و ثمرات سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَلِيلِكَ الْجَمَالِ الرَّاهِرِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ تیری نجمِ دلیل و بریان ہیں اور سراپا جمال روشن

وَالْجَلَالِ الْقَاهِرِ وَالْكَمَالِ الْفَاخِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور جلال قاہر و غالب اور کمال کمال فخر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَسْطَةِ عَقْدِ النَّبُوَّةِ وَلُجَّةِ الْقُوَّةِ وَالْفُتُوَّةِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ واسطہ ہیں اور درمیانِ عمدہ و نفیس جو ہر ہیں نبوت کے ہار کا اور قوت و جوافر دی کا گرا سمندر ہیں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُ سَمْعَ مَنْ يُطَالِبُنِي بِسُوءِ بِسْمِ اللَّهِ وَبَصِيرَةَ

اے اللہ میں نے بچڑی اور قابو کر لی ہے قوت سامعہ ہر اس شخص کی جو مجھ سے برائی کا طلبگار ہے بواسطت اللہ تعالیٰ کی صفت سمع و بصیرت کے

وَقُوَّتَهُ وَقُدْرَتَهُ وَحَبْلِهِ الْمَتِينِ وَسُلْطَانِهِ الْمُبِينِ فَلَيْسَ لَهُمْ

اور اس کی قوت و قدرت کے اور اس کی مضبوطی کے اور واضح سلطنت کے پس نہیں ہے ان کے لیے

عَلَيْنَا سَبِيلٌ وَلَا سُلْطَانٌ إِشْنَاءِ اللَّهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سِتْرَةٌ النَّبُوَّةِ

ہم پر کوئی تصرف و تسلط۔ اللہ نے جاہاتو ہمارے اور ان کے درمیان نبوت کا ستر اور حجاب ہے

الَّتِي سَتَرَ اللَّهُ بِهَا الْأَنْبِيَاءَ مِنَ الْفِرَاعِنَةِ جِبْرَائِيلُ عَنْ أَيْمَانِنَا

کہ بچایا اور چھپایا بسبب اس کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو وقت کے فرعونوں سے۔ جبرائیل علیہ السلام ہماری دائیں جانبوں میں

وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَائِلِنَا وَاللَّهُ مُظِلُّ عَلَيْنَا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ

اور میکائیل علیہ السلام بائیں جانبوں میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالنے والا ہے ہم پر۔ اور بنایا ہے ہم نے

أَيْدِيهِمْ سَدًّا أَوْ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ قَهْرًا لَا يَبْصُرُونَ ۝

ان کے آگے حجاب اور ان کے پیچھے حجاب پس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے پس وہ نہیں دیکھتے۔



حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي يَكْفِي وَلَا يَكْتَفِي مِنْهُ شَيْءٌ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ

کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ جو کفایت فرماتا ہے اور اس سے کوئی شئی کفایت نہیں کرتی۔ کافی ہے مجھے اللہ اور وہ اچھا

الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا

کارساز ہے۔ اچھا مددگار اور اچھا نصرت منیا کرنے والا ہے ہمیشہ کے لیے کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ کہ نہیں معبود برحق مگر

هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

وہی اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ قُدْوَةٌ السَّالِكِينَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ہادی برحق مقتدار ہیں سالکان راہ طریقت کے

وَقَدْرَةٌ عَيْنِ الْعَارِفِينَ وَجُرْمُ الْأَمِّيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور ٹھنڈک ہیں عارفوں کی آنکھوں کے اور جہائے پناہ ہیں امت امیہ یعنی بے پڑھوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْإِمْتِنَانِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو حسن کائنات لائق ہیں احسانات فرمانے کے اور حقدار ہیں احسان جملانے کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

أَعْزَى الْغَازِيْنَ وَمُفَرِّحِ الْمَغْمُومِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کہ جو آقاسب غازیوں سے بڑے غازی ہیں اور غمزدگان کو فرحت بخشنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَامِعِ مَعْبِدِ الصَّنَمِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو بانی اسلام و توحید ہیں اکھڑنے والے ہیں اوثان و اصنام کی عبادتگاہیں اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَذِيرِ الْعَشِيرَةِ

اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو رسول خداؐ ڈرانے والے ہیں قریبی رشتہ داروں کے

وَأَخَافِضُ الْجَنَاحَ لِلْأُمَّةِ وَمُرَجِّيَ الْعِتْرَةِ وَالصَّحَابَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اعذاب خداوندی سے اور سپت کرنے والے ہیں رحمت کے بازو امت کے لیے اور تربیت فرماتے والے ہیں اولاد و اصحاب کی اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَيُّومِ لِلْكُوْنَيْنِ

و سلام بیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا سبب قیام و موجب بقا ہیں واسطے دونوں جہان کے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَبَبِ

لے اللہ صلوات و سلام بیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ وسیلہ جلیلہ ہیں

الْبَرَكَاتِ وَالْخَيْرَاتِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ وَمَحْوِ السَّيِّئَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

تمام تر برکات اور خیرات کا اور باعث و موجب ہیں قضاء حاجات کا اور سیئات کے مٹنے اور نیست و نابود ہونے کا لے اللہ

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الْمَخْفِيَّاتِ وَدَافِعِ

صلوات و سلام بیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا مخفی اور غیبی امور کو ظاہر کرنے والے ہیں۔

الْبَلِيَّاتِ وَمُنْجِي الْمُهْلِكَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

بلیات و مصائب کو دور کرنے والے ہیں اور مہلکات ہلاکت کے نجات دلانے والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ الْبِلَدَةِ وَنُوْرٍ الطَّرِيْقَةِ وَمُحَقِّقِ الْحَقِيْقَةِ وَ

سیدنا محمد کی آل پر جو ملت کے روشن چراغ ہیں اور طریقت کے نور حقیقت کو تحقیق انداز میں بیان کرنے والے ہیں اور

بُرْهَانَ الْمَعْرِفَةِ وَسُلْطَانَ الشَّرِيْعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

معرفت کی برہان اور شریعت کے بادشاہ۔ لے اللہ صلوات و سلام بیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حُجَّةِ اللّٰهِ عَلٰی الْاَرْضِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اللہ تعالیٰ کی مجسم حجت و دلیل ہیں زمین پر۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ هَمَّتْهُ كَا زَاغِ

و سلام بیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی ہمت و قوت کی شان یہ ہے نہ ٹیڑھی ہوئی

الْبَصْرِ وَمَا طَغَى وَمِعْرَاجَهُ مَقَامُ قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

ان کی نگاہ اور نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ اور جن کا معراج ہے مقام قوسین اور ادنیٰ کا یعنی قریب ہوئے کمان کے دھروں کی مقدار بلکہ اس

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلْجَاةِ الْعَارِفِيْنَ وَ

سے بھی قریب تر۔ لے اللہ صلوات و سلام بیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا عارفوں کا سہارا ہیں اور

مَاوَى الْعَاشِقِينَ وَحَاجِيَ الْحَرَمِينَ وَجَدَّ السُّبُطِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

عاشقوں کی جائے پناہ۔ حرمین شریفین میں ٹھہرنے اور قیام فرمانے والے اور دو شہزادوں حسن و حسین کے نانے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَرَّةَ الْعَيْنَيْنِ وَالْبَطْلُوْبِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو (ہر صاحب ایمان و عرفان کی) دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور کوئین سے وہی مطلوب

مِنَ الْكُوْنِيْنَ وَالْمَقْصُوْدِ مِنَ الدَّارِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

خداوند تعالیٰ اور دارین سے وہی مقصود باری تعالیٰ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّقِيْلِ الْحَجْرَةِ وَقَاتِلِ الْفَجْرَةِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا ربیت اللہ کے اکوٹوں کا یوسریلنے والے ہیں اور نازدوں کے قتل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَتَّبِعِ اَسْرَارِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سرچشمہ ہیں اسرار

الْقُرْآنِ وَمَخْزَنِ نِكَاٰتِ السُّوْرِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ

قرآن کے اور خزانہ ہیں سورتوں کے حروف مقطعات کے نکات کے (جو کہ یہ ہیں) اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ

الرَّاءِ الْمِرَاءِ الرَّاءِ كَهْيَعَصَّ طَهْ طَسَمْ طَسَّ طَسَمْ طَسَمْ طَسَمْ

اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ

اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِ

اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ - اَلْمِ

حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ حَمْ


حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ - حَمْ

وَحُدَّةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

واحد کے لیے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُرْشِدِ الثَّقَلَيْنِ وَمُجَوَّبِ الْاِمَامَيْنِ وَالْقِبْلَتَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو ہادی برحق کہ رہتا ہے جنوں اور انسانوں کے۔ اور جائز رکھنے والے ہیں۔ دونوں اماموں اور قبلوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الْكَوْنَيْنِ وَالذَّارَيْنِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ کونین و دارین (دنیا و آخرت) کا نور ہیں اور

التَّقْلَيْنِ وَالْحَسَنَيْنِ وَالسَّبْطَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جنوں اور انساؤں اور حسن و حسین دونوں نواسوں کے نور ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَبْرُورِ نَارِ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ وَنُورِ اللَّهِ عَلَى الْأَفْعَدَةِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو رحمت مجسم کہ ٹھنڈا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیڑا کالی ہوئی ناختم کے اور اللہ تعالیٰ کے نور میں جن کا کس و پڑ نور اہل ایمان کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَحْمَتِكَ

دلوں پر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سرسبز تیری رحمت ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر ایسی صلوٰۃ کہ

تُلْبِسُنَا بِهَا جِلْبَابَ الْخَشْوَعِ وَالْخُضُوعِ يَا صَانِعَ كُلِّ مَصْنُوعٍ اللَّهُمَّ

پہنائے تو ہمیں بسبب اس کے خضوع و خشوع کی و سبب چادر۔ اے بنانے والے ہر مصنوع کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ تُلْبِسُنَا بِهَا جِلْبَابَ الْعِصْمَةِ يَا

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر ایسی صلوٰۃ کہ اس کی بدولت پہنائے تو ہمیں چادر عصمت کی اے

مَوْلَى كُلِّ نِعْمَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ تُلْبِسُنَا

عطا کرنے والے ہر نعمت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر ایسی صلوٰۃ کہ پہنائے تو ہمیں

بِهَا الْأَمَانَ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بطفیل اس کے لباس امن و امان کا اے قدیمی احسان والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضِ سُؤْلِيَّةٍ

اور سیدنا محمد کی آل پر جس آقا کو کفن دیا گیا تین سفید سوئی یا دھلے ہوئے کپڑوں میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب



هُوَ لِحَوَارِجِنَا عَنْ دُخُولِ الْعَصِيَانِ بَوَابٍ وَ لِسِرِّنَا مُصِقِّلٌ اللَّهُمَّ

ہمارے بیرون کے لیے عصیان میں داخل ہونے سے رکاوٹ ہیں اور دروازہ بند رکھنے والے۔ اور ہمارے اندرون کو صیقل کرنے اور جلا بخشنے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّقِيِّ وَنُورِ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ پاکیزہ لوگوں کی سند اور دستاویز ہیں اور

الْهُدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہدایت کے نور ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي صَوْمُهُ أَشَقُّ الصِّيَامِ وَ قِيَامُهُ أَطْوَلُ الْقِيَامِ وَ هُوَ أَشَدُّ الْبَلَاءِ وَ أَحْمَلُ

کہ جس محبوب کا روزہ سب سے زیادہ گراں اور باعث مشقت تھا اور صوم کا قیام سب سے طویل تر تھا اور وہ شدید آزمائش میں مبتلا ہونے والے ہیں اور اسطے بندی و زحمت

أَذَى الْأَنَامِ وَ مَلْجَأُ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْعَوَامُّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کے اور بہت زیادہ برداشت کرنے والے ہیں تکلیف مخلوق کی اور جائے پناہ ہیں مقربین ملائکہ کے اور عام ملائکہ کیلئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُرَبِّي الْكَوْنَيْنِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجَانِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ کونین کے اندر مربی ہیں انسانوں اور جنوں کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی

أَوْلِيَاءُ أُمَّتِهِ مُشْتَاقُونَ إِلَى لِقَائِهِ وَ كَلَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اُمت کے تمام اولیاء کرام مشتاق ہیں ان کی لقاء و دیدار اور ان سے شرف ہم کلامی حاصل کرنے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَوْ كَانَتْ الْأَفْلاكُ أُرَاقًا وَ الْأَشْجارُ أَقلامًا وَ الْبِحَارُ مِدَادًا لَمَا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس عظیم المرتبت محبوب کیلئے سب آسمان ورق بن جائیں اور سب درخت قلمیں اور سب سمندر سیاہی بن جائیں

وَسَعَتْ حَصْرُ مَنْزِقِيهِ وَ عَدَدُ كَمالاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو بھر بھی البتہ گنجائش نہیں رکھیں گے ان کے منافق کے حصر کی اور کمالات کے شمار کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

مَا دَامَ الْمُمْكِنُ مُحْتَاجًا إِلَى الْوَأَجِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جب تک ممکنات کا احتیاج واجب تعالیٰ کی طرف برقرار رہے (یعنی ہمیشہ کے لیے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَيِّ الرِّحْمَةِ وَيَا مَنْ بِهِ يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَيَا أَفْضَلَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ آقا کہ نبی رحمت ہیں۔ اور اے وہ ذات رحیم کہ لطیف ان کے رحم فرماتا ہے ہم پر اللہ تعالیٰ سے وہ

خَلَقَ اللَّهُ وَيَا أَشْرَفَ خَلْقِ اللَّهِ وَيَا أَكْرَمَ خَلْقِ اللَّهِ وَيَا أَرْحَمَ خَلْقِ

ذات جو افضل ترین ہیں اللہ کی ساری مخلوق سے اور اے بزرگ ترا اللہ کی ساری مخلوق سے اور اے مکرم ترین مخلوق خدا سے۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے

اللَّهُ وَيَا أَحْلَمَ خَلْقِ اللَّهِ وَيَا أَعْظَمَ خَلْقِ اللَّهِ وَيَا أَفْضَلَ النَّبِيِّينَ اللَّهُمَّ

تمام مخلوق خدا سے اے سب مخلوق سے زیادہ حلیم اور بردبار اے سب مخلوق سے عظیم تر اے تمام انبیاء سے افضل ترین۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَوَّالٍ لِّلْمُسْتَبِيرِينَ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ نور ہیں بصیرت کے طلبگاروں کے لیے

وَدَلِيلًا لِّلْمُتَّحِدِينَ وَطَرِيقًا لِّلْعَارِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور دلیل و رہنما ہیں جو تہمتوں میں ڈوبے ہوؤں کے لیے اور صراطِ مستقیم میں گرفتار واصلین کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ مَّشَاهِدَاتِ وَمَعْدِنِ التَّجَلِّيَّاتِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ مشاہدات باری تعالیٰ کے لیے منبع و سرچشمہ ہیں اور معدن و کان ہیں تجلیات اللہ کے لیے اور

مُؤَصِّلِ الْعِبَادِ إِلَىٰ رَبِّ الْأَرْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

واصل کرنے والے ہیں بندگان خدا کو رب الارباب تک۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ حَسَنَ الْجِسْمِ كَأَنَّهُ غُصْنٌ بَيْنَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ خوبصورت اور تزوینازہ جسم والے تھے گویا کہ نو میدہ شاخ تھے

غُصْنَيْنِ لَمْ تُعْبَهُ ثَجَلَةٌ وَلَمْ تُزْرِبْهُ صَعْلَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

دو شاخوں کے درمیان جنہیں عیب وار نہیں کیا۔ پیٹ کی بڑائی کے اور نہ عیب ناک کیا سر کی چھوٹائی نے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا كَأَنَّمَا

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو معدن حسن و جمال سفید رنگ اور ملاحت و جاذبیت والے تھے گویا کہ

صَيْغٌ مِنَ الْفِضَّةِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَبْيَضَ مُشْرَبًا بِالْحَمْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

چاندی سے ڈھالے گئے تھے اور آپ کا چہرہ اور سفید سرخی مائل تھا جیسے سونے پر چاندی کا پانی چڑھا ہوا اے اللہ صلوات و



سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ كَأَنَّ الشَّمْسَ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب خدا کا چہرہ اس قدر روشن تھا کہ گویا سورج

تَجْرِي فِي وَجْهِهِ وَكَانَ رَفِيقَ الْبَشَرَةِ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَصْفَىٰ مِنْ جِلْدِهِ

اس کے اندر چل رہا ہے اور آپ کی جلد مبارک انتہائی رفیق اور ملائم تھی اور کائنات کی کوئی شئی آپ کی جلد مبارک کی طرح صاف و

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

شفاعت نہیں تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس سر پر احسن کے چہرے مبارک کا

كَانَ كَأَنَّ مَاءَ الذَّهَبِ يَجْرِي فِي صَفْحَةِ خَدِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

رنگ ایسے تھا کہ گویا کہ سونے کا پانی بہ رہا ہو ان کے عارض رخ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ رَوْقَ الْجِبَالِ يَطْرُدُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے جہاں و حسن کی رونق اور بہار دائمی تھی

فِي سِرَّةِ جَبِينِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ان کی پشتانی کے خطوط اور کیروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَكَانَ عَرْقُهُ فِي وَجْهِهِ

آل پر کہ جو محبوب سب سے حسین تر تھے چہرہ انور کے لحاظ سے اور تھے آپ کے سینے کے نظرات) آپ کے چہرہ اقدس میں

كَالذُّرِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گویا کہ لولہ آبدار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

الَّذِي لَمْ يَكُنْ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَكَانَ مَلِيحَ الْوَجْهِ كَثِيرَ الْعَرَقِ

جو تا حد احسن بالکل خالص سفید نہیں تھے اور آپ یلح اور پرکشش چہرہ والے تھے اور زیادہ پسینہ والے تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا

كَانَ إِذَا سَرَّ اسْتَبَارَ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْقَمَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

جب تشریح ہونے لگے تو آپ (کا چہرہ انور) جگمگا اٹھنا لگتا تھا گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَثَرُ الْبُخَيْطِ فِي صَدْرِهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کے سینہ مبارک میں (شق صدر کے بعد) سلائی کا نشان موجود تھا۔

وَكَانَ تَدْوِيرٌ قَلِيلٌ فِي وَجْهِهِ مَعَ التَّنْوِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

اور تھی گولائی موزوں سی آپ کے چہرہ اقدس میں بمعہ تنویر اور چمک و درمک کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَتَبَرَّقُ بِسَارِيرِ وَجْهِهِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے چہرہ انور اور جبین مقدس کے خطوط چمکتے تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَحْسَنَ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کر سب سے زیادہ

النَّاسِ عُنُقًا وَكَانَ جَبِينُهُ بَرَّاقًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نحو بصورت گردن والے تھے۔ اور آپ کی پیشانی مبارک بہت روشن اور جلیلی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ عظیم سرمبارک والے تھے (موزوں انداز میں) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ بہت دراز قد بھی نہیں تھے۔ اور نہ بالکل پست

وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمْتَرِدِّدِ وَكَانَ جَلِيلَ الْمَشَاشِ وَالْكَتَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور کوتاہ قامت (بلکہ درمیانہ قامت والے تھے) اور آپ کے ہڈیوں کے سرے اور کندھوں کا درمیان حصہ عظیم و جلیل تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إِلَىٰ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا درمیانہ قد لوگوں میں شمار کئے جاتے تھے

الرَّبِيعَةِ إِذَا امْشَىٰ وَحْدَهُ وَكَانَ إِذَا امْشَىٰ مَعَ الطَّوِيلِ طَالَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جب اکیلے چلتے اور جب کسی دراز قد آدمی کے ساتھ چلتے تو اس سے بلند و بالا نظر آتے آنا کہ معنی بڑی کی طرح صوری بندی بھی متفق ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَزْبَحَ الْحَاجِّينَ وَكَانَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا باریک اور دراز ابروؤں والے تھے اور تھے

أَحْسَنَ عِبَادِ اللَّهِ شَفَتَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اللہ کے تمام بندوں سے زیادہ حسین ہونٹوں کے لحاظ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ حَوَاجِبُهُ سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ قَرْنٍ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے ابرو مبارک کامل و مکمل اور دراز و کشادہ تھے بغیر باہمی تقارنت و اتصال کے

وَلَمْ يَكُنْ قَصِيرَ الدَّقْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور نہ تھے آپ کوتاہ اور چھوٹی ٹھوڑی والے (بلکہ ہر عضو موزونیت کے اعلیٰ معیار پر تھا) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ بَيْنَ حَاجِبَيْهِ عِرْقٌ يُدْرَهُ الغَضَبُ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس شہہ کونین کے دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جس کو جنبش دیتی تھی حالت غضب

وَكَانَ زُرِّيْعَ المَشْيَةِ إِذَا مَشَى تَقْلَعُ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَيْبِ اللّٰهِمَّ

اور آپ چلتے میں بہت تیز تھے جب آپ چلتے تو پاؤں اس طرح قوت اور زور سے اٹھانے گویا کہ آپ بندی سے ڈھل رہے ہیں اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا باریک بھنوں والے تھے۔

دَقِيقَ الحَاجِبَيْنِ وَكَانَ إِذَا سَرَّيْرِي شَخْصُ الجُدْرِ فِي وَجْهِهِ الحَسَنُ وَكَانَ

اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو دیکھے جاتے درو دیوار کے عکس آپ کے سین و جیل چہرہ میں اور تھا

لَوْنُ ابْطِيءِ اَبْيَضَ كَلَوْنِ سَائِرِ البَدَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رنگ آپ کی مبارک نغلوں کا سفید ترمانند تھا بدن کی رنگت کے رنگ سیاہی مائل بوجہ بالوں کے اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ عَظِيمَ الجَمَّةِ يَجَاوِرُ شَعْرَةَ اِلَى شَحْمَتِي

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب عظیم بالوں والے تھے آپ کے بال تجاوز کر جاتے کانوں کے نرموں تک

اُدْنِيهِ إِذَا طَالَ وَوَفْرَةً إِذَا قَصُرَ اِلَى اَنْصَافِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جب دراز ہو جاتے تھے اس مقدار کو مجتہد کہا جاتا ہے اور وفرہ کی صورت میں ہو جاتے کانوں کے وسط تک جب کاٹے جاتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ رَجُلَ الشَّعْرِ كَأَنَّهُ فُشْطٌ

بھیج سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ درمیانے قسم کے کھنگریاے بالوں والے تھے گویا کہ وہ کنگھی کئے ہوئے ہیں

وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجَبَّةِ دُونَ الْوُفْرَةِ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ

اور تھے آپ کے بال جُمہ کی حد سے اذیر اور وفہ کی حد سے نیچے اور (کبھی کبھار) آپ کے بال مبارک آپ کے کندھوں سے ٹکراتے تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس آقا کے بال مبارک (کبھی)

شَعْرُهُ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ وَطَابَتْ رَائِحَةُ ابْطِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ان کے مبارک کانوں کے درمیان تک رہتے تھے۔ اور پاکیزہ تھی آپ کے مبارک و معنی نغلیوں کی خوشبو۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا انْفَرَقَتْ عَقِيْقَتُهُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کے بال پراگندہ اور جدا ہو جاتے

فَرَّقَ وَالْأَفْلَا وَكَانَ جَعْدًا رَجُلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو کنگھی کر کے مانگ نکالتے ورنہ نہیں۔ اور تھے گھٹکریا لے مگر درمیانے قسم کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بِالسَّبُطِ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ اللَّهُمَّ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ ایسے گھٹکریا لے کہ بالکل الجھے ہوئے ہوں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ حَسَنَ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے بال بہت حسین تھے۔

الشَّعْرَ وَكَانَ غَامِرِي الشُّدِيِّنَ وَالْبَطْنَ وَكَانَ مَفَاضَ الْبَطْنِ وَعَارِي

اور تھے آپ بالوں سے عاری پستانوں اور پیٹ والے راسوائے مسرہ کے اور آپ کا پیٹ مبارک ہوا تھا اور سینہ مبارک الجھل ہوا اور بند

الصَّدْرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا تھے

كَانَ ذَا عَدَائِرٍ أَرْبَعٍ وَكَانَ طَوِيلَ الْأَصَابِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

چار مینڈھیوں والے اور دراز انگلیوں والے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ عَرِيضَ الصَّدْرِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب فراخ اور کشادہ سینہ والے تھے

كَانَ شَدِيدَ سَوَادِ الشَّعْرِ وَكَانَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ وَلَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِهِ

اور سخت سیاہ بالوں والے۔ اور درمیانے قد و قامت والے تھے۔ اور نہیں تھی آپ کے سر مبارک میں

شَيْبٌ إِلَّا شَعْرَاتٌ فِي الْفَرْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

سفیدی بڑھاپے کی ماسوائے چند بالوں کے جوٹی مبارک میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ الْبَيَاضُ فِي عُنُقَيْهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی رڈاڑھی مبارک میں (سفیدی صرف پچھلے ہونٹ کے زریں حصہ میں اور کنپٹیوں میں تھی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے نہ تھے

يَكُنْ عِنْدَ الشَّيْبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ اللَّهُمَّ

بڑھاپے کے وقت سرناز اور ڈاڑھی مبارک میں (مجموعی طور پر) مگر صرف بیس سفید بال۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ مَسِيحٌ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ گویا تیل لگائے ہوئے

الْقَدَمَيْنِ يَنْبُوعُهُمَا الْمَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

قدموں والے تھے دور ہو جانا تھا ان دونوں سے پانی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ لَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَيْبَةٌ أَحْمَرٌ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے مبارک بالوں پر بڑھاپے کا اثر نمودار ہو چکا تھا اور وہ اثر تھا ان کا سرخی نائل ہونا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب سب

كَانَ أَجْمَلَ النَّاسِ مِنْ بُعِيدٍ وَأَجْلَاهُمْ وَأَحْسَنَهُمْ مِنْ قَرِيبٍ وَكَانَ

سے زیادہ باجمال تھے دور سے "دیکھنے پر" اور روشن ترین اور خوبترین قریب سے۔ اور

أَجْرَدَ وَأَنُورَ الْمُتَجَرِّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ کا جسم مبارک (عمومی طور پر) بغیر بالوں کے تھا اور آپ کے اعضاء بالوں کے بغیر خوشنما اور نورانی تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ ذَا الْمَسْرَبَةِ وَطَوِيلِ الْمَسْرَبَةِ وَحَسَنَ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب سینہ سے ناف تک بالوں والے تھے اور آپ کی بالوں کی یہ کبیر

الْأَرْنَبَةِ وَأَقْتَى الْأَنْفِ وَخَافِضِ الظَّرْفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

لمی تھی اور آپ کے ناک مبارک کی نوک بہت حسین تھی اور آپکا ناک مبارک بلند معلوم ہوتا تھا جو نورانیت کے اور نیچی نظروں والے تھے لے اللہ صلوات

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَقْتَى الْعَرْنَيْنِ وَ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ تھے ناک مبارک کی بلند نوک والے یا بلند وسطی حصہ والے

وَإِسْعَ الْجَبِينِ وَحَسَنَ الصَّوْتِ وَضَلِيعَ الْقَمِّ مَفْلَجًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کشادہ جبین۔ حسین آواز والے۔ کشادہ منہ مبارک والے اور سامنے کے دانتوں میں مناسب کشادگی والے۔ لے اللہ صلوات

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَدْعَجَ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سیاہ اور موٹی آنکھوں والے

الْعَيْنَيْنِ وَتَأَمَّرَ الْأَذْنَيْنِ وَأَحْوَرَ أَنْجَلَ الْبَقْلَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تھے۔ اور کامل و مکمل کانوں والے۔ سفید رنگت والے۔ موٹی اور خوبصورت آنکھ والے۔ لے اللہ صلوات و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَسِيلَ الْخَدَّيْنِ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ ڈھلوان رخساروں والے تھے۔

وَبُعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكَبَيْنِ وَطَوِيلَ شِقِّ الْعَيْنَيْنِ وَعَظِيمَ الْمَنْكَبَيْنِ

اور کندھوں کے درمیانی جوڑے حصہ والے تھے آپ کی آنکھوں کے نکات اور درزیں لمبی تھیں اور آپ کی گردن مبارک اور نوٹھ کے درمیانی حصے عظیم

وَكَانَ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ وَلَيْدَةً طَيِّبَةً كَانَتْ مَخْرَجَةً مِّنْ جُؤنَةٍ

تھے۔ آپ کی پلکیں دراز تھیں۔ اور آپ کے ہاتھوں میں ایسی خوشبو تھی گویا کہ وہ نکالے گئے ہیں

الْعَطَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عطار کے پھیلے اور ٹوبے سے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي كَانَ أَشْكَلَ أُمِّي كَانَتْ لَهُ عُرُوقٌ دَقِيقَةٌ حَمْرَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ

جو محبوب اشکل العینین تھے یعنی آپ کی آنکھوں میں سرخ باریک ڈورے تھے۔ لے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ شَتْنِ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ پڑگوشت ہتھیلیوں اور

الْكَفِيِّنَ وَالْقَدَمَيْنِ خُصَّانَ الْأَخْمَصِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

قدموں والے تھے۔ اور درمیان سے تھوڑے بلند اور آٹھے ہوئے تلووں والے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ كَفُّهُ الْيَمِّ بْنِ الْحَرِيرِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے ہر دو کف دست زیادہ ملائم تھے ریشم سے (بالعموم)

وَالدِّيَابِاجِ وَعَلَبَ ضَوْءُ الشَّمْسِ وَالسَّرَاجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اور ایک نفیس ترین ریشم سے بالخصوص باوجود اپنے سارے کام کاج خود کرنے کے اور غالباً تھی نورانیت آپ کی سوزج اور چراغ کی روشنی یعنی جس کے سامنے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ الْكحلَ الْعَيْنَيْنِ فَيَلْسُ

سامنے ہوتے اسی پر غلبہ حاصل ہوتا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب سرکین آنکھوں والے تھے حالانکہ

بِأَكْحَلٍ وَكَانَ نَظْرُهُ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ أَطْوَلَ اللَّهُمَّ

سر مرگاتے نہیں تھے۔ اور تھی آپ کی نظر مبارک طرف زمین کے بعد دیکھنے کے طرف آسمان کے زیادہ دراز اور لمبی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَصْفُهُ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی توصیف نہیں کی

وَاصْفُ قَطْرَ الْأَشْبَةِ وَجْهَهُ بِالْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَانَ حَسَنَ الشَّعْرِ

کسی تعریف کرنے والے نے کبھی مگر اس نے تشبیہ دی آپ کے چہرہ انور کو ساتھ چودھویں کے چاند کے اور تھے آپ حسین بالوں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ

كَانَ أَشْنَبَ وَكَانَ سَبْطَ الْقَصَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خوبصورت و انہوں والے تھے اور موزوں لمبی ٹہریں والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ مُفْلِحَ الْأَسْنَانِ وَكَانَ أَحْسَنَ مِنْ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب کہ سامنے کے دو دانتوں میں کشادگی رکھتے تھے اور تھے زیادہ حسین

الْقَبْرِ فِي لَيْلَةِ أَضْحِيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

چاند سے روشن ترین رات میں (چودھویں شلا) لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ بَرَّاقَ الثَّنَائَا وَكَانَ يَرَى أَحَدَ عَشْرَ نَجْمًا

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کریم کے روشن اور چمکیے تھے سامنے کے اوپر نیچے والے دانت اور آپ دیکھا کرتے تھے گیارہ ستارے

فِي الثُّرَيَّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ثریا میں (نگاہ کی ظاہری قوت کے لحاظ سے اسے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي كَانَ أَفْذَحَ الثَّنِيَّتَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَعْرٌ سِوَى الْمَسْرِبَةِ عَلَى

جو محبوب کہ دونوں ثنا یا میں کشادگی رکھتے تھے۔ اور نہیں تھے آپ کے پستان اور پیٹ مبارک پر بال سوائے پیٹ اور سینہ کے

الْبَطْنِ وَالشَّدِيَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ

درمیان والی بالوں کی باریک کبیر کے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ رَقِيقَ الْمَسْرِبَةِ ضَخَمَ الْعِظَامِ وَكَانَ إِذَا

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب سینہ کے پچلے حصے سے ناف تک باریک کبیر بالوں کی رکھتے تھے اور ضخیم ہڈیوں والے تھے

تَبَسَّمَ يَفْتَرَعُنْ مِثْلَ سَنَاءِ الْبُرْقِ أَوْ مِثْلَ حَبِّ الْغَمَامِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

جب تبسم فرماتے تو ہونٹ مبارک ہلکتے تھے بجلی جیسی چمک سے یا اولوں کے دانوں سے۔ لے اللہ پیدا فرما

فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا

میرے دل میں نور۔ اور میری آنکھوں میں نور۔ میرے کانوں میں نور۔ میرے دائیں نور

وَمِنْ شِمَالِي نُورًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ

اور میرے بائیں نور۔ میرے پیچھے نور اور میرے آگے نور۔ میرے

فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا اللَّهُمَّ اعْطِنِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي

اوپر نور اور میرے نیچے نور۔ لے اللہ عطا فرما مجھے نور۔ بنا میرے لیے

نُورًا وَفِي عَصَبِي نُورًا وَفِي لَحْيِي نُورًا وَفِي دَمِي نُورًا وَفِي شَعْرِي

نور۔ اور میرے اعصاب میں نور۔ میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور۔ میرے بالوں میں



نُورًا وَفِي بَشْرِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَ

نور اور میری جلد میں نور۔ میری زبان میں نور اور پیدا فرما میرے نفس میں نور اور

اعْظِمْ لِي نُورًا اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا أَبْوَابَ

عظیم فرما میرے لیے نور کو۔ اے اللہ کھول دے ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے اور آسان فرما ہمارے لیے اپنے

رِزْقِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِي وَهَزْلِي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ

رزق کے دروازے اور وسائل۔ اے اللہ میرے لیے بخش دے میری سنجیدہ حرکت اور غیر سنجیدہ اور غیر ارادی فعل اور ارادی گناہ اور یہ سبھی انواع و اقسام

عِنْدِي اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ

میرے اندر ہیں۔ اے اللہ بے شک ہم تجھ سے استعانت کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ایمان لانے ہیں تیرے ساتھ۔ اور توکل کرتے ہیں

عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنُشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُحَلِّعُ وَنُتْرِكُ

تجھ پر اور ثنا کرتے ہیں تجھ پر خیر کے ساتھ۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور کفران نعمت نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں

مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَكَانَ نُصَلِّيُ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعِي

تیرے نافرمانیوں کو۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری نماز پڑھتے ہیں۔ تجھی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور صرف تیری طرف دوڑتے

وَنُحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشِي عَذَابَكَ الْجَدَانَ عَذَابَكَ الْجَدَّ

ہیں اور جلدی کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی اور خوف رکھتے ہیں تیرے سخت عذاب کا۔ بے شک تیرا عذاب شدید

بِالْكَفَّارِ مُدْحِقٌ ط اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَ

کافروں کو ہی پہنچنے والا ہے۔ اے اللہ جو رب ہے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کا اور

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نار جہنم سے۔ اے اللہ بخش دے ہمیں

وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ

اور رحم فرما ہم پر۔ ہم سے راضی ہو اور ہم سے قبول فرما۔ ہمیں جنت میں داخل فرما اور نجات دے

النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ اللَّهُمَّ الْفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ

نار جہنم سے اور درست فرما ہمارے لیے ہمارے تمام معاملات۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما۔ اور درست فرما ہمارے



بَيْنَنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَبِحَنَامِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى التُّورِ ط وَجَنِّبْنَا

یا ہمہی تعلقات کو اور ہمیں چلا سلامتی کی راہوں پر اور ہمیں نجات عطا فرما ظلمات اور تاریکیوں سے پہنچاتے ہوئے طرف نور کے اور ہمیں

الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَ

رکھ براہیوں سے جو ظاہر ہیں ان میں سے یا مخفی اور برکت دے ہمارے لیے ہمارے کانوں۔ آنکھوں اور

قُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَ

دلوں میں۔ بیویوں میں اور اولادوں میں۔ اور نظر رحمت فرما ہم پر بیشک تُو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اور

اجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُتَّبِعِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتَمِّهَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ

بنا ہمیں شکر گزار اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والے ساتھ ان کے (دل و جان سے) قبول کرنے والے ان کے۔ اور انہیں مکمل فرما ہم پر اے اللہ

اقِسِمْ لَنَا مِنْ خَشِيَّتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ

حصہ بخش ہمیں اپنی خشیت کا۔ اس قدر کہ عامل ہو جائے تو بسبب اس کے درمیان ہمارے اور درمیان ہمارے گناہوں کے اور

طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا

طاعت سے اتنا قدر کہ پہنچا دے بسبب اس کے جنت تک و یقین سے اتنا حقہ کہ آسان کر دے بسبب اس کے ہم پر

مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَ

مصائب دنیا کے اور نفع مند بنائے رکھنا ہمیں ہمارے کانوں اور آنکھوں کے ساتھ اور ہماری قوتوں کے ساتھ جب تک ہمیں زندہ

اجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ

رکھے اور بنانا میں سے ہر ایک کو وارث اور باقی ہم سے۔ اور بنا ہمارا بدلہ ان پر جنہوں نے ہم پر ظلم کیا۔ اور ہمیں نصرت عطا فرما ہمارے

عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا الْكِبْرَهَيْتَنَا وَلَا

اعلا پر۔ اور نہ بنانا مصیبت ہماری ہمارے دین میں۔ اور نہ بنانا دنیا کو ہمارا بڑا مقصد اور نہ

مُبْلَغَ عَلَيْنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا اللَّهُ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا

ہمارا مبلغ علم اگر اس کے علاوہ کچھ نہ جائیں اور نہ مسلط فرما نا ہم پر جو نرم کرے ہم پر۔ اے اللہ ہمیں بڑھا اور ہمیں کم نہ کر۔

وَ اكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاثْرْنَا وَلَا تُؤْتِرْ عَلَيْنَا

اور ہمیں عزت عطا کر اور حقیر نہ کر۔ ہمیں عطاؤں سے نواز اور محروم نہ فرما۔ اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے ہم پر کسی کو ترجیح نہ دینا

وَأَرْضِنَا وَأَرْضَ عَتَا اللَّهُمَّ الْهَمْنِي رُشْدِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ

اور ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ مجھے الہام فرما میری بھلائی کا۔ اور مجھے پناہ دے میرے نفس کے

نَفْسِي اللَّهُمَّ أَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا

شر سے۔ اے اللہ مجھے نفع بخش ساتھ اس کے جو تو نے علم عطا کیا ہے اور مجھے وہ علم سکھلا جو مجھے نفع دے۔ اور مجھے بڑھا اور نئے علم

بِرُحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ كَثَّ الدِّحْيَةِ وَذُرْبَاعِ الْمَشْيَةِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ گھنی ڈواڑھی مبارک والے تھے اور چلنے میں تیز رفتار

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی

لِحْيَتُهُ تَمَلَأُ صَدْرَهُ وَقَالَ نَاعَتُهُ لَمْ أَسْأَلْهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ اللَّهُمَّ

ڈواڑھی مبارک ان کے سینہ کو بھرے ہوئے تھی اور کتا تھا ان کا ہر نعمت خوان " نہیں دیکھا میں نے آپ سے پہلا اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کہ اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ لِحْيَتُهُ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی ڈواڑھی مبارک

أَسْوَدٌ وَكَانَتْ كَفِّهِ مِنَ الثَّلْجِ أَبْرَدَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیاہ تھی اور ان کی ہتھیلی برف سے زیادہ ٹھنڈی (معلوم ہوتی تھی بسبب ذوق و محبت کے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنَ الطُّولِ وَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ کاتے تھے اپنی ڈواڑھی مبارک لمبائی سے بھی (قبضہ سے زائد ہونے کی صورت میں) اور جو طرائق

الْعَرَضِ وَكَانَ بَطْنُهُ كَالْقَرِاطِيسِ الْمُنْتَلِي بِعَضِّهَا عَلَى بَعْضِ اللَّهِمَّ

میں بھی اور تھا آپ کا بطن اقدس (سفیدی اور نرمی کی وجہ سے) مانند سفید کاغذات کے جو تیرہ تڑکنے گئے ہوں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے



ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ ضَخْمَ الْهَامَةِ وَكَانَ خَاتَمَ نُبُوَّتِهِ بَضْعَةً

کندھوں کی بڑیانِ عظیم تھیں اور سر مبارک کی کھوپڑی عظیم تھی اور آپ کی مہرِ نبوت گوشت کا اُسبھا

نَاشِزَةً كَبِيضَةً الْحَمَامَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہوا اٹھا تھی مانند کبوتری کے اٹھے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ كَانَ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ عِنْدَنَا غَضِ كَتِفِهِ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کی مہرِ نبوت بائیں کندھے کی چوڑی باریک ہڈی کے

الْبِیْرٰی وَكَانَ يَنْتَكِفَا اِذَا امْتَنٰی اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

قریب تھی اور آپ تیز جنبش فرماتے تھے جب چلتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ كَانَ يَتَلَمَّا خَاتَمَ نُبُوَّتِهِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کی مہرِ نبوت چمکتی تھی (بوجہ شدید نورانیت کے جانب اندرون میں)

وَ كَانَ اِصْبَعٌ قَدَمَيْهِ السَّبَابَةُ اَطْوَلَ مِنْ سَائِرِ اَصَابِعِهِ اَللّٰهُمَّ

اور آپ کے قدموں کی انگلیوں کے ساتھ والی انگلیاں دوسری تمام انگلیوں سے لمبی تھیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ كَانَ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی

مَكْتُوبًا عَلٰى خَاتَمِ نُبُوَّتِهِ اَللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَوَجَّهَ حَيْثُ

مہرِ نبوت پر لکھا ہوا تھا " اللہ یکتا ہے نہیں شریک اس کے لیے توجہ کرو جہر

شَدَّتْ فَاِنَّكَ مَنْصُورٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى

چاہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و امداد ہر وقت تمہارے شامل حال ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ شَنَائِهَا النُّوْرُ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو نور مجسم جب کلام فرماتے تھے تو نکلتا تھا ان کے سامنے کے دانتوں سے نور اور

كَانَ عِبَلُ الزَّرَاعِيْنَ وَالْعَصْدِيْنَ وَطَوِيْلَ الرَّنْدِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

تھے آپ مضبوط سفید کلاخوں اور بازوؤں والے اور لمبے گوشوں اور جوڑ کی لمبی ہڈیوں والے۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ رَاقِيًا

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ باریک اور نفیس

الْأَنَامِلِ وَكَانَ عَيْلَ الْأَسَافِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

پوروں والے نغھے اور آنکلیوں کے موٹے اور مضبوط نچلے جوڑوں والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَشْعَرَ الْمُنْكَبِينَ وَالسَّاقِيْنَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کریم کے کندھوں اور پنڈلیوں پر زیادہ بال تھے (نسبت دوسرے حصوں کے)

وَرَحَبَ الْقَدَمَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور آپ پر گوشت اور چوڑے قدموں والے نغھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ لَهُ خُمُوشَةٌ فِي السَّاقِيْنَ وَكَانَ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کی پنڈلیوں میں مناسب باریکی تھی۔ اور نغھیں

مَنْهُوسَ الْعَقَبَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آپ کی ایڑیاں کم گوشت والی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَحْسَنَ الْبَشَرِ قَدْ مَا وَكَانَ فَنَامًا فَخِيمًا

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سب بشروں سے حسین نغھے از روئے قدموں کے۔ اور نغھے بذات خود عظیم اور عظیم سمجھے جانے والے

وَكَانَتْ خَنْصَرٌ وَبَنْصَرٌ رَجُلِيَهُ مُتَضَاهِرَةً وَكَانَتْ سَاقُهُ كَأَنَّهَا جَهَارَةٌ

اور آپ کے پاؤں مبارک کی چھوٹی انگلی اور ساتھ والی لمبائی میں قریب قریب نغھیں اور آپ کی پنڈلی گویا کھجور کی شاخ تھی جبکہ پردے میں ہوا ہوا

كَانَ بَادِنًا حِينَ أَسَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

سفیدی کے نغھے آپ بھاری جم والے سن رسیدگی کے دوران۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ مُتَمَايَسِكَ الْبَدَنِ وَمُنْبَسِطَ الْوَجْهِ دَائِمًا

سیدنا محمد کی آل پر جو کہ سٹے ہونے بدن والے نغھے۔ اور خندان چہرے والے ہمیشہ مسکراتے اور مسرت کو ظاہر

الْبَشَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کرنے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا



كَانَ لَطِيفَ الظَّاهِرِ وَكَانَتْ الْمُبَاحِظَةُ جُلَّ نَظَرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

لطیف جلد والے تھے اور تھا آب کا کنکھیوں سے دیکھنا پوری آنکھ سے دیکھنا یعنی کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ التَّبَسُّمُ جُلَّ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کا تبسم ہی مکمل

ضَحْكُهُ وَاِذَا التَّفَتَ التَّفَتَ مَعًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہنسی تھا۔ اور جب آپ کس طرف منوجہ ہوتے تو پورے جسم مبارک کے ساتھ منوجہ ہوتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اِذَا زَالَ زَالَ قَلْعًا وَكَانَ مَنْ رَاَهُ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جب رواں ہوتے تو پوری قوت سے روانہ ہوتے اور جو آپ کو اپنا

بَدَاهَةٌ هَابَةٌ وَكَانَ اِذَا خَالَطَهُ مَعْرِفَةٌ اَحَبَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

دیکھتا تھا مرعوب ہو جاتا تھا اور جب آپ کے کمال معرفت کے ساتھ میل جول رکھتا تو آپ کا محب بن جاتا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ اَنُورُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کا بالوں سے خالی ہر عضو بدن

الْمُتَجَرِّدُ يَتَلَمَّسُ وَجْهَهُ تَلَمَّسُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَانَ سَوَاءَ

انتہائی نورانی اور روشن تھا آپ کا چہرہ انور چمکتا تھا مثل چمکنے جانکے چودھویں رات اور آپ کا سینہ مبارک اور

الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ

پیٹ مبارک برابر اور ہموار تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ذَاتُهُ لِجَمِيعِ الْخَيْرِ وَالْحُسْنِ شَامِلَةٌ وَصِفَاتُهُ


آل پر جن کی ذات مقدسہ تمام خوبیوں اور محاسن کو محیط ہے اور جن کی صفات

عَالِيَةٌ كَامِلَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا

عالی شان اور کامل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ سَاطِعُ الْاَنْوَارِ وَمُشْرِقُ الْوَجْنَةِ وَمَكِينُ الْمَكْنَةِ

جو محبوب کہ بلند اور غالب انوار والے ہیں۔ چمکیلے اور روشن رخساروں والے اور عظیم و قوی قوت و طاقت والے ہیں



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کریم کہ

هُوَ بَدِيعُ الْبَنِّظَرِ وَالْمُخْبِرِ وَهُوَ طَلِقُ الْبُحَيَّا وَكَانَ التُّورُ يُسْبِقُ

انوکھے اور عمدہ منظر اور علم و آگہی والے ہیں اور کشادہ چہرے والے اور تھا آپ کے چہرے کا نور سبقت لے جانے والا

وَجْهَهُ عِنْدَ الرَّؤْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ کے چہرے سے وقت دیدار کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُورُهُ أَسْنَى مِنَ الْقَبْرَيْنِ وَأَشْرَقُ

کی آل پر کہ جس نور مجسم کا نور شمس و قمر سے زیادہ نمایاں اور روشن تھا

وَكَانَ نُورُهُ يَعْلُو الْأَنْفَ وَيَحِيرُ فِيهِ الْوَاصِفُ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آپ کا نور بینی پر نور پر سے بلند ہوتا تھا اور آپ کا واصف و ثنا گواہ میں حیرت کا مجسمہ بن جاتا تھا۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ وَاسِعٌ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ مانتھے اور جبین اقدس کی وسیع سفیدی

الْعُرَّةِ وَهُوَ سَنَدُ الْبِرَايَا وَرَأَى جِبْرَائِيلَ عَلَى صُورَةِ دَحِيَّةِ اللَّهِمَّ

والے ہیں اور مخلوقات کی نجات و فلاح کے لیے سند و ستاویز۔ اور دیکھا اپنے حضرت جبریل کو دحیہ کی صورت پر۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

هُوَ سَائِلُ الْأَطْرَافِ وَكَامِلُ الْأَوْصَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بجاری اور چوڑی ہتھیلیوں اور قدموں والے ہیں اور کامل اوصاف والے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبْهَى مِنْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ زیادہ خوب صورت ہیں

الشَّمْسِ وَالْبَدْرِ وَهُوَ شَامِلُ الْإِحْسَانِ وَكَانَ يَبِيتُ يُجَانِي

سورج سے اور چودھویں کے چاند سے جن کا جو درو احسان سب کو محیط ہے اور راتیں گزارتے تھے اس شان سے کہ

جَنْبِيهِ مِنَ الْفَرَاشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آپ کے پہلو دور رہتے تھے بستر سے اٹھ بیداری اور تہجد گزاری کی وجہ سے اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ مَا افْتَرَقَ وَسَدَلَ بِشَعْرَةِ

آل پر کہ جس محبوب میں جمع کر دیا ہے اللہ نے (ہر اس کمال کو) جو متفرق طور (کا ملین عالمین) موجود تھا اور آپ نے بالوں کو بغیر مانگ نکالے

وَفَرَّقَ وَلَمْ يَرِ أَحَدٌ قَطُّ أَجْمَلَ مِنْهُ وَلَا أَحْسَنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

بھی پیچھے ہٹائے رکھا اور مانگ بھی نکالی۔ اور نہیں دیکھا گیا کوئی شخص بھی آپ جیسا جمیل اور نہ حسین۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ شَرِيفٌ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب کہ بلند و بالا قدر و منزلت اور

الْقَدْرُ وَالنَّسَبُ وَهُوَ حُلُوُّ الْمَعَاطِفِ وَالشَّمَائِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نسب والے ہیں اور شیریں گلے اور گفتار والے ہیں اور پسندیدہ نسلتوں والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لِحَاسِنِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا میں اللہ تعالیٰ نے نور اور

النُّورِ وَالْبَهَاءِ جَارِيَةً فِي مَفَاصِلِ تَصْوِيرِهِ وَتَكْوِينِهِ اللَّهُمَّ

نور بصورتی کے معائن کو جاری فرمایا ہے آپ کی تصویر کے اعضاء اور جوڑوں میں اور خلق و تکوین میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر۔ جو

كَانَ يَبْتَدِي عَنِ الْكَلَامِ وَيَخْتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ وَهُوَ بَدِيعُ الْجَمَالِ

کلام کا آغاز فرماتے اور اس کا اختتام فرماتے اپنے ہونٹوں کے مقام اتصال پر (جو کہ دلیل فصاحت و بلاغت ہے) اور آپ عمدہ جمال والے

وَلِلْعُقُولِ بِأَهْرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہیں اور عقول کو دنگ کرنے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ مَسِيحُ الصُّدْرِ وَعَالِي الْقَدْرِ وَأَنْوَرُ الْمَتَجَرِّدِ

آل پر جو محبوب کہ قدرتی طور پر چنے اور چھڑے ہوئے سینہ والے ہیں اور بلند مرتبت اور آپ کے بالوں سے خالی اعضاء اور اجزاء بدن سے عین نظر اور



وَمُورِدُ كُلِّ وَابِرِدِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

نوشٹا تھے اور آپ ہر تہذیب کی سیرابی کے لیے آب حیات اکا گھاٹ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَانَ فِي الْعُيُونِ عَظِيمًا فَخِيمًا وَكَانَ فِي

آل پر جو محبوب کریم کہ خلایق کی نظروں میں عظیم و جلیل تھے اور مخلوقات کے

الْقُلُوبِ مُعْظَمًا مُفَخِّمًا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کے دلوں میں واجب التعظیم و التوقیر تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

عَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ حَسَنَ الْجَسْمِ أَسْمَرَ وَأَظْهَرَ اللَّوْنِ

کی آل پر کہ جو محبوب حسین جسم والے سفید شترجی مائل اور روشن رنگ والے تھے اور آپ

وَكَانَ يُتَشَبَّهُ بِالْهُونِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ

چلتے تھے آہستگی اور وقار کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بِالْبَطْهَرِ وَالْمُكَلِّمِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

پر جو محبوب کہ نہیں تھے پر گوشت اور بالکل گول چہرے والے اور نہ بالکل چپکے اور سٹھے ہوئے زحاروں والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ وَسِيْبًا قَسِيْمًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب خوب صورت تھے اور خزانئ النبیہ کے تقسیم کرنے والے

رَحْبَ الرَّاحَةِ وَكَانَ عُنُقُهُ جَيِّدًا دُمِيَّةً فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ وَكَانَ

کشادہ ہتھیلیوں والے (سختی) اور آپ کی گردن مبارک گویا بیت یسین کی گردن تھی چاندی جیسی صفائی اور سفیدی میں اور

سَطَعُ فِي عُنُقِهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ

آپ کی گردن مبارک میں فرازی اور بلندی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ رُبْعَةً إِلَى الطُّوْلِ أَقْرَبَ وَكَانَ أَطْوَلَ مِنْ

آل پر جس محبوب کا قد رعنا درمیانہ مائل بہ درازی تھا اور تھا دراز درمیانہ

الْمَرْبُوعِ وَأَقْصَرَ مِنَ الْمَشَدِّبِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قد سے اور کوتاہ تھا انتہائی دراز قامت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَشْعَرَ الزَّرَاعِيْنَ وَالسَّاعِدِيْنَ وَ

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کے ہاتھ اور کلاسیاں بالوں والی ہتھیں اور

كَانَتْ رَأِحَتُهُ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَكَانَ عَرَقُهُ أَطْيَبَ

آپ کی خوشبو پاکیزہ تر تھی کستوری اور عنبر سے۔ اور تھا آپ کا پسینہ سب خوشبوؤں سے

الطَّيِّبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زیادہ خوشبودار (بلکہ خوشبوؤں کو معطر بنانے والا) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي كَانَ ظَهْرُهُ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ الْفِضَّةِ وَكَانَ بَرَّاقَ الْجَبِيْنَ وَقَامَتُهُ

جس محبوب کی پشت از رو گویا چاندی سے ڈھلی ہوئی تختی تھی۔ اور آپ انتہائی روشن پیشانی والے تھے اور

بَيْنَ الْقَامَتَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

آپ کی قامت زیادہ درمیان تھی نہ طویل نہ قصیر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا بِالطَّوِيلِ الدَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الدَّائِي وَ

آل پر جو آقا کہ نہ بہت طویل قامت تھے اور نہ بہت کوتاہ قامت پستہ قد (بلکہ درمیانے موزوں قد والے تھے)

كَانَ أَبْيَضَ اللَّوْنِ وَمُشْرَبًا بِالْحَبْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور آپ سفید رنگ والے تھے جس میں سرمئی کی آمیزش تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي إِذَا قَامَ مَعَ النَّاسِ عَمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کریم جب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ان پر چھا جاتے

لَهُمْ فِي الْقِيَامِ وَإِذَا مَشَىٰ مَعَهُمْ كَأَنَّهُ سَحَابٌ مُّظِلٌّ مُّعَلِّقٌ

حالت قیام میں اور جب ان کے ساتھ چلتے تو رازروئے عظمت و اہمیت میں معلوم ہوتے کہ گویا بادل ہیں جو سایہ فگن اور گلنے

بِالْغَمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والے ہیں بادلوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جو

أَجْعَدَ الشَّعْرَ شَدِيدٌ سَوَادُهُ كَاللَّيْلِ الْبَهِيمِ وَكَانَ شَعْرُهُ نَازِلًا مُّتَّصِلًا

گھنکر بالے بالوں والے تھے جو سخت سیاہ تھے مانند سیاہ ناریک رات کے۔ اور تھے آپ کے بال ٹٹھے ہوئے اور

إِلَى شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کانوں کے نرموں سے لے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَخْزِنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِي مَا يَعْنِيهِ وَيُؤَلِّفُهُمْ

آل پر جو محبوب مکرم اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے (بولنے سے) مگر مقصودی امور میں اور صحابہ کرام کی تالیف قلوب فرماتے تھے

وَلَا يَنْفَرُهُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور انہیں اپنے سے دور نہیں بھگاتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُؤَلِّئُهُ عَلَيْهِمْ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ

جو محبوب معظم کہ ہر قوم کے رئیس اور سردار کی عزت و تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان پر والی بناتے تھے۔ اور اپنے صحابہ کی خبر گیری

وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کرتے تھے اور لوگوں سے سوال کرتے ان معاملات کا جو لوگوں میں ہوتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقْوِيهِ وَيَقْبِحُ

اور آپ کی آل پر کہ جو اچھے کام پر داد دیتے اور اس کی تقویت فرمانے اور قبیح کی قباحت

الْقَبِيحِ وَيُوهِنُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بیان فرماتے اور اس پر حوصلہ شکنی فرماتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ مُعْتَدِلًا إِلَّا مَرَّغَيْرَ مُخْتَلِفٍ لَا يَغْفُلُ

آل پر جو آقا کہ معتدل اور درمیانے امر والے تھے جس میں اختلاف نہ پایا جائے۔ اور آپ سے توجہی نہیں فرتے تھے

مَخَافَةَ أَنْ يَغْفُلُوا أَفْضَلَهُمْ عِنْدَ لَا مِثْلَ لَهُ أَحْسَنُهُمْ مَوَاسَاةً

اس اندیشہ سے کہ اہمت غافل نہ ہو جائے۔ آپ کے نزدیک ہر منزل والا وہی ہوتا تھا جو سب اچھا ہوتا باہمی ہمدردی و غمخواری میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَمْلُوءِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کا دل انور مملو و بھر پور تھا

قَلْبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا وَإِسْلَامًا بَاقِيًا وَ

ایمان اور حق یقین سے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دائمی ایمان کا اور باقی رہنے والے اسلام کا

إِحْسَانًا مُسْتَهْرًا أَوْ الْجَوَارِحَ مَحْفُوظَةً وَالسُّلُوكَ عَلَى طَرِيقِكَ وَعَمَلًا

ہمیشہ رہنے والے احسان کا۔ اور ایسے اعضاء کا جو محفوظ ہوں (برائیوں سے) اور چلنے کا تیری راہ پر۔ اور مقبول عمل اور

مَقْبُولًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَعَيْنًا دَامِعًا وَخَدًّا رَطْبًا فِي حُبِّكَ وَ

خشوع والے دل کا۔ ذکر والی زبان کا۔ آنسوؤں والی آنکھ کا۔ تیری محبت اور تیرے حبیب کی محبت کی بدولت تر و تازہ نزاروں کا۔ اور

حُبِّ حَبِيبِكَ وَالْوُقُوفَ عَلَى حَدُودِكَ وَالتَّوْفِيقَ عَلَى طَاعَتِكَ وَالتَّجَاةَ

تیرے حبیب کی محبت کا اور تیری مقرر کردہ حدود پر ٹھہرنے کا۔ اور تیری طاعت کی توفیق کا اور خلاصی کا

مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمَنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَسُؤَالِهِ وَالسَّلَامَةَ فِي

زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اور قبر کی آزمائش اور اس کے سوال سے نجات کا۔ اور دین۔ دُنْيَا اور

الدِّينِ وَالذُّنُبِ وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي دَوَامَ الْإِقْبَالِ عَلَيْكَ

آخرت میں سلامتی کا۔ اے اللہ مجھے عطا فرما ہمیشہ اپنی طرف توجہ و انتہات

وَالِاسْتِمْسَاكَ بِمَا يُقَرِّبُنِي لَدَيْكَ وَهَبْ لِي قَلْبًا سَلِيمًا وَاجْعَلْهُ فِي

اور تمک ساتھ ان امور کے جو مجھے تیرے قریب کر دیں۔ اور عطا فرما مجھے قلب سلیم۔ اور بنا تو اسے اپنی محبت میں

حُبِّكَ سَلِيمًا وَكُنْ أَنْتَ لِدَائِهِ حَكِيمًا وَأَمْنَحَهُ فَيْضًا عَمِيمًا وَفَتْحًا

سالم (دہر کا وٹ سے) اور بن تو خود اس کی بیماریوں کے لیے حکیم و طبیب اور اسے بہ فراغ و فیض عام و تمام کا۔ اور واضح

مُبِينًا وَسِرًّا أَمِينًا وَوَارِدًا رَحْمَانِيًّا وَخَاطِرًا رَبَّانِيًّا وَجَدْبًا قَوِيًّا

فتح اور کامیابی۔ اور ایسے لازم و سراسر جو جو اس کی امانت میں ہوں۔ اور واردات قلب جو اللہ رحمن کی طرف سے ہوں اور خاطر و خیال ربانی اور

وَسِيرًا سَوِيًّا وَشُرْبًا أَحْمَدِيًّا وَعَمَلًا مَرْضِيًّا وَظَاهِرًا تَقِيًّا وَبَاطِنًا

کامل کشش اسکی اور زقار ہموار اور مناسب۔ اور پینا اور برداشت کرنا شراب عشق کا مانند احمد مجتبیٰ علیہ السلام کے اور پسندیدہ عمل اور ظاہر جو تقویٰ سے

نَقِيًّا وَعَقْلًا كَلِيمًا وَكَشْفًا أَقْدَسِيًّا وَلُبًّا زَكِيًّا وَوَيْدًا فِي الْخَيْرَاتِ

آراستہ اور باطن جو پاک اور منزه ہو اور عقل کلی اور کشف قدسی اور مغز و دماغ پاکیزہ۔ اور خیرات میں جسے اور سخی

مَبْدُودَةً وَقَدْ مَاسَعِيَ فِي الْأَفْعَالِ الْمَحْمُودَةِ وَلِسَانًا ذَاكِرًا

لا تھ۔ اور پسندیدہ افعال میں سعی اور کوشش کرنے والے قدم۔ ذکر کرنے والی زبان

وَطَرْفًا سَاهِرًا وَتَوَجُّهًا لِسَيْفِ الْهَزْمِ شَاهِرًا وَفِكْرًا ثاقِبًا وَمَدَدًا

تیری یاد میں بیدار رہنے والی آنکھ۔ اور ایسی توجہ جو برہنہ کرنے والی ہو ہزیمت (نفس) کے لیے تلوار کو۔ اور

مُتَعاقِبًا وَعَيْنًا سَاحِيحَةً وَأَقْوَالَ صَاحِيحَةً وَمَوَارِدَ رَاجِيحَةً

روشن فکر اور مدد پے درپے۔ اور آنکھ برسنے والی۔ اور اقوال درست۔ اور سیرانی کے لیے وارد ہونے کے انتہائی نوزوں گھاٹ

وَعَوَارِفَ لِبَرِاقِ الْجَمَالِ مُرِيحَةً وَأُذُنًا سَبِيحَةً وَجَوَابِحَ

اور ایسے عیٹے جو جمال کے پردوں اور مجاہبات کو زائل کرنے والے ہوں اور کان حق کے سننے والے۔ اور اعضاء

مُطِيحَةً وَصُدْرًا رَاحِييًا وَعَيْشًا خَصِييًا وَمُرُوحًا زَكِيَّةً وَنَفْسًا

فرمانبردار۔ سینہ وسیع وکشادہ اور گزبان فرامی و خوشحالی والی۔ اور روح پاکیزہ اور نفس

مَرْضِيَّةً وَأَنْفَاسًا مَعْمَرَةً بِالشُّهُودِ مَثْمَرَةً بِكُلِّ وَصْفٍ مَحْمُودٍ

پسندیدہ۔ اور سانس جو معمور اور آباد ہوں ساتھ شہود ذات کے۔ ثمر آور ہوں ہر وصف محمود و پسندیدہ کے۔

اللَّهُمَّ نَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَدَعَ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا قَرَّبْتَهُ

اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ تو نہ چھوڑے کوئی گناہ مگر اسے بخش دے اور نہ کوئی غم و اندوہ مگر

وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا فَاِسِدًا إِلَّا أَصْلَحْتَهُ وَلَا شَرًّا

اس کو دور فرما دے۔ اور نہ قرض مگر اسے ادا فرما دے اور نہ کوئی فساد والا امر مگر اس کی اصلاح فرما دے اور نہ

إِلَّا أَصْرَفْتَهُ وَلَا غَمًّا إِلَّا كَشَفْتَهُ وَلَا قَبِيحًا إِلَّا اسْتَرْتَهُ

کوئی شر مگر اس کو ہم سے پھیر دے۔ اور نہ کوئی غم مگر اس کو ہٹا دے۔ اور نہ کوئی فعل و خصلت قبیح مگر اس کو ڈھانپ دے

وَلَا سَقَمًا إِلَّا اشْفَيْتَهُ وَلَا فَضْلًا إِلَّا اسْبَغْتَهُ وَلَا فَقْرًا

اور نہ کوئی بیماری مگر اس کو شفا دے۔ اور نہ کوئی فضیلت مگر اس کو کامل و مکمل کر دے۔ اور نہ فقر و ناقد کو چھوڑے

إِلَّا أَغْنَيْتَهُ وَلَا عُسْرًا إِلَّا يَسَّرْتَهُ وَلَا نَذْرًا إِلَّا أَوْفَيْتَهُ وَلَا

مگر اس کو غنا سے بدل دے۔ اور نہ کوئی عسر اور تنگدستی مگر اس کو یسر اور فراخ دستی سے بدل دے۔ اور نہ کوئی نذر مگر اس کو پورا فرما دے

خَطِيئَةً إِلَّا كَفَرْتَهَا وَلَا سَيِّئَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَلَا حَسَنَةً إِلَّا

اور نہ کوئی خطا مگر اس کو مٹا دے۔ اور نہ کوئی برائی مگر اس کو بے نام و نشان کر دے۔ اور نہ کوئی نیکی مگر اس کو

أَصْفِيَّتْهَا وَلَا فَاقَةَ إِلَّا سَدُّتْهَا وَلَا كَرِبَةَ إِلَّا كَشَفْتَهَا وَلَا

قبول فرمائے اور نہ نفروفاقہ مگر اس کو بند فرمادے۔ اور نہ کوئی تکلیف مگر اسے دور فرمائے اور نہ

نِعْمَةً إِلَّا أَتَمَّتْهَا وَلَا دَعْوَةً إِلَّا اسْتَجَبْتُهَا وَلَا قَحْطًا إِلَّا

کوئی نعمت مگر اس کو کامل فرمادے۔ اور نہ کوئی دعا مگر اس کو قبول فرمائے۔ اور نہ قحط سالی مگر

دَفَعْتَهُ وَلَا بِلَاءً إِلَّا رَفَعْتَهُ وَلَا مَرَضًا إِلَّا شَفِيَّتَهُ وَلَا ذَنْبًا

اس کو دفع کر دے۔ اور نہ کوئی بلا اور مصیبت مگر اس کو اٹھا دے۔ اور نہ کوئی مرض مگر اس سے شفا دے اور نہ کوئی گناہ

إِلَّا اغْفِرْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ اللَّهُمَّ زِدْ نُورَنَا وَزِدْ سُرُورَنَا

مگر اس کو بخش دے۔ اور نہ قرض مگر اس کو ادا فرمادے۔ - لے اللہ ہمارے نور کو زیادہ فرما۔ اور ہمارے سرور کو زیادہ فرما

وَزِدْ حُضُورَنَا وَزِدْ مَعْرِفَتَنَا وَزِدْ طَاعَتَنَا وَزِدْ نِعْمَتَنَا

اور ہمارے حضور قلب کو زیادہ فرما۔ ہمارے عرفان میں اضافہ فرما۔ ہماری اطاعت میں اضافہ فرما۔ اور ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما

وَزِدْ مَحَبَّتَنَا وَزِدْ عِشْقَنَا وَزِدْ شَوْقَنَا وَزِدْ وَقْتَنَا وَعِلْمَنَا

ہماری محبت میں ترقی دے۔ ہمارے عشق کو ترقی دے۔ ہمارے شوق و ذوق کو ترقی دے۔ ہمارے علم و عمل کو ترقی دے

وَعَمَلَنَا بِحُرْمَةِ عِلْمِ عَالِمِ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ سَأَبِّ اشْرَحْ لِي

بطیفیل حرمت و عزت اس ذات کے علم کے جو ہر کل اور جز کی عالم ہے۔ لے میرے پروردگار کھول دے میرے لیے

صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي

سینہ میرا اور آسان فرما میرے لیے معاملہ میرا۔ اور کھول دے گانٹھ اور بندش میری زبان سے

يَفْقَهُوا قَوْلِي وَلَا أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

تا کہ سمجھیں لوگ بات میری اور میں نہیں شریک ٹھہراتا ساتھ اپنے رب کے کسی کو۔ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔

اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ لَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ

اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم نہ وہ خود جنم کیا اور نہیں

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اس کے لیے رشتہ دار کوئی بھی۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الَّذِي نَبِيُّ الْوَسْطَى وَرَسُولِ الْوَسْطَى
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

الحمد لله
کدیرن مان وقت آقران بن
ایزد مرقان تحفه عجائب و هدیه غرائب الی اللہ
مقبول بارگاہ شہ نوین حضرت محمد ﷺ
مُسَمَّی بِهِ

صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ

الجزء الخامس

فِي نَسْبِهِ وَحَسَبِهِ ﷺ

أَتَتْهُنَّ نِسَابُهُنَّ خَيْرُ نِسَابٍ الْبُلْدَانِ خَلَقَهُنَّ خَيْرُ خَلْقٍ خَلَقَهُنَّ خَيْرُ مَسَاكِينٍ حِينَ يَلِدْنَ

حضرت خواجہ نوری کمالی خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہی پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِسْمِ اللَّهِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بلندی (شان) کے وسیلے سے اور بسم اللہ

اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِعَلْوِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِحُلُوِّ بِسْمِ

الرحمن الرحيم کے نمو اور افزائش (درجات) کے وسیلے سے اور بسم اللہ الرحمن الرحيم کے علو مرتبت کے وسیلے سے اور

اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ الرحمن الرحيم کی حمدات اور شریعت کے وسیلے سے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا بہت مہربان رحم فرمان والا ہے

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ

روز جزاء کا مالک۔ (ان صفات کمال کے موصوف کامل) تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہمیں راہ

الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

راست پر۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نران لوگوں کی جن پر تیری طرف سے غضب کیا گیا ہے

وَالضَّالِّينَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ

اور نہ گمراہوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ہر شئی کا اور وہی بہت پیدا کرنے والا اور دائمی علم والا ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا

أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ مِنْ أَرْضِي الْأَرْضِ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

کہ پیدا کرے پسندیدہ زمین (قطعا) زمین سے تمام اہل ارض سے پسندیدہ ترین شخصیت کو اور تمام اہل سموات سے پسندیدہ ترین (محبوب) کو تو

أَمْرَ جِبْرَائِيلَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْقِطْعَةِ الْبَيْضَاءِ وَالطَّيْنَةِ الْبَيْضَاءِ وَصَلِّ

حکم دیا جب جبرائیل علیہ السلام کو کہ لے آئے سفید ٹکڑا زمین کا اور سفید گیلی مٹی اور صلوات بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ مِنَ الطَّيْنَةِ الَّتِي هِيَ قَلْبُ

سیدنا محمد پر کہ جنہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس طینت اور خمیر سے جو کہ تمام زمین کا



الْأَرْضِ وَبِهَاءِهَا وَنُورِهَا وَسَاءِهَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

دل تھا اور اس کی بہار اور اس کا نور اور اس کی چمک و روشنی اور صلوات بھیج سیتنا محمد پر کہ

رَفَعَ جِبْرَائِيلُ طِينَتَهُ مِنْ أَكْرَمِ بُقْعَةٍ بِأَشْرَفِ رُبْتَةٍ وَرَفَعَهُ وَصَلَّ

جبرئیل علیہ السلام نے اٹھایا جن کی طینت اور خمیر کو انتہائی عزت و کرامت والے قطعہ زمین سے انتہائی بلند رتبہ اور درجہ کے ساتھ اور صلوات بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضَعَ جِبْرَائِيلُ طِينَتَهُ فِي مَوْضِعِ الْقَبْرِ

سیتنا محمد پر کہ رکھا جبرئیل علیہ السلام نے جن کی مقدس طینت اور خمیر کو آپ کی قبر اور

الشَّرِيفِ وَالْمُنْبَرِ الْعَالِي الْمُنِيفِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اور بلند مرتبت منبر کی جگہ میں۔ اور صلوات بھیج سیتنا محمد پر کہ

وَضَعَ جِبْرَائِيلُ طِينَتَهُ بِأَشْرَفِ بُقْعَةِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ بَعْدَ أَنْ

رکھا جبرئیل علیہ السلام نے آپ کی طینت مبارکہ کو زمین اور آسمانوں کے بزرگترین قطعہ میں بعد اس کے کہ

طَافَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

طواف کرایا اسے تمام مخلوقات پر۔ اور صلوات بھیج سیتنا محمد پر کہ جن کی

قَبِضَ جِبْرَائِيلُ تِلْكَ الطِّينَةَ الشَّهِيرَةَ وَهِيَ بَيْضَاءٌ مُنِيرَةٌ وَصَلَّ

اس طینت مبارکہ مشہورہ کو جبرئیل علیہ السلام نے مٹھی میں لیا درآٹھا لیکہ وہ سفید رنگ نورانی چمکی تھی۔ اور صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَافَتِ الْمَلَكَةُ بِطِينَتِهِ حَوْلَ الْعَرْشِ

بھیج سیتنا محمد پر کہ طواف کرایا ملائکہ نے ان کی طینت مبارکہ کو عرش اعظم

وَحَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَافَتِ الْمَلَكَةُ

اور کرسی کے گرد۔ اور صلوات بھیج سیتنا محمد پر کہ طواف کرایا جن کی طینت کو ملائکہ نے

بِطِينَتِهِ فِي كُلِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَفِي مَقَاعِدِ الْعِزِّ وَالتَّمَكِينِ

تمام آسمانوں اور زمینوں میں۔ اور عزت و تمکین والی مجالس میں۔

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَجَنَتْ طِينَتُهُ بِمَاءِ التَّنِيمِ وَ

اور صلوات بھیج سیتنا محمد پر کہ جن کی طینت مبارکہ کو گوندھا گیا تنیم کے پانی کے ساتھ اور

غُمِسْتُ فِي مَعِينِ جَدَّتِ التَّعِيمِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَدَأَ

اس کو ڈر بایا گیا (غل دینے کے لیے) جناتِ نعیم کے صاف ستھرے پانی میں۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ آغاز کیا

اللَّهُ بِخَلْقِ نُورِهِ وَخَتَمَ قَبْلَ خُرُوجِ الْخَلْقِ مِنَ الْعَدَمِ وَصَلَّ عَلَي

اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ان کے نورِ اقدس کی تخلیق سے اور انہیں پر رسلِ نبوت کے ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا پہلے نکلنے مخلوق کے پردہِ عدم سے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ الْإِنَامِ بَدَأَ بِخَلْقِ نُورِهِ

طرفِ وجود کے اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے الارض فرمایا مخلوق کو پیدا کرنے کا تو ابتداء فرمائی ان کے نور کی تخلیق سے

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ نُورَهُ

ان پر سلام ہو۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا نور

وَسَوَّاهُ أَعْلَنَ بِالسُّجُودِ لِمَوْلَاهُ وَأَكْثَرَ تَسْبِيحَهُ وَدَعَاهُ وَصَلَّ

اور اس کو موزوں صورت بخشی تو اعلانِ سجدہ کیا اس نے اپنے مولیٰ کیلئے اور بہت زیادہ کسی اس کی تسبیح اور اس سے دعا مانگی اور صلوٰۃ

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ أَدَمَ الْمَبْرُورَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ

بیچ سیدنا محمد پر کہ جب پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو مقبول بارگاہِ خداوند ہیں تو انہیں اس نورِ اقدس کا

ذَلِكَ النُّورِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْ أَجْلِ أَنْوَارِهِ

لباس پہنایا۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ اسی محبوبِ کریم کے انوار مبارک کی

الْمُتَبَارَكَةِ سَجَدَتْ لِأَدَمَ الْمَلِكَةِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

برکت سے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کی طرف ملائکہ نے اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جس آقا کا

كَانَ نُورُهُ يَتَلَأُ لَأُفِي ظَهْرِ أَدَمَ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَرَفَتْ

نور انور چمکتا تھا آدم علیہ السلام کی پشت اور میں اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جتلا یا اللہ تعالیٰ نے

اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فَضَلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْرِفَ أَدَمَ وَنَسَلَهُ وَصَلَّ عَلَي

ان کا شرف وفضل ملائکہ کو قبل اس کے کہ جانے جانتے آدم علیہ السلام اور ان کی نسل۔ اور صلوٰۃ بیچ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَدَمُ يَتَعَجَّبُ مِنْ كَثْرَةِ نَظَرِ الْمَلَائِكَةِ

سیدنا محمد پر کہ آدم علیہ السلام تعجب کرتے تھے (بوچر) بکثرت دیکھنے ملائکہ کے



إِلَيْهِ بِالْعُيُونِ مِنْذُ أَوْدَعَهُ اللَّهُ نُورَهُ الْمَلَكُوتُونَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

طرف ان کے ساتھ اپنی آنکھوں کے جب سے کہ اللہ تعالیٰ نے درلغت فرمایا تھا آپ کا نور ملکوت ان میں۔ اور صلوات بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَلَ أَدَمَ رَبَّهُ عَنْ ذَلِكَ التُّورِ وَالضِّيَاءِ فَتَادَهُ

محمد پر کہ سوال کیا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے اس نور اور ضیاء کے متعلق تو ان کے رب تبارک و تعالیٰ سے

رَبَّهُ ذَلِكَ نُورُ خَاتِمِ الرَّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بجرا کر کہنا انہیں وہ نور ہے خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء کا۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِي كَوَّنَهُ اللَّهُ مِنْ نُورِ الْمُبِينِ وَأَدَمَ مَرِيَّةَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ وَ

کہ جنہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس نور مبین سے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور کچھڑ کے درمیان تھے

صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْتَقَلَ نُورُهُ إِلَى وَجْهِهِ أَدَمَ مِنْ

اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ منتقل ہوا نور اقدس آپ کا آدم علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف قبل

قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ الْعَوَالِمَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْتَقَلَ

اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پیدا فرماتا۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ منتقل ہوا

نُورُهُ الْبَاهِرُ مِنْ كُلِّ صُلْبٍ طَيِّبٍ إِلَى كُلِّ رَحِمٍ طَاهِرٍ وَصَلَّ عَلَى

جن کا نور انور ہر پاکیزہ صلب اور پشت سے طرف ہر پاک رحم اور بطن کے۔ اور صلوات بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُورُهُ اسْتَعْلَى مِنْ وَجْهِهِ أَبِينَا أَدَمَ إِلَى وَجْهِهِ

سیدنا محمد پر کہ جن کا نور اقدس بلند ہوا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے چہرہ سے ہماری اتنی

أَمْنًا حَوَاءَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْتَقَلَ نُورُهُ إِلَى الْقَنَوَاتِ

حواء کے چہرہ انور کی طرف۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ منتقل ہوا ان کا نور پاکیزہ اصلاب والی کاریزوں اور تالیوں

الطَّاهِرَةِ وَالْأَرْحَامِ الزَّكِيَّةِ الْفَاخِرَةِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

کی طرف اور قابل فخر پاکیزہ رحموں کی طرف۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کا

لَمْ يَزَلْ نُورُهُ يَطْهَرُ فِي وَجْهِهِ أَبَائِهِ الْأَمَاجِدِ وَيَنْتَقِلُ مِنْ وَاحِدٍ

نور انور ہمیشہ نمایاں اور ظہور پذیر ہوتا رہا ان کے بزرگ آباء کے چہروں میں اور ان میں یکے بعد دیگرے



مَنْهُمْ إِلَىٰ وَاحِدٍ وَصَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَزَلْ نُورًا

ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ ہمیشہ جن کا نور اقدس

يَنْتَقِلُ بِأَمْرِ اللَّهِ إِلَىٰ أَنْ اسْتَقَرَّ بِوَجْهِ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ وَصَلَّ عَلَىٰ

منتقل ہوتا رہا اللہ تعالیٰ کے امر سے حتیٰ کہ قرار پذیر ہو گیا آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے چہرہ میں۔ رضی اللہ عنہ۔ اور صلوٰۃ بیچ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا اسْتَقَرَّ نُورُهُ فِي وَجْهِ أَبِيهِ تَابَلَتْهُ

سیدنا محمد پر کہ جب قرار پذیر ہوا ان کا نور اقدس ان کے والد گرامی کے چہرہ میں تو سامنے آکھڑے ہوئے ان کے

الْمَلِكَةُ بِالْتَّرْحِيْبِ وَالتَّنْزِيْهِ وَصَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ملکہ محبا و محوش آمدید کہتے ہوئے اور پاکیزگی بیان کرنے ہوئے۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جنہیں

اَبْرَزَهُ اللَّهُ مِنْ ظَهْرِ أَبِيهِ لِلْوَجُوْدِ وَهُوَ سَيِّدُ أَهْلِ الْكُرْمِ وَالْجُوْدِ وَ

اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ان کے والد گرامی کی پشت سے عالم وجود کے لیے درآئیا لیکہ وہ سرور ہیں اہل کرام اور ارباب وجود کے اور

صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَبْرَزَهُ اللَّهُ مِنْ ظَهْرِ أَبِيهِ لِلْوَرَىٰ خَيْرِ

صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ان کے والد گرامی کی پشت مبارک سے تمام مخلوق کیلئے جو کائنات میں بندگان خداوند

الْعِبَادِ طَرًا وَصَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَادَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمَا

سے بہتر و برتر ہیں۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت عبداللہ سردار بن گئے اور سر بلند ہو گئے

وَافْتَخَرَبِهِ الْأَرْضُ بِظُهُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّ

اور زمین نے فخر و مہابت کا اظہار کیا آپ کی وجہ سے آپ کے ظہور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صلوٰۃ بیچ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنَاهَا لَا بِبِيهِ الشَّرْفُ الْأَصِيْلُ وَالْمَجْدُ

سیدنا محمد پر کہ انتہاء کو پہنچ گیا ان کے والد گرامی کے لیے شرف و فضل راسخ اور بزرگی

الرَّثِيْلُ وَصَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَصْبَحَتْ قُرَيْشٌ فِي نَادِي

پائیدار۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت ہو گئے قریش ان کی والدہ ماجدہ

أُمِّهِ أَمْنَةً لَمَّا وَضَعَتْهُ وَصَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْتَنَارَ بِهِ

آمنہ کی مفضل میں امن پانے والے جبکہ انہوں نے آپ کو جنم دیا۔ اور صلوٰۃ بیچ سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت چمکا



بَدْرُ النَّبُوَّةِ وَ اَكْتَمَلْ وَ بَلَغَتْ بِهٖ اُمُّهٗ غَايَةَ الْقَصْدِ وَ الْاَمَلِ وَ صَلَّى

اور روشن ہوا نبوت کا ماہ تمام اور کمال پذیر ہوا۔ اور سچیں ان کی بدولت ان کی والدہ ماجدہ اپنے مقصد اور غایت (انتہائی

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ نَجْمُ سِيَادَةِ الْاَقْصَى وَ اسْتَنَارَ فِيْ اَفَاقِ

آرزو تک۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ سیادت کے انتہائی بلند ستارے ہیں اور چمکے ہیں

الْاَرْضِ وَ السَّمَاءِ وَ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَعَرَّبَ بِهٖ لِاَبْوَيْهٖ

زمین اور آسمان کے آفاق میں۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت تمام اور مکمل ہوئی ان کے والدین کیلئے

كُلِّ فَخْرٍ وَ مَجَادَةٍ يُّطْلَوْنَ نَجْمَ السَّعَادَةِ وَ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہر فضیلت اور بزرگی بسبب طلوع ہونے اس انجم سعادت کے۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِي اسْتَنَارَتْ بِنُورِهِ النَّيِّرَاتُ وَ مَا حَوَتْهُ اَقْطَارُ السَّمَوَاتِ وَ

کہ روشن ہوئے ان کے نور کے طفیل روشن اجرام علویہ اور جس جس چیز کو محیط ہیں آسمانوں کے اقطار و اطراف اور

صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَزَيَّنَتْ بِظُهُورِهِ الدُّنْيَا وَ حَلَّ مِنْ

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کے ظہور کے صدقے میں مزین اور آراستہ ہو گئی دنیا اور وہ قیام پذیر ہوئے مجدد

الشَّرَفِ اَعْلَى مَرْتَبَةٍ عَلِيًّا وَ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخَاطَبِ

شرف کے بلند مرتبت مقام پر۔ اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ مخاطب ہیں اللہ عزوجل

بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَشْرِيفًا لِنَبِيِّهٖ وَ تَكْرِيْمًا لَهٗ وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ

کے اس قول کے جو کہ اس نبی مکرم کے شرف اور اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اور سچا فضل اللہ تعالیٰ کا

عَلَيْكَ عَظِيْمًا وَ اسْأَلُكَ بِالْاِسْمِ الَّذِي فَتَحْتَ بِهٖ عَالَمَ الْاَمْرِ وَ

آپ پر عظیم اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطریق اس اسم مبارک کے جس کے ساتھ آغاز کیا عالم امر اور

الْخَلْقِ بِسُرِّ التَّجَلِّي الْمُظْهَرِ لظُهُورِ النُّوْرِ وَ نُوْرِ الظُّهُورِ لِسَبَبِ

خلق و ایجاد کا واسطے جلد ظاہر اور غالب کرنے تجلی حق کے جو مظہر ہے نور کے ظہور کے لیے اور ظہور کے نور کیلئے بسبب

التَّنْزِيْلِ وَ الْمُتَعَالِ اَمْرًا وَ وُجُوْدًا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تنزیل کے اور بلند مرتبت ہے از روئے امر کے اور وجود کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا



مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَ لِأُمِّهِ أَدَمَ فِي الْمَنَامِ وَهَنَاهَا وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا

محمد پر کہ تشریف لائے جن کی والدہ ماجدہ کے پاس حضرت آدم خواب میں اور انہیں مبارک باد دی۔ اور صلوات بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّمَ عَلَي أُمِّهِ الْكَلِيمِ فِي الْمَنَامِ وَحَيَّاهَا وَصَلَّ عَلَي

محمد پر کہ سلام دیا جن کی والدہ ماجدہ کو حضرت موسیٰ کلیم نے خواب میں اور انہیں ہدیہ تبریک پیش کیا اور صلوات بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قِيلَ لِأُمِّهِ حِينَ كَمَلَ اللَّهُ حَمْلَهَا وَأَتَتْهُ

سیدنا محمد پر کہ کہا گیا جن کی والدہ ماجدہ سے جبکہ مکمل فرما دیا اللہ نے ان کے حمل کی مدت کو اور کامل کیا بطن اقدس والے بچے

حَمَلَتْ بِنَبِيِّهِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَادِي بِطُرُقِ الْبَيَانِ

کو کہ تو حاملہ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم کے ساتھ۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر جو کہ ہدایت فرمانے والے ہیں انہما رو بیان کے طریقوں کی

وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَضَرَتْ لِمَوْلِدِهِ أَسِيَّةٌ بِنْتُ

زن۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی ولادت یا سعادت کے وقت حاضر ہوئیں آسیہ بنت

مُرَاحِمٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مزاحم۔ اور مریم بنت عمران۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں

طَافَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ جَمِيعَ الْأَقْطَارِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

طواف کرایا ان کا دیدار کرانے کے لیے ملائکہ نے تمام اطراف و اکناف جہاں میں۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کا

عَرَفَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْبَحَارِ وَصَلَّ عَلَي

تعارف اور پہچان کرائی ملائکہ نے آسمانوں۔ زمینوں اور سمندروں پر (رہنے والوں کو) اور صلوات بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَدَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ لِأُمِّهِ فِي أَسْرَعِ مَنْ طَرَفَةٍ

سیدنا محمد پر کہ جنہیں واپس کیا ملائکہ نے (طواف کرانے کے بعد) ان کی والدہ ماجدہ کی طرف آنکھ چھپنے سے بھی

الْعَيْنِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَادَ فِي الْمُهْدِ عَلَي الْغُلَبَانِ

جلدی اور پہلے اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر جو کہ سیادت اور فوقیت پاگئے (مگر کے زمانہ) میں تمام بچوں پر

وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَضَرَتْ لِأُمِّهِ عِنْدَ وَضْعِهِ

اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ حاضر ہوئی ان کی والدہ ماجدہ کے پاس ان کے وقت وضع میں

جِبَاعَةٌ مِّنَ الْهُرِّ الْحَسَنِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ایک جماعت حسین و جمیل حوروں کی - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ

كَبُلَ مِنَ السُّعُودِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَشَرَّفَ بِهِ

کابل و مکمل ہونے ساداتوں اور نیک نعتیوں کے عناصر و ارکان سے - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت شرف و فضل پایا

الْأَبَاءَ وَالْجُدُودَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَتْهُ الْكَائِنَاتُ

آپ کے آباء و اجداد نے - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں پکار کر کہا ساری کائنات نے

شَرْقًا وَغَرْبًا مَّرْحَبًا وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ طَيْبَ

مشرق سے غرب تک "مرحبا خوش آمدید" اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ پاکیزہ

الْأَرْدَانَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَشْبُ شَبَابًا لَا

آستینوں والے تھے - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو پروان چڑھتے تھے اس انداز میں کہ کوئی مناسبت

يَشْبُهُ الْعِلْمَانَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْ رَعِ مِنْ شَهْرِ الدِّينِ

نہیں تھی دوسرے بچوں کے ساتھ - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو انتہائی پرہیزگار ہیں ان تمام حضرات جنہوں نے دین خداوندی کی

وَأَعْلَنَهُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَنْشُبُ فِي الْيَوْمِ

تشہیر کی اور اس کا اعلان کیا - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو بڑھتے تھے ایک دن میں مانند

شِبَابِ الصَّبِيِّ فِي الشَّهْرِ وَيَنْشُبُ فِي الشَّهْرِ شِبَابَ الصَّبِيِّ فِي السَّنَةِ

بڑھنے دوسرے بچوں کے ایک مہینہ میں اور بڑھتے تھے ایک مہینہ میں مانند بڑھنے دوسرے بچوں کے ایک سال میں

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ لَهُ الشَّانُ الْجَسِيمُ وَالنَّبَأُ

اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی شان اور عظمت بہت وسیع و عریض تھی اور جن کی خبر

الْعَظِيمُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خُلِعَتْ عَلَيْهِ مَلَائِسُ

عظیم تھی - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کو پہنائی گئیں خلعتیں

الْإِجْلَالَ وَالتَّعْظِيمِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ

اجلال اور تعظیم کیں - اور صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں آسمانی ستارے



الْكَوَاكِبُ تَوْنِسُهُ فِي الظَّلَامِ وَوَصَلَ عَلِي سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

اس ہتیا کرتے تھے تاریکیوں میں۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ

عَيْنُ اللَّهِ تَحْرُسُهُ فِي اليَقُظَةِ وَالْمَنَامِ وَوَصَلَ عَلِي سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت جن کی حفاظت و نگہداشت کرتی تھی بیداری میں اور نیند میں۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ

كَانَتْ الْمَلَكَةُ تُقِفُ صُفُوفًا تَنْظُرُ فِي نُورِهِ وَهُوَ فِي ظَهْرِ آدَمَ مِنْ قَبْلِ

تھے ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوتے درآئنا لیکہ وہ دیکھ رہے ہوتے تھے آپ کے نور کو جبکہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے قبل اس

أَنْ تَخْلُقَ الْعَوَالِمَ وَوَصَلَ عَلِي سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْشَأَهُ اللَّهُ فِي أَشْرَفِ

کے کہ پیدا کئے جاتے سارے جہان۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا شرف اور بزرگی میں بندتر

بِلَادِهِ مِنْ عِبَادِهِ وَوَصَلَ عَلِي سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا حَمَلَتْ بِهِ

شہر میں اپنے (بزرگی والے) بندوں سے۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جب حاملہ ہوئیں ساتھ ان کے

أُمَّهُ نَطَقَتْ كُلَّ دَابَّةٍ لِقَرِيْشٍ بِأَلْبَيْتٍ وَوَصَلَ عَلِي سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ

ان کی والدہ ماجدہ تو کلام کیا قریش کے ہر جانور نے بیت حرام اور حرم مکہ میں۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ

الَّذِي غَرَسَهُ اللَّهُ مِنْ أَطْيَبِ الْمَنَاصِبِ وَوَصَلَ عَلِي سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ

جن کے سروناز کو اگایا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ ترین عمل و مکان میں۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر

الَّذِي أَنْتَخِبَهُ اللَّهُ مِنْ ظُهُورِ النَّجَبَاءِ وَبُطُونِ النَّجَابِ وَوَصَلَ عَلِي

کہ جنہیں منتخب فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمدہ لوگوں کی پشتوں سے اور شرافت مآب عورتوں کے بطون سے۔ اور صلوات بھیج

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِظُهُورِهِ الْغِيَاهِبُ وَالْخَنَادِسُ وَوَصَلَ

سیدنا محمد پر کہ جن کے ظہور سے جگمگا اُٹھے ظلمات اور تاریکیاں۔ اور صلوات بھیج

عَلِي سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَسَاقَطَتْ بِبِعْتَتِهِ الْأَصْنَامُ مِنْ أَعْلَى

سیدنا محمد پر کہ گر پڑے جن کی بعثت سے اصنام و اوثان اپنے بلند

الْمَجَالِسِ وَوَصَلَ عَلِي سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِظُهُورِهِ الْأَرْضُ

مقامات سے (متکے بل) اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ روشن ہو گئی جن کے ظہور کی بدولت زمین



وَتَرْهَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَهَدَّ مَتَّ بِبِعْتَتِهِ صَوَامِعُ

(اوپر سے بھی) اور اس کا نچلا پانی میں ڈوبا ہوا طبقہ بھی اور صلوٰۃ بیحج سیدنا محمد پر کہ مندم ہو گئیں جن کی بعثت سے عبادت کا ہیں

الْكُهَّانَ وَزَالَ بِنَاءُهَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ عَلَى

کاہنوں کی اور میت و نابود ہو گئیں بنیادیں ان کی۔ اور صلوٰۃ بیحج سیدنا محمد پر کہ لئے اللہ تعالیٰ نے

أَدَمَ الْمَوَاتِيْقَ وَالْعَهْدَ أَنْ لَا يَدَّعَى نُوْرَةَ الْإِرْفِ فِي أَهْلِ الْكُرْمِ وَ

حضرت آدم علیہ السلام سے عہد و پیمانہ کہ نہ وادیت کریں ان کے نور کو مگر اہل کرم اور

الْجُودِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَزَلْ نُورًا لَا يَنْتَقِلُ

ارباب جود میں۔ اور صلوٰۃ بیحج سیدنا محمد پر کہ جن کا نور اقداس ہمیشہ منتقل ہوتا رہا

مِنْ ظُهُورِ الْأَخْيَارِ إِلَى بَطُونِ الْخَيْرَاتِ وَالْأَحْرَارِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

پاکیزہ سیرت لوگوں کی پشتوں سے پاکیزہ سیرت اور شریف عورتوں کے ارحام کی طرف اور صلوٰۃ بیحج سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوْصَلَ نُوْرَةَ يَدِ الشَّرَفِ وَالْمَكَارِمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَ

محمد پر کہ جن کے نور انور کو پہنچا یا شرافتوں اور بزرگیوں کے ہاتھ نے حضرت عبداللہ تک اور

صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُلْبَسَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ ثَوْبَ الْبِهَاءِ

صلوٰۃ بیحج سیدنا محمد پر کہ جن کی بدولت حضرت عبداللہ کو پہنایا گیا حسن و خوبی کا

وَالْمَلَا حَةَ فَنَطَقَ بِالْبَيَانِ وَالْفَصَاحَةِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لباس۔ پس انہوں نے کلام کیا واضح اور فصیح زبان کے ساتھ۔ اور صلوٰۃ بیحج سیدنا محمد پر

الَّذِي نُودِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِيهِ إِدْمَا حَمَلَتْ مِنَ الْوَدِيعَةِ إِلَى أَحْشَاءِ

کہ حضرت عبد اللہ کو ندادی گئی ان کے متعلق کہ پہنچا دیجئے وہ امانت جو تم نے اٹھا رکھی ہے طرف بلند مرتبت

أُمَّتِهِ الْمَنِيعَةِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُلْقِيَ فِي طِينَتِهِ

آمنہ کی انتڑیوں (اورم) کے۔ اور صلوٰۃ بیحج سیدنا محمد پر کہ ٹوالا گیا ان کی طینت اور خمیر ارضی میں

النُّورِ الَّذِي سَبَقَ فَخْرُهُ وَتَقَادَمَ وَصْفُهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

وہ نور جس کی شان مخزن و ناز گزر چکی اور پہلے بیان ہو چکا ہے وصف اس کا۔ اور صلوٰۃ بیحج سیدنا



مُحَمَّدٍ الَّذِي أُودِعَتْ طِينَتُهُ فِي ظَهْرِ أَبِيهِ آدَمَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر کہ ودیعت کی گئی ان کی طینت ان کے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اقدس میں اور صلوات بیچ سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى خُرُوجَ النُّورِ مِنْ أُمِّهِ حَتَّى أَضَاءَ لَهَا قُصُورًا

محمد پر کہ جنہوں نے دیکھا نور کا برآمد ہونا ان کی والدہ ماجدہ سے حتی کہ روشن کردئے اس نور نے ان کیلئے

الشَّامَ وَرَأَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ إِسْرَافِيلَ كُلَّ شَيْءٍ أَنْزَلَ عَلَيْهِ قَبْلَ

شام کے محلات اور مشاہدہ فرمایا آپ نے حضرت اسرافیل کی لوح جمین پر ہر اس شئی کو جو نازل کی گئی آپ پر بعد میں

التَّنْزِيلِ وَذَامَرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

قبل اس کے نازل کئے جانے کے اور زیارت کی ان کی ملائکہ نے ان کی ولادت باسعادت کے وقت اور صلوات بیچ سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَتْ الْوُحُوشُ وَالطُّيُورُ لِبَابِهِ مُنْقَادَةً وَصَلَّ عَلَى

محمد پر کہ حاضر ہوئے جنگلی جانور اور پرندے ان کے در اقدس پر تا بعد ازین کہ اور صلوات بیچ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَزَلَتْ النُّجُومُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ عَلَى السَّقُوفِ وَ

سیدنا محمد پر کہ اترے ستارے ان کے وقت ولادت میں مکانوں کی چھتوں پر ان کے دیدار کے لیے اور

صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ تَدْوِيرًا عَلَى الْخَلَائِقِ

صلوات بیچ سیدنا محمد پر کہ جنہیں اٹھا لیا ملائکہ نے در آغا لیکہ آپ کو پھراتے تھے مخلوقات پر اور

وَتَطُوفُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَوْفَى النَّاسِ بِالْعَهْدِ

طواف کرتے تھے (دیدار کرنے کے لیے) اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر کہ جو سب سے زیادہ پورا کرنے والے تھے عہد کے

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَامَ رَمَضَانَ فِي الْبَهْدِ وَصَلَّ

اور صلوات بیچ سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے عالم ہمد میں - اور صلوات بیچ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلِيمِينَ الْأَسْلَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ زم نحو اور تا بعد از اسلاف والے ہیں - اے اللہ صلوات بیچ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ ابن عبد اللہ بن عبد المطلب

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ ابن عبد اللہ بن عبد المطلب

ابن ہاشم بن عبد مناف اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل

بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سیدنا محمد بن قصبی بن کلاب بن مرہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا

آل پر جو آقا کہ نخت جگر ہیں تصی بن کلاب بن مرہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا

محمد وعلی آل سیدنا محمد بن کعب بن لوی بن غالب کے۔ اے اللہ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ فرزند ارجمند ہیں کعب بن لوی بن غالب کے۔ اے اللہ

صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بن فہر بن مالک بن نضر

صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ نور نظر ہیں فہر بن مالک بن نضر کے

اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بن کنانہ بن

اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ فرزند دلہند ہیں کنانہ بن

خزیمہ بن مدرکہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جو نخت جگر ہیں الیاس بن

مضر بن نزار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

بن معد بن عدنان بن اود اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی

جو بیٹے ہیں معد بن عدنان بن اود کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

آل سیدنا محمد بن اود بن ہبیب بن سلمان اللہم صل علی

کی آل امجاد پر جو کہ قابل فخر پسر ہیں اود بن ہبیب بن سلمان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بن ثابت بن حمل بن قیدار

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ نخت جگر ہیں ثابت بن حمل بن قیدار کے

اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بن اسمعیل

اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ نور نظر ہیں حضرت اسمعیل

اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بن اسمعیل

اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ نور نظر ہیں حضرت اسمعیل

ابن ابراهيم بن ازر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا

بن ابراهيم بن ازر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

محمد بن ناخور بن شاروخ بن ارغون اللهم صل على سيدنا محمد و

آل پر جو کہ نور چشم ہیں ناخور بن شاروخ بن ارغون کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور

على آل سيدنا محمد بن قانع بن غابر بن ارفخشذ اللهم صل على

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ قرۃ العین ہیں قانع بن غابر بن ارفخشذ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بن سام بن نوح بن اديك

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ راحت جان ہیں سام بن نوح بن لاک کے

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بن متوشلح

اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سرور قلب ہیں متوشلح

ابن اخنوخ بن بيارد بن مهلايل اللهم صل على سيدنا محمد

بن اخنوخ بن بیارو بن مہلایل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر

وعلى آل سيدنا محمد بن قينان بن انوش بن شيث بن ادم

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ ولد عزیز ہیں قینان بن انوش بن شیث بن آدم کے

صلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين

اللہ تعالیٰ درود و صلوٰۃ بھیجے ہمارے نبی و آقا محمد پر اور آپ کے آباء و اجداد میں سے جتنے انبیاء و مرسلین ہیں

منهم وعليهم السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا

ان پر صلوٰۃ بھیجے اور سلام۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

محمد بن الخطاب بقول من ايده الله بروح القدس من عنده

محمد کی آل پر جو محبوب کہ مخاطب ہیں اس قول کے (من کی تائید فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ساتھ روح القدس کے)

انا وحيننا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده صلى

بے شک ہم نے وہی نازل کی ہے طرف ہمارے جیسے کہ وہی نازل کی ہم نے طرف (حضرت) نوح کے اور ان کے بعد والے انبیاء کے صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ فِي ابْتِدَائِي وَانْتِهَائِي وَ

اللہ علیہ وعلیہم وسلم۔ اے اللہ بے شک میں تو سے تعلق کرتا ہوں تیری طرف اپنی ابتداء اور اپنی انتہاء میں اور

لَا أَظْهَرُ لِعَبْدِكَ رَجَائِي يَا غَالِمَ الْخَفِيَّاتِ وَالسَّرَائِرِ وَيَا جَامِعَ الشَّاتَاتِ

میں نہیں ظاہر کرتا تیرے غیر پر اپنی امید و رجاء کو اے بلند کرنے والے مخفی امور اور اسرار کے اور اے جمع کرنے والے مختلف و متفرق امور کے

فِي الْبَصَائِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ رَافِعٌ لِلْإِنْسَانِ رَفِيعٌ

عقول و اذہان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ انسانوں کو رفعت بخشنے والے ہیں (اور) خود بلند مرتبت

الشَّانِ بَدِيعِ الْبُرْهَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِ

ہیں اور انوکھے برہان والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ جن سے خطاب کیا گیا

اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطِ

اللہ علی عظیم کے اس قول کے ساتھ لیں تم تمسک کرو اور چنگل مارو ساتھ اس کے جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف بیشک تم صراط

مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

مستقیم پر ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر کہ نہیں جھٹلایا ان کے دل نے جو دیکھا ان کی آنکھوں نے

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ أَعْطِنِي لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ

اور میں کلام کرتے ایسی جو سرزد ہو خواہش نفس سے نہیں ہے وہ (کلام) مگر وحی جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ عطا کر مجھے اپنے پھرہ اقدس

وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ يَزِيدُ وَيُضَاعِفُ بِمَحْضِ

کی طرف نظر کی لذت اور اپنی ملاقات و دیدار کا شوق جو ہر لمحہ و ہر غلط بڑھنے اور کئی گنا زائد ہونے والا ہو محض اپنے

فَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَسْنَىٰ

فضل اور احسان سے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ بہت نورانی اور روشن نبی ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ اللَّهُمَّ بِأَسْمِكَ

اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ تیرے اسماء حسنی کا سر نہاں ہیں۔ اے اللہ لطیفیں اپنے اسم اعظم

الْأَعْظَمِ وَبِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَىٰ وَصِفَاتِكَ الْكُبْرَىٰ وَكَتَبِكَ الْعُظْمَىٰ

کے اور اپنے اسماء حسنی کے اور اپنی تمام عظیم صفات کے اور اپنی تمام عظیم کتابوں کے

وَصَحْفِكَ الْعُلْيَا وَنُعُوتِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى اجْعَلْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ

اور بلند مرتبت صحیفوں کے اور بظیفیل اپنے نبی مصطفیٰ کی نعوت و صفات کے بنا ان صلوات کو

مُفْرَحَاتٍ لِّقُلُوبِنَا مَا نَعَايَتِ لِمُهْلِكَاتِنَا بِأَعْتَابِ لِمُنْجِيَاتِنَا مَا حَيَاتِ

موجب فرحت و مسرور کا واسطے ہمارے قلوب کے اور مانع ہماری ہلاکتوں کے اسباب کا اور باعث و محرک ہماری نجات کے عوامل کا

لِدُنُوبِنَا مُكْفِرَاتٍ لِّسَيِّئَاتِنَا سَاتِرَاتٍ لِّعِيُوبِنَا مُصَاعِفَاتٍ لِّحَسَنَاتِنَا نَاصِرَاتٍ

مٹانے والیاں ہمارے گناہوں کو کفارہ بننے والیاں ہمارے سینات کیلئے چھپانے والیں ہمارے عیوب کو دھونڈانے والیں ہماری نیکیوں کو نصرت دینے

عَلَى أَعْدَائِنَا وَقَاتِحَاتٍ لِّمُهْمَاتِنَا فِي الدَّارَيْنِ وَمُزِرَّعَاتٍ لِّقُبُورِنَا

والیں ہمیں ہمارے اعداء پر اور صل کرنے والیں ہماری مہمات و مشکلات کو دارین میں۔ اور روشن کرنے والیں ہماری قبور کو

وَقَائِدَاتٍ إِلَى جَنَّتِنَا وَبِلِقَائِكَ رَافِعَاتٍ لِّدَرَجَاتِنَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

اور رہبر ہماری طرف ہماری جنات کے اور تیری تقاد و دیدار کے۔ بلند کرنے والیں ہمارے درجات کو بغیر کسی حساب

وَعَذَابٍ وَعِقَابٍ بِمَغْفِرَتِكَ وَمَافِيكَ وَفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ وَ

اور عذاب و عتاب کے صدقے میں تیری مغفرت و رافت اور فضل و احسان اور کرم و

رِضْوَانِكَ أَنْتَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

رضامندی کے، تو ہی کافی ہے مجھے اور اچھا کارساز ہے، اچھا متولی و سرپرست اور بہترین مددگار ہے

غُفْرَانِكَ مَا بَيْنَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اے رب ہمارے اور طرف تیری ہی بازگشت اور رجوع ہے اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدَدِ السُّودِ وَسِرِّ الْوَجُودِ عَبْدُ اللَّهِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سرا پا مدد و اعانت ہیں سزواروں کے لیے اور سر وجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے

الْأَمِينِ وَحِزْنِ اللَّهِ الْمَتِينِ التَّقِي الْمُرَاقِبِ وَالْكَلِيمِ الْمُخَاطَبِ

معتد علیہ عبد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مضبوط و مستحکم پناہ ہیں۔ سرا پا تقویٰ ہیں اور نگہبان اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے اور اس کے

وَالْهُدْيَةِ الْمُهْدَاةِ وَالسَّابِقِ لِلْخَيْرَاتِ وَالْبُرْهَانَ السَّاطِعَ وَالذَّلِيلِ

مخاطب۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہدیر۔ نیکیوں کی طرف سہقت لے جانے والے اور سرا پا غالب برہان اور قطعی دلیل،

الْقَاطِعِ وَالْبِرَكَةِ الشَّامِلَةِ وَالْبَيْتَةِ الْعَادِلَةِ الْأَوَّلِ فِي الْخَلْقِ وَالْآخِرِ

ایسی برکت جو سب کو محیط ہے اور ایسی شہادت جو سراسر عدالت ہے، جو اول ہیں تخلیق و ایجاد میں اور آخر میں

فِي الْبَعْتِ بِالْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

حق کے ساتھ مبعوث ہونے میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَمَرِ الدِّيَارِ حِجِّي وَالشَّهِيدِ النَّاجِي وَرَسُولِ الرَّأْفَةِ وَقَتْمِ

کی آل پر جو آقا کہ شہادتے تاریک کے لیے روشن چاند ہیں اور نجات پانیرے شہید اور احوال امت پر طلع گواہ اور رسول رافت،

التُّحْفَةِ الْمَاحِي شُبُهَةِ الضَّلَالَةِ وَالصَّادِقِ الْمَقَالَةِ فَاتِحِ سُبُلِ

بہت سخی، اللہ تعالیٰ کا تحفہ و ہدیہ، ضلالت کے شبہات کو مٹانے والے۔ سچی کلام اور گفت گروالے۔ آغاز کرنے والے

الْهُدَى وَخَاتِمِ سُنَنِ الْإِقْتِدَاءِ وَالْإِهْتِدَاءِ رُوحِ الْعَوَالِمِ وَخُلَاصَةِ

ہدایت کی راہوں کا۔ اور تکمیل کرنے والے ہیں قابل اقتداء و اہتداء و سنن کی، جو تمام جہانوں کیلئے روح کی مانند ہیں اور جو ہر و خلاصہ ہیں

طِينَةِ آدَمَ مَوْفَاتِحِ خَزَائِنِ الْحِكْمَةِ وَسِرِّ خَصَائِصِ الرَّحْمَةِ وَالْبِرَكَةِ

حضرت آدم علیہ السلام کی طینت و خمیر کا۔ حکمت کے خزانوں کی چابی ہیں اور رحمت و برکت کے خصائص کا سرزخاں ہیں

الدَّرَّةِ الْفَاخِرَةِ وَطَيْبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بَابِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ وَصِرَاطِهِ

قابل فخر و درہ قیمتا۔ دنیا و آخرت کی پاکیزگی اور خوشبو۔ اللہ تعالیٰ کے حرم ناز کے عظیم دروازے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا بہت سیدھا

الْأَقْوَمِ ذَخِيرَةَ الْأَنَامِ وَكَهْفِ الْأَرَامِلِ وَالْآيَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

راستہ مخلوق کے لیے (انعامات خداوندی کا) ذخیرہ اور یتیموں کی جائے پناہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَكِيمِ الْعَادِلِ وَالْمُفَرِّقِ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ عادل حاکم ہیں اور تقریق کرنے والے ہیں

بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالنَّجِيِّ الْفَائِزِ وَالْعَفْوِ الْمُنْتَجِزِ مِنْ مَبِيدِ الْعَدَى وَ

درمیان حق و باطل کے اور کامیاب ہمزاز اور ہم کلام ہیں اور سراسر پافعو اور درگزر ہیں، دشمنوں کو ہلاک کرنے والے اور

رَأْسِ التَّقَى وَالْعُلَى غَايَةِ الْقُصْوَى وَعَلِمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى الْكَرِيمِ بَنِي

عالی مرتبت لوگوں اور متقیوں کے سردار ہیں۔ بلند ہی مراتب کی آخری حد ہیں اور ان کو تعلیم دی ہے شدید قوتوں والے نے تمام نوع انسانی



اَدَمَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُّكْنَ الْمَتَوَاضِعِينَ اللّٰهُمَّ

سے بزرگتر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج سیدنا محمد پر جو کہ تواضع اور انکساری کرنے والوں کے سر و سامان عزت اور قوت میں سلطان

اجْعَلْنِيْ هَيِّمًا اِلَى الْمَشَاهِدَاتِ النَّفْسِيَّةِ عَرْضًا فَعَرْضًا فَاجْعَلْنِيْ

بنادے مجھے بہت زیادہ مشتاق اور محب مشاہدات نفسیہ کا جوئیے بعد دیگرے پیش آنے والے ہوں پس بنا دے مجھے

بَطْنًا مِّنَ الْمَسْتُوْدَعَاتِ الَّتِيْ اُوْدَعْتَهَا فِيْهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا هَيِّمًا مَّرِيًّا وَاوْ

بطن اور ظرف ان دروہتوں اور امانتوں کا جو ترسے ودیعت کی ہیں نفوس میں پھر بنادے انہیں میرے لیے خوشگوار اور لذیذ اور

لَا تَجْعَلْنِيْ حَزِيْنًا عِنْدَ رُوَيْتِهَا وَلَا تَجْعَلْهَا فَاْنِيَّةً بَلِّ اجْعَلْنِيْ مُتَتَفِعًا

نہ بنانا مجھے غمگین ان کے دیدار پر اور نہ ان مشاہدات کو فنا پذیر بنانا بلکہ بنانا مجھے نفع اندوز

وَمُفَرِّحًا بِهَا وَذِيْ عِزٍّ وَجَاهٍ عِنْدَ وُرُوْدِهَا وَحُصُوْلِهَا وَاَعْرِضْنِيْ عَنِ

اور شادمان و فرحان ساتھ ان کے اور عزت و مرتبت والا ان کے ورود و حصول کے وقت اور مجھے ہٹا دے اور دور کرنے

الْعَقَبَاتِ الْقَالِبِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ الَّتِيْ ظَهَرَتْ مِنْ الْاَثَارِ الْحَسِيَّةِ وَا

بدن اور نفسانی عقبات اور دشوار گھاٹیوں سے جو ظاہر ہوئیں حسی اور ذہنی آثار

الذَّهْنِيَّةِ الْعَادِيَّةِ الْفَارِقَةَ بَيْنَ الْحِسِّ وَالنَّفْسِ وَمِنَ الْعَقْلِيَّةِ

عادیہ سے جو فرق کرنے والے ہیں درمیان حسی اور نفس کے اور عقلی

وَالْقَلْبِيَّةِ ثُمَّ السَّرِيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ الْفَارِقَةَ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَا

اور قلبی آثار سے پھر سری قدسی الفارقیہ کے اور خوف و رجاء کے اور

السَّرِّ وَالْجَهْرِ وَالْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْبَسْطِ وَالصَّحْوِ وَالسُّكْرَ وَا

انقضاء و بھیر کے اور فنا و بقا کے اور درمیان طبیعت کے انقباض اور انبساط کے اور درمیان ہوشیاری اور مدہوشی

الْكُوْنِ وَالْعَدَمِ وَالرُّوْحِيَّةِ فَسَلِّطْ عَلَيَّ اَثْرًا بَلِّ اَسْرِعْنِيْ اِلَى

کے اور وجود و عدم کے اور روحی آثار کے پس مسلط فرما مجھ پر اس کے آثار کو بلکہ مجھے جلدی لے جا طرف

الْمَلَكُوْتِ ثُمَّ اِلَى الْجَبْرُوْتِ ثُمَّ اِلَى الْاِسْتِغْرَاقِ فِيْ قُدْسِكَ وَا

ملکوت اور عالم بالا کے۔ پھر طرف جبروت اور صفات جلال کے پھر طرف استغراق کے اپنی ذات مقدسہ میں اور

مُطَالَعَاتٍ شَهْوَدِكَ وَطَهَّرَ قَلْبِي وَنَزَّ نَفْسِي ثَمَّ بِحَيْثُ تَلْتَدُ

اپنے شہود و حضور کے مطالعات میں اور پاک فرما میرے دل کو اور منزہ فرما میرے نفس کو اس مقام پر اس طرح پر کہ لذت و ملاوت

الْتَدَا إِذْ أَوَيْعُنُ الْمَقَامَ لَهُ عَنَّا وَلَا يَعْنُنُ عَفْنَا فَيَضْمَحِلُّ وَتَخْلَلُ

محسوس کرے اس مقام میں اور وہ مقام خود اس کو پیش آئے اور اس پر فاسد و تباہ نہ ہوتا کہ مست اور نا کارہ ہو جائے اور اپنے مقام سے ہٹ

عِنْدَ الطَّلَعَاتِ الْجَلَالِيَّةِ وَسَخَّرَ لِي النَّفُوسَ الْعَالِيَةَ الَّتِي أَبْدَأْتُهَا

جائے وقت رونما ہونے تجلیات جلالیہ کے اور سخر فرما میرے لیے نفوس عالیہ کو کہ جنہیں تو نے پیدا فرمایا

أَنْ تَكُونَ حَائِلَةً حَاضِرَةً مُتَّحِمَةً لِتِلْكَ الطَّلَعَاتِ الْعَالِيَةِ لِئَلَّا

کہ ہوں حائل اور رکاوٹ حاضر و موجود (درمیان نفوس انسانیہ ناقصہ اور ان تجلیات کے) جو خود متحمل ہوں ان تجلیات عالیہ کے تاکہ

يَكُونَ شَخْصِي وَنَفْسِي عَتَبًا وَلَا عَبَثًا وَلَا مُبَدَّلًا مِّنْ صُورَةٍ

نہ ہو میرا شخص اور نہ میرا نفس محل عتاب اور نہ عبث و بے فائدہ اور نہ ہی تبدیل کیا ہوا ہر صورت

إِنْسَانِيَّةٍ وَنَفْسٍ حَيَوَانِيَّةٍ إِلَى صُورَةٍ آدَوْنَ مِنْ ذَلِكَ فَتَسْخَرُوا

انسان اور نفس حیوانی سے (بطور مسخر کے اطراف ایسی صورت کے جو اس سے کمتر اور حقیر ہو پس متسخر اور

تَسْتَهْزِئُ بِي الْعُلُويَّاتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْجَوَادُ الْبُرِّ الرَّؤُوفُ

ستہزاء کریں ساتھ میرے عالم بالا کے مکین نفوس عالیہ۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے جو بہت جو دو احسان اور رافت

الرَّحِيمُ وَقَدْ صَيَّرْتَ الْعَزَائِلَ مَلَكًا مَّعْلَمًا مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْفَخَامَةِ

درحمت والا ہے اور تحقیق بنایا تھا تو نے عزازیل کو فرشتہ جو تعلیم دیتا تھا بڑی قدر و منزلت اور عظمت کے ساتھ موصوف ہونے

ثُمَّ أَسْرَمَتْ فِيهِ طُغُومَاتُ التَّارِيَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَعَقَلَ عَنِ الْهَيْئَةِ

ہوئے پھرتے چھپادیں اس میں حماقتیں اور کینٹیاں اس کے جو ہرناری کی۔ پس وہ غافل ہو گیا اپنی کھٹیا اور

الْأُولَى الدَّنِيَّةِ الدَّمِيئَةِ فِي الْهَيْئَةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى طَغَى فَجَرَّدَ مِنْ

مذموم ہیئت سے دوسری ہیئت ملیکہ میں منہک ہو کر یہاں تک کہ اس نے سرکشی کی۔ پس وہ ملی

الْبَبَاسِ وَالْمَقَامِ وَاسْتَحَقَّ اللَّعْنَ وَمِثْلَهُ الْهَارُوتُ وَالْمَارُوتُ

لباس سے برہنہ کر دیا گیا اور اس منصب ملی سے الگ کر دیا گیا اور مستحق ٹھہرا لعنت کا اور اسی کی مانند ہیں ہاروت و ماروت



اللَّهُمَّ أَنْتَ الْفَاعِلُ الْمُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ الْأَفَاتِ وَهِيَ مَخْلُوقَةٌ وَمَذَلَّةٌ

لے اللہ تو ہی مؤثر و موجد ہے جو منزہ و پاکیزہ ہے تمام آفات اور رکاوٹوں سے جبکہ وہ تیری ہی پیدا کردہ ہیں اور تیری قدرت کے

تَحْتَ قُدْرَتِكَ تَسْلُطُهَا عَلَى مَنْ أَرَدْتَ بِهَا عَلَى حَسْبِ اقْتِضَاءِ

میں منسوب و مقصور ہیں تو مسلط فرماتا ہے انہیں جس پر ارادہ فرمائے ان کے مسلط کرنے کا اپنی الوہیت اور

الْوَهِيَّتِكَ وَحِكْمَتِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْقَوِيُّ الْوَاجِبُ وَأَنَا عَبْدُكَ

حکمت کاملہ کے تقاضوں کے مطابق۔ لے اللہ تو ہی غنی اور قوی ہے اور اپنے آپ موجود ہے وجود ذاتی کے ساتھ اور میں تیرا

الْفَقِيرُ الضَّعِيفُ الْحَادِثُ وَالْأَفَاتُ خَلَقْتَهَا قَوِيَّةً وَضَعِيفَةً

فقیر و محتاج اور ضعیف و ناتواں بندہ ہوں جو تیری ایجاد سے خلعت و وجود پہنے ہوئے ہوں اور آفات کو پیدا کیا تو نے اس حال میں کہ بعض ان کی

بِالنِّسْبَةِ فَلَا اسْتَطِيعُ تَحْمِلُهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ

قوی ہیں اور بعض نسبت ان کے ضعیف پس میں نہیں طاقت رکھتا کسی کے بھی برداشت کرنے کی۔ لے اللہ تو ہی قادر ہے اس پر کہ

تَسْتَعِينِي مِنْ آفَةٍ مَرَكُوتَةٍ فِي غَدَاءٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ سَارِيَةٍ مَعِ

مجھے دور رکھے اس آفت سے جو گڑھی ہوئی ہے غدا میں یا مشروب میں یا سرایت کرنے والی ہے ساتھ

نَفْسٍ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً حَتَّى تَكْمُلَ مَعْرِفَتِي حَسْبِ

نفس کے روک رکھے اسے ایک سو بیس سال تک حتی کہ کامل ہو جائے میری معرفت میری طاقت کے

طَاقَتِي وَطَهَّرْ رُؤْيَا فِكْرِي عَنِ الدَّحْنِ وَلِسَانِي عَنِ الْغَطَاةِ فَالْقُ

مطابق اور پاکیزہ و منزہ فرما میرے فکر کو غلطی و فساد سے اور میری زبان کو خطا سے پس القاد فرما

فِيهِ حَقًّا وَأَخْرِجْ مِنْهُ حَقًّا أَنْتَ الْحَقُّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اس میں حق کا اور اس سے ظاہر فرما حق کو تو ہی حق ہے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَبَبِ الْفَوْزِ وَالنَّجَا اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو موجب کرم سبب ہیں کامیابی اور نجات و نلاح کا۔ لے اللہ

مَا رَبِّ اسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ

جو میرا پروردگار ہے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس دن میں جو کچھ ہے اس کی خیر کا اور اس کے مابعد کی خیر کا اور میں پناہ طلب کرتا ہوں



مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

اس کے شر سے جو اس دن میں ہے اور اس کے بعد کے شر سے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَ

کا دنیا و آخرت میں اور سوال کرتا ہوں تجھ سے عفو و عافیت کا اپنے دین میں اور دنیا میں اور

فِي أَهْلِي وَمَالِي وَأَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيْمَانِي وَإِيْمَانِي فِي حُسْنِ

اپنے اہل اور مال میں۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے صحت کا بے ایمان کے اور ایمان کا بے حسن

خَلْقٍ وَنَجَاةً يَتَّبِعُهَا فَلَاحٌ وَرَحْمَةٌ مِّنْكَ وَعَافِيَةٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْكَ

خلق کے اور نجات کا جس کے تابع ہو فلاح و کامیابی اور سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا اور عافیت کا۔ اور تیری مغفرت

وَرِضْوَانًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ورضا مندی کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ عِمَادٍ مِّنْ إِلَيْهِ لَجَاوَالْتَجَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا

آل پر جو محبوب کہ سارا ہیں ہر اس شخص کا جو ان کی پناہ پکڑے اور ان سے التواء کرے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خیر اور بھلائی کا جس

سَأَلْتُكَ بِهِ عِبَادَتِكَ الصَّالِحُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کا سوال کیا تجھ سے تیرے نیک بندوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الرِّسَالَةِ وَظَاهِرِ الدَّلَالَةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ خاتم رسالت ہیں اور جن کی نبوت کے دلائل اظہار ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمام تر خیر اور بھلائی کا جو میں اس سے معلوم کر سکا ہوں اور جو میں نہیں معلوم کر سکا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

أُمَّتِهِ أَصْحَابِهِ وَمَلَائِكَةِ مَنْ لَّا ذَنْبَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

جو اپنے صحابہ کرام کے لیے امان ہیں اور جگے پناہ ہیں ہر اس شخص کی جو پناہ پکڑے ان کی بارگاہ میں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں



التَّعِيْمَ الْبَقِيْمَ الَّذِي لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ وَاسْأَلِكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ

والمعنى نعمتوں کا جو نہ تبدیل ہونے والی ہوں اور نہ زائل ہونے والی اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے امن کا خوف کے دن

وَاسْأَلِكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعَصْمَةَ مِنْ كُلِّ

اور سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب موجبہ کا اور تیری مغفرت کے حتمی وسائل کا اور ہر

ذَنْبٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا

گناہ سے تحفظ اور بچاؤ کا اور ہر نیکی سے غنیمت و منفعت کا اور ہر گناہ سے سلامتی کا نہ چھوڑ تو میرے لیے کوئی گناہ

إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا أَهْمًا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا كَرْبًا إِلَّا أَنْفَسْتَهُ وَلَا ضَرًّا إِلَّا

مگر یہ کہ اسے بخش دے۔ اور نہ غم و اندوہ مگر اس کو دور کر دے اور نہ کرب و کلفت مگر اس کو ہٹا دے۔ اور نہ کوئی ضرر و نقصان

كشفتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا أَقْضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

مگر اس کو دور کر دے۔ اور نہ کوئی ایسی حاجت جو تجھے پسندیدہ ہے مگر یہ کہ تو اسے پورا فرماتے۔ اے ارحم الراحمین۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

إِلَى الرَّحْمَةِ الْعُلْيَا لِأَنَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو بلند مرتبت رحمت ہیں واسطے مخلوق کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

إِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنَّةِ الْعُظْمَى عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر جو محبوب کریم عظیم احسان ہیں (اللہ تعالیٰ کا) اہل اسلام پر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شِمَالِ الْيَتَامَى وَعُرْوَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور مضبوط سہارا ہیں

الْأَيَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بے خاندان عورتوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ التَّوْبِ السَّابِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

آل پر جو محبوب کہ سب (پیدا کئے جانے والے) انور ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا



مُحَمَّدٍ وَاسْطَةَ الْخَلْقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَالِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد کی آل پر جو رسول معظم کو وسیلہ ہیں مخلوق کے درمیان اور خالقِ بل وعلیٰ کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُرَّةَ عَيْنٍ جَبْرَائِيلَ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوبِ اجبرئیل علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ حبیب ہیں۔

إِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ وَالْعَفَافَ

حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل کے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت و تقویٰ کا۔ اور عفت

وَالْغَنَىٰ وَأَسْأَلُكَ الثُّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرَّشْدِ وَ

واستغناء کا۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے ثابت قدمی کا تمام امور میں اور سوال کرتا ہوں حکم اور پائیدار رشد و ہدایت کا اور

أَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

سوال کرتا ہوں تیری نعمتوں کے شکر کا اور تیری حسین عبادت کی توفیق کا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ

نیک کاموں کی انجام دہی کا اور بُرے کاموں کے ترک کا اور مساکین کی محبت کا۔ اور میرے لیے مغفرت

لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ

فرمانے اور رحم کرنے کا۔ اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو فتنہ اور آزمائش میں ڈالنے کا تو مجھے وفات دے دینا اور کما لیکہ فتنہ سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ


بچایا ہوا ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ رسول ہیں

الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پیدا کرنے والے بادشاہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ لِتَتَّبِعُوا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

کی آل پر جن کو مبعوث فرمایا گیا اعلیٰ اخلاق کی تکمیل و تنہیم کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَفِيعَ الْجَلَالَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ بلند بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَحَبِّلِ لِأَعْبَاءِ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اٹھانے والے ہیں رسالت کے بوجھ

الرِّسَالَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ

اور اقبال کو۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری خشیت اور خوف کا باطن اور ظاہر میں اور کلمہ

الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقُصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ

اخلاص کا حالت رضا اور غضب میں۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے میانہ روی کا۔ فقر اور غنا میں۔

وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ

اور سوال کرتا ہوں ایسی نعمتوں کا جو ختم نہ ہوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو منقطع نہ ہو اور سوال کرتا ہوں تجھ سے تمام خیر اور

كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا

بھلائی کا جو جلدی میسر ہو یا دیر سے جو میں نے معلوم کر لی ہے یا میں نے نہیں معلوم کی اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے جنت کا اور

قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ

ایسے قول و عمل کا جو اس کے قریب کرے۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ بنا دے ہر قضاہ کو جو صادر فرمائی ہے تو نے

لِي خَيْرًا وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا

میرے لیے خیر اور بہتر۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ جس امر کی تو نے میرے لیے نفاذ صادر فرمائی ہے اس کا انجام رشد و بھلائی بنا دے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَرَّابَتْهُ بِيَدِكَ وَأَسْأَلُكَ عَيْشَةَ

اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر خیر اور بھلائی کا جس کے خزانے تیرے دست قدرت میں ہیں۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے

نَقِيَّةً وَمَيْتَةً سَوِيَّةً وَمَرْضًا غَيْرَ مُخْرَجِيٍّ وَلَا فَاضِحٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

پاکیزہ گزران کا۔ اور موزوں و مناسب حالت موت کا۔ اور ایسے مرنے کا جو مجھے رسوا کرنے والا۔ اور بے ابر و کرنے والا نہ ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّائِلِ الْجَابِ اللَّهُمَّ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کی التجا اور دُعا مقبول و مستجاب ہے۔ اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَرَ التَّوَابِ اَللّٰهُمَّ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا محسن ہیں اور معذرتوں کے قبول کرنے والے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَبْدِ الْمُسْكِينِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سید غلامی (کبری بارگاہِ صمدیت میں) عبد مسکین ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاجِرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ (معصیتِ سختی کے ساتھ روکنے والے

الْمُتَطَوِّلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

ہیں اور رنجبگاروں پر احسان فرماتے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ الْوَاهِبِ الْمُتَفَضِّلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا اَتٰی وَ خَيْرِ

پر جو آقا کہ عطیہ دے اور فضل و احسان فرماتے والے ہیں۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ان امور کی خیر کا جن کو کرتا ہوں۔ اور ان کی خیر

مَا اَفْعَلُ وَ خَيْرَ مَا اَعْمَلُ وَ خَيْرَ مَا بَطْنُ وَ خَيْرَ مَا ظَهَرُ وَ الدَّرَجَاتِ

کا جن کا ارتکاب کرتا ہوں اور ان کی خیر اور بہتری کا جن پر عمل کرتا ہوں۔ اور باطنی امور کی خیر کا اور ظاہری امور کی خیر کا اور بلند ترین درجات کا

الْعُلٰی مِنَ الْجَنَّةِ اَمِيْنُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَهُ ذِكْرِيْ وَ تَضَعَهُ

جنت میں آمین۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے ذکر کو بلند کرے اور میرا گناہوں کا

و ذُرِّيْ وَ تَصُدِّحْ اَمْرِيْ وَ تَطَهِّرْ قَلْبِيْ وَ تَحْصِنْ فَرْجِيْ وَ تُنَوِّرْ لِيْ فِيْ

بوجھ اتار دے۔ میرے امور کی اصلاح فرمائے اور میرے دل کو پاک کرے۔ میری شرمگاہ کی حفاظت فرمائے (غلط کاری سے)

قَبْرِيْ وَ تَغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَ اَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰی مِنَ الْجَنَّةِ اَمِيْنُ

میری قبر کو متور فرمائے اور بخش دے میرے گناہ۔ اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بلند درجات کا جنت میں آمین۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا

لَيْسَ هُوَ عَلٰی الْخَلْقِ بِصَيُّطٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نہیں ہیں مخلوق پر جبر اور سختی کر کے عمل درآمد کرنے والے (داروغے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفِيِّ الصَّبَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو اتنا کہ ایدہ تعلق پر صبر کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں

نَفْسِي فَإِنَّهَا لَا تَمَارَةُ بِالسُّوءِ لَمَّا تَكُونُ النَّفْسُ مُفْرِطَةً ضَارَّةً

اپنے نفس سے کیونکہ وہ بلائی کا بہت زیادہ امر اور مشورہ دینے والا ہے تاکہ نہ ہو وہ نفس حد سے تجاوز اور مضر رساں

لَا نَفَاسِي وَأَعْضَائِي وَأَنْفَاسِ أَمِيرِي وَوَالِيٍّ وَأَحِبَّائِي وَأَهْلِي وَ

میرے انفاس اور اعضاء کے لیے اور میرے امیر اور والی کے انفاس کے لیے اور میرے احباب اور اہل و عیال کے لیے اور

كُلِّ مَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّهِ أَنْتَ الْمَانِعُ لِكُلِّ آفَةٍ وَشَرٍّ أَرْضِي وَ

میری طرف متوجہ ہونے والے تمام لوگوں کے انفاس کے لیے اے اللہ تو ہی روکنے والا ہے ہر آفت اور شر کو ارضی ہو یا

سَمَاوِيٍّ مِنْ وَصُولِهِ وَإِيصَالِهِ إِلَيَّ وَإِلَى أَمِيرِي وَإِلَى وَ

سماوی اس کے پہنچنے سے اور پہنچانے جانے سے طرف میرے اور طرف میرے امیر و والی اور

أَبْنَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ آلَةٌ مِنْ

اس کی اولاد و رفقاء اور معاونین و متبعین کے اور ہر اس شے کے جو آلہ ہے اس کی

آلَاتِ إِمَارَتِهِ وَوَلَايَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَافِظُ الْمُتَصَرِّفُ تَتَصَرَّفُ

امارت اور ولایت کے آلات و اسباب سے۔ اے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا اور تصرف فرمانے والا ہے تصرف فرمانا ہے

فِي مُلْكِهِ كَيْفَ تَشَاءُ فَصَرِّفِ الْآفَاتِ وَالْحَوَادِثِ الظَّارِيَةِ

اس والی کے ملک میں جیسے تو چاہتا ہے پس پھیر دے طاری ہونے والے آفات اور پیش آنے والے حوادث کو

الْعَارِضَةِ إِلَى النُّصْرَةِ وَالْقُوَّةِ مِنِّي وَمِنْهُ وَمِنْ كُلِّ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ

مجھ سے اور اس سے اور اس کے جملہ متعلقین سے (انہیں نصرت و قوت بناتے ہوئے) ہمارے لیے

إِلَى عَدُوِّهِ وَإِلَى مَنْ أَرَادَ سُوءًا مِنِّي حَقَّهُ وَالْغَلْبَةَ عَلَيْهِ بِقُوَّةٍ فَانصُرُهُ

طرف اس کے دشمن کے اور اس کے حق میں بلائی کا ارادہ رکھنے والوں کے اور اس پر بزور یا زور غلبہ پانے کا ارادہ رکھنے والوں کے پس اس کو مدد دے

بِقُوَّةٍ وَنُصْرَةٍ مِّنْ عِنْدِكَ وَالْمَلَائِكَةَ الْأَرْضِيَّةَ الْحَفِظَةَ آمِينَ بِلِسَانِ

اپنی مخصوص قوت و نصرت کے ساتھ اور زمین پر موجود محافظ ملائکہ کے ساتھ آمین۔ ساتھ زبان



كُلِّ عَارِفٍ تَقِيٍّ هِيَ أَيُّهَا الْكَافِي الْمَوْسِعُ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطَايَا فَضْلِهِ

ہر عارف پر ہیزگار کے۔ اے کفایت فرمانے والے اور وسیع کرنے والے اپنے پیدا کردہ عطا ہائے فضل و احسان کے

وَسِعَ قَلْبِي لِحُلُولِ اثَارِ الْعُلُويَاتِ مِنْ عَطَايَا فَضْلِكَ وَمَحْضِ

میرے دل کو وسعت بخش واسطے اترنے علویات کے آثار و الوار کے تیرے فضل کے عطیات سے اور تیرے خالص

جُودِكَ مِنْ حَيْثُ الْكَلِّيَّاتِ الْكَائِنَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِهِ الذَّوَاتُ الْمَجْرَدَةُ

جو درونوال سے از روئے آثار کلبہ کے جن کے وجود میں آنے پر نصف ہوتے ہیں ساتھ ان کے ارواح و نفوس مجرہ

فِي ذَاتِهِ وَفَعَلِهِ ثُمَّ هَبْ لِي الْعَطِيَّاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ اللَّوْحِيَّةِ وَ

اپنے مرتبہ ذات میں اور مراتب فعل و تاثیر میں پھر میرے لیے معنوی علمی عطیات کا جن کا تعلق لوح محفوظ سے ہے اور

الْأَرْزَاقِ الْأَرْضِيَّةِ خِدْمَةِ لِفُقْرَائِكَ وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ لِكُلِّ أَحَدٍ

(حسی و جسمانی عطیات) کا جن کا تعلق ارضی رزق و روزی سے ہے واسطے اپنے فقراء کی خدمت کے اور وسیع فرما ہر شے مطلوبہ کو واسطے

لِمَنْ أَرَادَ فِي حَقِّهِ هَذَا الدَّاعِي الْمَتَوَجِّهُ إِلَيْكَ عَلَى حَسَبِ

ہر اس شخص کے جس کے حق میں ارادہ کرے یہ دعا گو اور راغب و متوجہ بندہ تیری بارگاہ کی طرف مطابق اپنی

إِسْتِعْدَادِهِ وَصَلَاةِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

استعداد اور صلاحیت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر جو عقل و افہام خلق سے بالاتر ہے

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ مَا أَوْحَى اللَّهُ صَلِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محرم اسرار کی طرف وحی فرمائی اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی۔ اے اللہ صلوات بھیج

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَلِيِّ الْكَافِي

اور سلام سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر جو ناصر و مددگار ہیں اور کفایت کرنے والے مجھے (امداد خلق سے)

اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

الطَّيِّبِ الشَّافِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ فِي صِحَّةِ بَدَنِي وَقُوَّةِ

طیب شافی ہیں۔ اے اللہ میں تیری طرف توسل کرتا ہوں اپنے بدن کی صحت اور جسم کی قوت میں (تیرے محبوب کیساتھ)

جَسْبِي فَشَرَّفَنِي بِأَنْ يَكُونَ هُوَ وَسَيْلَةٌ لِي وَأَقْبَلُ مُلْتَمَسِي

پس مشرف فرما مجھے ساتھ اس مشرف کے کہ ہوں وہ میرے وسیلہ اور قبول کر میرے سوال کو بظہیل ان کی عزت و

بِحُرْمَتِهِ وَبِحُرْمَةٍ مِنْ لَدُنْ الْعِزَّةِ وَالْقَبُولِ وَاشْفِنِي بِحُرْمَتِهِ وَإِلَيْهِ

حرمت کے اور بظہیل حرمت ہر اس شخصیت کے جنہیں عزت و قبولیت حاصل ہے (تیری بارگاہ میں) اور شفا دے مجھے بظہیل آپ کی حرمت اور آل

وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَوْلَادِهِ شَفَاءً كَامِلًا عَاجِلًا وَقَوْنِي

و اصحاب ازواج مطہرہ اور متبعین اور اولاد کی حرمت کے ایسی شفا جو کامل ہو اور فوری ہو اور مجھے قوی و ترانا بسا اور

وَصِحِّحْ جَسْبِي وَقَلْبِي وَوَفِّقْنِي لِمَا يُؤْصِلُنِي إِلَى رِضَاكَ وَرِضَا

صحت مند بنا میرے جسم اور میرے قلب کو اور مجھے توفیق دے ایسے اعمال کی جو واصل کریں مجھے تیری رضا اور

حَبِيبِكَ وَلَا تَبَاغِ طَرِيقَتَهُ إِلَّا نَيْقَةً وَلِمَا تُحِبُّهُ وَيُحِبُّهُ وَلِمَتَابِعِهِ

تیرے حبیب کی رضا تک اور ان کے عمدہ طریقہ کی اتباع تک اور جو تجھے پسند ہو اور انہیں پسند ہو اس تک۔ اور ان کی

فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَثَبَّتْنِي عَلَى طَرِيقَةِ الْمَحَبَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ

ظاہری و باطنی متابعت تک۔ اور ثابت قدم رکھ مجھے اپنی محبت حقیقیہ

الْمَرْضِيَّةِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْقَنَاعَةِ وَعِنَاءِ الْقَلْبِ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا

اور پسندیدہ و مقبولہ کے طریقہ پر اور توکل و قناعت پر۔ اور دل کے دنیا اور اہل دنیا سے مستغنی ہونے پر

اللَّهُمَّ بِحُرْمَتِهِ وَبِعِزَّتِهِ وَبِقَبُولِهِ وَبِشَرَفِهِ وَبِبُؤْتِهِ وَبِوَلَايَتِهِ

اے اللہ بظہیل اس محبوب کی حرمت و عزت اور قبولیت و شرافت کے اور بظہیل ان کی نبوت و ولایت کے

إِشْفِنِي وَتَوَمَّنِي مِنْ كُلِّ مَرِيضٍ وَمِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ بَدَانِي أَوْ دِينِي

مجھے شفا عطا فرما۔ اور مجھے امان میں رکھے ہر مریض سے اور ہر ناپسندیدہ امر سے بدنی ہو یا دینی ہو

وَثَبَّتْنِي عَلَى السُّنَّةِ السَّنِيَّةِ وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْغَرَّاءِ

اور مجھے ثابت قدم رکھ مالیشان سنت پر اور اس طریقہ شرعیہ پر جو روشن و نورانی اور

المَحْدِيَّةِ الْأَكْمَلِيَّةِ الْأَجْمَعِيَّةِ الْأَحَدِيَّةِ وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الْمَرْضِيَّةِ

مختدی طریقہ ہے جو انتہائی کامل، جامع اور یکتا و منفرد ہے اور اس طریقہ پسندیدہ مقبولہ پر

الْمُوصَلَةِ إِلَى الْمَقَامِ الْأَحَدِيِّ وَالتَّوْحِيدِيِّ وَأَوْصَلَنِي إِلَى ذُرْوَتِهَا

جو پہنچانے والا ہے مقام احدیت و توحید تک اور مجھے واصل فرما اس طریقہ کی چوٹی اور آخری حد تک

وَأَقْتَنِي فِي مَقَامِ التَّوَكُّلِ وَالرِّضَاءِ وَالْغِنَاءِ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا وَالْحُبِّ

اور قائم فرما مجھے مقام توکل و رضا میں اور دنیا و اہل دنیا سے استغناء کے مقام میں اور

الْحَقِيقِيِّ الْمَرْضِيِّ وَاشْفِنِي شِفَاءً تَأْفَعًا فِي الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ فِي

حقیقی پسندیدہ محبت کے مقام میں۔ اور شفاء عطا فرما مجھے جو نافع ہو بدن اور قلب کے لیے

الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَاهْدِنِي الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ التَّوْحِيدِ الْأَكْمَلِ

دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اور چلا مجھے صراط مستقیم پر جو راہ راست ہے محمد کریم کی بیان کی ہوئی توحید اکمل

الْحَمْدِ الْأَجْمَعِي الْأَحَدِيِّ وَصِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لِمَعْرِفَةِ

اور جامع ترین توحید واحدیت کا۔ اور ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے اپنی ذات

ذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ وَاتِّبَاعِ حَبِيبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

اور صفات کی معرفت اور پہچان کا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ اے اللہ

رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رب ہمارے اور رب ہر شئی کے میں گواہ ہوں اس امر کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَنَبِيُّكَ وَحَبِيبُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا

تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں اور تیرے نبی و تیرے حبیب ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُسْتَنْصِرِ الْمُرْتَقِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ مدد طلب کرنے والے ہیں صرف اچھے سے اور انتظار کرنے والے ہیں صرف تیرے احکام کی اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْتَدِبِ الْمُحْتَسِبِ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ فریادوں کی فریاد پر لیکھ کئے والے ہیں اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی امید رکھنے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَقِيِّ

ولے ہیں اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ پاکیزہ دامن ہیں

مِنْ كُلِّ جُورٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہر قسم کے جور و ظلم سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الْعَدْلِ الرَّضَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کی آل پر جو آقا کہ سراسر عدل اور مجسمہ رضا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُحِبِّ الْمَحْبُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ دتیرے (محب بھی ہیں۔ اور محبوب بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَرْجُودِ لَدَفِعِ الْكُرُوبِ اللَّهُمَّ أَحِينَا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ مرکز امید و رجاء ہیں واسطے دور کرنے شدائد و ابتلاآت کے۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ

عَلَى سُنَّتِهِ وَتَوَقَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَ

ان کی سنت پر اور وفات دے ان کی ملت پر اور بنا ہمیں ان کی شفاعت کے حقداروں سے۔ اور

أَحْسُرْنَا فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَأَوْلَادِنَا حَوْضَهُ وَأَسْقِنَا

اٹھانا ہمیں انبیاء اور صدیقین کی جماعت میں۔ اور وارثانہ ہمیں ان کے حوض پر اور پلا ہمیں

مِنْ كَأْسِهِ غَيْرَ خَرَّائِيًا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا شَاكِينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَ

ان کے جام سے درآئیکہ نہ رسوا ہونے والے ہوں اور نہ پشیمان اور نہ شک و شبہ میں مبتلا اور نہ تبدیل و تغیر کا

لَا مُغَيِّرِينَ وَلَا فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

شکار ہونے والے نہ کسی کو فتنہ میں ڈالنے والے اور نہ کسی کی طرف سے فتنہ میں پڑنے والے آمین یا رب العالمین۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الْمُتَعَطِّفِ الْعَطُوفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو مہربانی کا بہت اظہار فرمانے والے ہیں۔ اور نبی الواقع مہربان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ هُوَ بِأَشْرَفِ الْخِصَالِ مَوْصُوفًا اللَّهُمَّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ بزرگترین خصلتوں کے ساتھ موصوف تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَاعِي الْخَلْقِ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ دعوت دینے والے ہیں مخلوق کو

اِلَى الْخَلْقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ان سب کے پیدا کرنے والے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ الْخَلْقِ عَلٰى الْاِطْلَاقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

محمد کی آل پر جو تمام مخلوق سے افضل و برتر ہیں ہر پہلو سے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ الْخَلْقِ عَلٰى الشُّمُوْلِ وَالْاِسْتِغْرَاقِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو ساری مخلوق سے مجموعی اور کلی طور پر اکرم و افضل ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُنْزِ اَهْلِ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ اہل تقویٰ کے

التَّقْوٰى اَللّٰهُمَّ اَمْلَأْ قَلْبِيْ فَاخْلَعْ سَلْبِيْ وَاقْطَعْ غَيْرِيْ بِنُوْرِ حُبِّيْتِهِ

کنز اور خزانہ ہیں۔ اے اللہ میرے دل کو پھیر دے پس اُتار دے مجھ سے غم دنیا کا ماتی لباس اور منقطع فرما میرا تعلق غیروں سے طفیل

وَمَعْرِفَتِهِ بِحُرْمَتِهِ وَعِزَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ بِطَوِيْلِ الْخِيَالِ الْقَلْبِ وَ

محبوب کریم کی محبت و معرفت کے طفیل ان کی حرمت اور عزت و عظمت کے ساتھ بسے خیالوں والے قلب کے اور

بَطَائِلِ الطُّوْلِ الْقُطْبِ وَبَطِيْلِ الطِّيَالِ الْقَشْبِ وَبَطَلِ الطَّلَالِ

کار آمد قوت والے قطب کے اور ساتھ درازی دلاز تر عرصہ والے زنگ آلود کے۔ اور ساتھ نخی بہت برسنے والی

الطَّلَالِ الْكُثْبِ وَبِظَلِّ ظَلِيْلِ الْكَمَالِ اَلْاَكْمَالِ اَلْظَلِّ

شبمنوں کے جو باریک نظرات والی ہیں اور ساتھ کمال والے گھنے اور گہرے سایہ کے ساتھ کمال کے سایوں کے

الْاَجْلَالِ فِي الْظَّلَالِ الْاِيْصَالِ وَالْاِظْلَالِ الْوِصَالِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور جلال کے سایوں کے، مطلوب تک واصل کرنے والے سایوں میں اور وصال کے سایہ نگن سایوں میں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَابِشْرٍ لِّوَاوِءِ الْحَمْدِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ لہرانے والے ہیں لواء حمد کے

وَالْإِيمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور علم ایمان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ رَافِعِ لِرُؤَاةِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد کی آل پر جو عدل و احسان کے لوہ و علم کے بلند کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَدَاءِ نَفُوسِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر جس محبوب (کا دیدار یا شریعت روحانی) غدا ہے اہل ایمان کے نفوس کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ضِيَاءِ الْقُلُوبِ وَ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ دلوں کی ضیاء اور روشنی ہیں

مُفْرِجِ الْكُرُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور غم و آلام کے دور کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِهَجَةِ الْإِسْلَامِ وَسِرَاجِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل پر جو محبوب کہ اسلام کی رونق و بہار ہیں اور اس کے روشن چراغ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِنِ الْكَرْمِينَ الْأَطَائِبِ وَمَحْضِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ لذت حگ ہیں انتہائی عورت و کرامت والوں کے اور پاکیزہ ترین اشخاص کے اور خاص پاکیزہ

الْغَرَائِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

الرحمہ اخلاق والیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ قَوَامِ الْحَقِّ وَنِظَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل پر جو آقا کہ حق کے قائم و برپا ہونے کا ذریعہ ہیں اور اس کے نظم و ضبط کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ الدِّينِ وَتَمَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو سراپا جمال ہیں دین کا اور اس کی تکمیل و تمہیم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غُرَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَفْضَلِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو اسلام کی روشنی اور زینت ہیں۔ اور افضل ترین ہیں

مَنْ مَرَّتْ عَلَيْهِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ أُسْوَةَ الْمُرْسَلِينَ وَمَحْرَابِ قِبْلَةٍ

ان تمام لوگوں سے جن پر گزری ہیں راتیں اور دن۔ مقتدا ہیں مرسلین کے اور انبیاء کرام کے لیے محراب قبلہ ہیں

التَّيِّبِينَ لَطِيفِ الْحَرَكَةِ وَعَظِيمِ الْبَرَكَةِ حُلْوِ الْمَشَاهِدِ وَكَثِيرِ

لطیف چال والے۔ اور عظیم برکت والے ہیں۔ شیریں اور لذیذ دیداروں والے اور بہت بڑے

الْفَوَائِدِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَهَبْ لِي سُؤَالِي وَأَجِبْ دُعَائِي بِحُرْمَةِ

فوائد والے ہیں۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھے عطا فرما میرا سوال اور میری دعا کو قبول فرما بظہیر حرمت

مَنْ لَا يُرَدُّ دُعَاؤُ مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ فَإِنِّي مُتَوَسِّلٌ بِكَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ

اس ذات مقدسہ کے کہ نہیں روکی جاتی دعا کسی شخص کی جو توسل کرے ساتھ اس ذات مقدسہ کے تو میں بھی اتھیں کیساتھ توسل کرنا لاہوں

اقْبَلْ عُذْرِي وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَتُبَّ عَلَيَّ بِالْعِنَايَةِ الْخَاصَّةِ وَاشْفِنِي

تیری۔ اے اللہ قبول فرما میرا عذر اور مقبول ٹھہرا میری توبہ۔ اور نظر عنایت فرما مجھ پر ساتھ مخصوص عنایت کے اور مجھے شفا عطا فرما۔

وَقَوِّنِي وَاجْعَلْنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ فِيمَا تُحِبُّهُ وَيُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ

اور مجھے قوت بخشی اور بنا مجھے لمبی عمر والا ان امور میں جنہیں تو محبوب رکھتا ہے اور تیرا محبوب پسند فرماتا ہے اور جن پر تو راضی ہے اور وہ راضی ہیں

أَمِينٍ بِحُرْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِكَ الْعَامَّةِ الْوَاسِعَةِ كُلِّ شَيْءٍ يَا أَرْحَمَ

آمین۔ بظہیر اس محبوب کی حرمت کے اور بظہیر تیری رحمت کے جو عام اور شامل ہے ہر شئی کو اے ارحم

الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَجِبْ وَلَا تَرُدَّ فَإِن رُدَّتْ فَمَنْ لِي أَسْأَلُكَ وَمَنْ

الراہمین۔ اے اللہ قبول فرما اور رد نہ فرما اگر تو رد کرے تو کون ہے میرے لیے جس سے سوال کروں میں اور کون ہے

لِي سِوَاكَ اتَّوَسَّلُ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حُلْوِ

میرا وسیلہ سوا تیرے محبوب کے جس سے توسل کروں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو شیریں

الْمَذَاقِ وَطَيِّبِ الْأَخْلَاقِ أَمِينِ الْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ وَشَارِحِ الْغُرَّةِ

مذاق اور طبیعت والے اور پاکیزہ اخلاق والے ہیں۔ وحی و تنزیل کے امین ہیں۔ کشادہ روششن پیشانی والے ہیں

وَاصِحِ التَّحْجِيلِ الْمُسْتَعْرِقِ لِأَوْصَافِ الْكَمَالِ اسْتَحْقَاقًا وَالْخَلِيفَةَ

اور ہاتھوں پاؤں کی واضح سفیدی و نورانیت والے ہیں۔ احاطے کرنے والے ہیں اوصاف کمال کا از روئے حقارتی و استحقاق کے اور خلیفہ مطلق

إِطْلَاقًا قُطْبِ دَائِرَةِ الْكَمَالِ وَتَاجِ مَحَاسِنِ الْجَمَالِ وَالْجَلَالِ حِكْمَةً

ہیں اللہ تعالیٰ کے پوری کائنات میں۔ دائرہ کمال کے قطب ہیں اور جمال و جلال کے محاسن اور خوبیوں کے تاج ہیں

اللَّهُ الْبَالِغَةُ وَحُجَّةُ اللَّهِ الدَّامِغَةُ نَجَلِ الذِّبْحَيْنِ وَعِصَامِ نُجْبَةِ

اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں جو سر کربا کرنے والے ہیں رباطل کی اور ذبجوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما

قُصِيِّ وَفَخْرِ بَنِي لُؤَيٍّ أَعْلَى الْخَلَائِقِ جَاهًا وَخَيْرِ الْخَلْقِ طَهْ هِلَالِ

کے فرزند اربعند ہیں اور مدیپ عصمت و حفاظت ہیں اشرف انبی کا اور سر باہر فخر میں اولاد نبوی کا، تمام مخلوقات سے بلند تر ہیں از روئے مرتبہ کے اور ساری مخلوق کے

الْكُونِ الشَّرِيقِ وَرِيَاضِ الْأَمْنِ وَالتَّوْفِيقِ مُزِيلِ الْمَحَلِّ وَخَصِيبِ

مہتر لہ مجرودات کا روشن اور طلوع ہونے والا ہلال ہیں۔ اور امن و توفیق کے بانغات ہیں۔ قحط سالی کو نازل کر کے والے ہیں اور خوشحال

الرَّحْلِ وَعِظَالِ الْأَيَادِي وَالَّذِي أَطْفَأَ بِتُورِهِ حَقْدَ الْأَعَادِي وَ

قیامگاہ والے ہیں۔ عام کرنے والے ہیں انعامات کے۔ اور جن کے نور سے اللہ نے بجھایا اور مٹا دیا دشمنوں کا کینہ اور

الْحِصْنِ الْحَصِينِ وَمَرْكَزِ الْهُدَايَاتِ وَالآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَسِمَاكِ

مضبوط و پائیدار قلعہ ہیں۔ ہدایات اور آیات بینات کے مرکز اور مرکز ہیں اور ذریعہ ہیں

فَلَكَ الرَّضَى وَدِينِهِ الْحَنْفِيَّةَ الْبَيْضَاءَ وَجَمَالَ الْكُونَيْنِ وَجَدَّ الْحَسَنِ

نیک رضا کی بندگی و رخصت کا۔ اور اپنی ملت خنیفہ بیضاء اور واضح کا اور کونین کا جمال و حسن ہیں اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما

وَالْحُسَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نانا جان ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

كَزَلِ الْأَذْخَارِ وَمَقْصُودِ الدِّيَارِ حَامِي الدِّمَارِ وَمَحْمُودِ الدَّوَاعِي وَزَكِي

جو محبوب کہ کلمات کے ذخائر کا خزانہ ہیں۔ اور تمام آبادیوں اور مسکن سے صرف وہی مقصود ہیں حمایت و نگرانی کرنے والے ہیں خاندانی شرف و عزت کی قابل

الْفُرْعِ وَعِمَادِ الدِّينِ وَالشَّرْعِ لُبَابَةِ الْحَسْبِ الْعَرِيقِ وَجَاءَ بِالصِّدْقِ

سناٹن اسباب والے اور پاکیزہ فرع والے ہیں دین و شریعت کا عمارتوں میں شرافت والے خاندان کا جوہر و خلاصہ ہیں اور جو لائے صدق و حق کو

وَالصِّدْقِ دَوْحَةَ الْمَجْدِ الْأَثِيلِ وَهَامَةَ النَّسَبِ الْأَصِيلِ وَكَرَّمَ مَنْ

اور تصدیق و ایمان کو پائیدار شرافت و بزرگی کا بلند و بالا درخت ہیں اور پائیدار اور مضبوط نسب کے سردار اور رئیس ہیں اور ان سب سے زیادہ کرامت والے ہیں



يُسْتَمَدُّ مِنْهُ الْعَطَا وَاجْلِبِ النَّاسِ نَفْعًا لِمَحْوِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَا اللَّهُمَّ

جن سے عطا و بخشش کی امداد و نغیرات ملتی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ تمہا کرنے والے ہیں نفع کے واسطے مٹانے ذنوب و خطا کے لئے اللہ

أَنْتَ الْكَافِيُ جَمِيعَ هُمُومِي صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ أَوْ سَفَلِيًّا

تو ہی کفایت فرمانے والا ہے میری تمام مشکلات میں چھوٹی ہوں یا بڑی۔ عالم بالا سے تعلق رکھنے والی ہوں یا عالم اسفل سے

فَاَجْعَلْنِي مُسْتَحَقًّا لِتِلْكَ الْعَطَا يَا وَالْفَضَائِلِ بِخَلْقِ الْقَابِلِيَّةِ

پس بنا دے مجھے حقدار واسطے ان عطیات اور فضائل کے بسبب پیدا کرنے قابلیت و استعداد کے

الْمُجَدِّدَةِ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْكَمَالَاتِ بِحَيْثُ يَصِيرُ قَلْبِي مَرَاةَ لِعَالَمِ

لحظ یہ لحظ واسطے تمام انواع کمالات کے اس انداز میں کہ ہو جائے دل میرا آئینہ صافی واسطے عالم

الْغَيْبِ وَنَفْسِي فَاعِلَةً بِأَنْوَاعِ الْأَفْعَالِ مُتَأَثِّرَةً بِأَنْوَاعِ الْأَثَارِ حَتَّى

غیب کے اور نفس میرا فاعل و مؤثر افعال کے انواع و اقسام میں اور اثر قبول کرنے والا مختلف اقسام کے آثار سے حتیٰ کہ

يُحِبِّبَنِي الْمَلَكَةُ الْأَرْضِيَّةُ وَيُنْصِرَنِي بِأَنْوَاعِ الْمَدَدِ حَتَّى أَكُونَ

محبت کرنے لگیں مجھ سے زمین کے مدبر ملائکہ اور مدد کریں میری تمام تر انواع اعانت کے ساتھ حتیٰ کہ ہو جاؤں میں

فِي خَلْقِكَ قَاضِيًا لِلْحَاجَاتِ بِأَخْذِ الْإِجَابَةِ مِنْكَ وَمِمَّنْ اصْطَفَيْتَهُ

تیری مخلوق میں حاجات کا پورا کرنے والا تیری طرف سے قبولیت پا کر اور جنہیں تو نے ملائکہ سے چن لیا ہے

مِنْ كُلِّ كَائِيْلٍ وَرُؤْيَائِيْلٍ وَحَرْفَائِيْلٍ وَجِبْرَائِيْلٍ وَمِيكَائِيْلٍ وَعَزْرَائِيْلٍ

یعنی کلکائیل - رویائیل - حرفائیل - جبرائیل - میکائیل اور عزرائیل

وَاهُكَائِيْلٍ مُوَكَّلَةٌ لِتَدَابِيرِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ مِنْ سَبْعَةِ أَقَالِيمٍ فَإِنَّهُمْ

و اہکائیل علیہم السلام جن کو سترہ گئی ہفت اقلیم کی زمین کے اطراف و اکناف کی تدبیر و انتظام - پس وہ سبھی

مُتَصَرِّفُونَ فِيهَا عَلَى وَجْهِ رِضَاكَ بِقُوَّةِ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ الصَّادِرَةِ

تصرف کرنے والے ہیں ان میں تیری رضا اور پسند کے مطابق بطفیل قوت و طاقت ان سات حروف کے جو سرزد اور صادر ہونے والے

مِنْ سِرِّ نَوْبِكَ مَكِيْفَةٌ بِكَيْفِيَّاتِ هَذِهِ الصُّوْرِ الْوَقْفِيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ

ہیں تیرے سرور سے۔ درآئیکہ وہ تکلیف ہیں ساتھ کیفیات ان صورتوں کے جو کہ وقفی ہیں اور شخصی

مَنْ مَرَّبَخَتْ ذَفْوِسَعُ رُوحِي لِأَخْذِ مَا فِي هَذِهِ الْحُرُوفِ مِنَ الْأَثَارِ

یعنی م ر ب خ ت ذ۔ لہذا توسیع فرما میرے روح میں واسطے اخذ اور ضبط کرنے ان آثار

وَالْأَسْرَارِ الْمَوْدَعَةِ فِيهَا فِي مَقَامِ الْجَمْعِ وَالْعَمَاءِ ثُمَّ سَخَّرَ بِهَا كُلَّ

د اسرار کے جو ان حروف میں ودیعت کئے گئے ہیں مقام جمع میں اور مقام عماد میں (مخالص الوری الطلاق مقام جہاں غیرت کا گزرنے میں ابھر سحر فرما

الْكُلِّ مِنْ حَيْثُ التَّأْتِيرُ وَالتَّدْبِيرُ إِلَهِي يَا فَاطِرَ الْحَقَائِقِ الْأَرْضِيَّاتِ

میرے لیے بسبب ان کے سب مخلوق کو از روئے تاثیر اور تدبیر الہی کے لیے پیدا کرنے والے حقائق ارضیہ کے

لَيْسَ أَحَدًا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ شَيْئًا سِوَاكَ فَالْتِقِ الْأَلْفَةَ وَالْمَحَبَّةَ بَيْنَ

نہیں کوئی شخص کہ توجہ کروں میں طرف اس کے سوا تیرے پس پیدا فرما الفت اور محبت درمیان

عَبْدِكَ هَذَا الدَّاعِيُ وَبَيْنَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى تَنْصُرَنِي وَتُعِينَنِي

اپنے اس داعی اور سائل عبد کے اور درمیان ان ملائکہ کے حتی کہ وہ میری نصرت و اعانت فرمائیں

عَلَى أَمْرٍ أَقْصِدُ إِلَيْهِ أَوْ لَمْ نَقْصِدْ لِفَقْدِ عَلَيَّ بِذَلِكَ الْأَمْرِ وَهُوَ

اس امر پر جس کا میں نے قصد کیا یا ہم اس کا قصد نہیں کر پائے بسبب فقدان علم دشواری کے ساتھ اس امر کے حالانکہ وہ

لَا بَدَّ لِمَنْ خَلَقَ مِنْ مَخْلُوقَاتِكَ وَمَزَّجَ بِسَمِّكَ الْأَلْفَةَ وَالْمَحَبَّةَ

مزدوری تھا تیری کسی مخلوق کی بھلائی اور بہتری کے لیے تیرے مخلوق سے اور مخلوط فرما الفت و محبت کی اس انجھلی کے ساتھ

أَلْفَةَ الْمَائِيَّاتِ مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ أَثَرِ الصِّدِّ وَهُمْ مَلَائِكٌ طَبِيعَةٌ سَيَّالَةٌ

افت مائیات، مائیر کی بغیر ظاہر ہونے اثر اس کی ضد اور مد مقابل کا اور وہ مالک ہیں طبیعت سیال اور مانع کے

سَيَّارَةٌ أَثَارَهَا فِي أَجْسَامِ تَفَاعَةٍ فِي شَيْءٍ وَضَرَارَةٌ فِي شَيْءٍ وَهُمْ

کہ بہت زیادہ سرایت کرتے والے ہیں آثار ان کے اجسام میں۔ اگر بہت زیادہ مانع ہیں ایک شے میں تو بہت نقصان دہ ہیں دوسری شے میں۔ اور وہ

يُدَبِّرُونَهَا وَتِلْكَ الطَّبِيعَةُ مَقْدُورَةٌ لَهَا فِي أَيْ بَحْرٍ كَانَ مِنَ السَّبْعَةِ

اس کی تدبیر کرتے ہیں اور وہ طبیعت مائیہ ان کے زیر قدرت و تصرف ہے خواہ جس سمندر میں ہو سات سمندروں سے

أَوْ مِنْ أَيْ جَدْوَلٍ مِنْ جَدَاوِلِ أَوْ فِي مَقَرِّ مَا فَهْمُ الْأَعْلُونَ فَعَرَفَنِي

یا نہر اور ندی میں ہو ندیوں سے یا کسی بھی ٹھکانے میں پس وہی ان مائیات پر غالب ہیں پس میری پہچان کرا



بَيْنَهُمْ حَتَّى تُحِبَّنِي وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا نَقِيًّا مَنْ كُلِّ

درمیان ان کے یہاں تک تو محبت کرے مجھ سے اور تیری محبت کی وجہ سے وہ محبت کریں اور سر انجام دیں ان امور کو جن کا حکم دئے جائیں تیرے اذن سے

جَوْرًا لَمْ يُخَالِطْهُ فَعَالَهُ إِحْفَظُنِي مِنْ كُلِّ جَوْرٍ وَجَفَاءٍ وَمُضَرَّةٍ

اے پاک ہر طرح کے ظلم سے کہ نہیں ربط و اختلاط رکھا اس جور سے اس کے افعال نے مجھے محفوظ رکھے ہر جور و جفا سے اور ضرر و نقصان سے

حَادِثَةٌ عَنِ الْمَحْسُوسَاتِ أَوِ الْمَغْيِبَاتِ فَأُحْصِنُ لِي مِنْ إِتْخَانِهِمْ

جو پیدا ہونے والا ہے محسوسات سے یا غیبی امور سے پس میرے لیے محافظت فرما ان کے تجاوز اور قتل سے

وَلَا تَحْزُنِي إِنْ صَدَرَ مِنْهُمْ فِي حَقِّي جَوْرٌ أَوْ ظَلَمٌ مُتَوَجَّهٌ إِلَيَّ فَاهْلِكْهُمْ

اور مجھے غمزدہ نہ کر اگر ان سے سرزد ہو میرے حق میں جور یا ظلم جو متوجہ ہو میری پس ہلاک فرما انہیں

عِنْدَ الْإِقْرَاطِ وَأَفْرِغْنِي عَنْهُمْ صَبْرًا فِي أَوَّلِ الْوَهْلَاتِ اللَّهُمَّ أَنْتَ

حد سے تجاوز کی صورت میں اور ڈال میرے اندر صبر و تحمل ان کی طرف سے ابتداءی مراحل میں۔ اے اللہ تو ہی

الْمُتَصَرِّفُ فِي الْمَحْسُوسَاتِ فَتَقَبَّلْ دَعْوَاتِي عِنْدَ كُلِّ جَوْرٍ وَظَلَمٍ

تصرف فرمانے والا ہے محسوسات میں پس قبول فرما میری دعاؤں کو وقت ہر جور اور ظلم کے جو سرزد ہو

فِي حَقِّ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ حِينَ التَّوَجُّهِ إِلَيَّ عَبْدِكَ الْمُتَوَجَّهِ إِلَيْكَ

تیرے کسی بھی بندے کے حق میں تیرے بندوں سے وقت متوجہ ہونے ان بندوں کے تیرے اس بندے کی طرف جو متوجہ ہے تیری بارگاہ عالی

الْفَقِيرِ الْحَقِيرِ مِنْ عِبَادِكَ اللَّهُمَّ إِحْفَظْنِي عَنْ جَوْرِ نَفْسِي فِي

کی طرف جو فقیر و حقیر سا بندہ ہے تیرے بندوں سے۔ اے اللہ محفوظ فرما مجھے میرے نفس کے جور سے جو سرزد ہو

حَقِّ رُوحِي وَقَلْبِي وَعَنِ الْخَنَاسِ الَّذِي يُوسُّوسُ فِي صَدْرِي

میرے قلب و روح کے حق میں اور اس خناس سے جو دوسوے ڈالتا ہے میرے دل میں

فَأَجْعَلْهُ مَقْهُورًا تَحْتَ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً مُلْهَمَةً حَتَّى يَكُونَ

پس کروا سے مغلوب و مقهور نیچے میرے نفس کے درآئیگی وہ مطمئن ہے تیرے ذکر کی وجہ سے اور اطمینان کیا ہوا ہے (رشد و ترقی کا تیری طرف) حتیٰ کہ ہو

مَقْهُورًا أَوْ مَذَلًّا تَحْتَ نُورِكَ فِي عَبْدِكَ الصَّالِحِ الْعَادِلِ الْمُتَوَجَّهِ

جائے مقهور اور تالیدار نیچے تیرے نور کے جو تیرے صالح و عادل بندے میں ہے جو تیری طرف



إِيَّاكَ اللَّهُمَّ أَجْرُنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَرُؤْيَا أَعْمَالِنَا وَمِنْ شَرِّ

متوجہ ہے۔ اے اللہ ہمیں بچالے ہمارے نفوس کے شرور سے اور اپنے اعمال پر نظر رکھنے سے اور

كَيْدِ الشَّيْطَانِ وَاجْعَلْنَا مِنْ خَوَاصِّ أَحِبَابِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُ

مکر شیطان کے شر سے۔ اور بنا ہمیں اپنے خاص احباب سے کہ جن پر شیطان کے بے نہیں کسی

عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَإِنَّهُ لَا قُوَّةَ لَهُ إِلَّا عَلَى مَنْ سَلَبْتَ عَنْهُ نُورَ

طرح کا تسلط اور غالب کیونکہ نہیں اس کے لیے قوت تصرف مگر صرف ان لوگوں پر جن سے تو پھین لے نور

التَّوْفِيقِ وَخَذَلْتَهُ وَلَا يَقْرُبُ إِلَّا مَنْ قَلْبٍ حَبَبْتَهُ عَنكَ

توفیق کو اور اسے محروم اعانت کر دے۔ اور وہ نہیں قریب ہوتا مگر اسی قلب کے جس کو حباب میں کر دے اپنی ذات سے

بِالْغَفْلَةِ وَأَهْنَتَهُ وَأَمَّتَهُ الْهِنَا فَمَا حِيلَةُ الْعَبْدِ وَأَنْتَ تَقْعُدُكَ

بسبب اس کی غفلت کے اور اس کی تدبیر کرے اور اسے موت چھمکانا کر دے۔ اے ہمارے الٰہیں کیا چارہ ہے بندے کیلئے تیرے تک رسانی کا جبکہ

وَمَا وَصُولُهُ وَأَنْتَ تُبْعِدُهُ هَلِ الْحَرَكَاتُ وَالسَّكِّنَاتُ إِلَّا بِإِذْنِكَ

تو بٹھا دے اسے اور کیا صورت ہے اس کے وصال کی جبکہ تو دور کر دے اسے۔ نہیں ہیں حرکات و سکناات مگر ساتھ تیرے اذن و توفیق کے

وَلَيْسَ مُنْقَلَبُ الْعَبْدِ وَمَثْوَاهُ إِلَّا بِعِلْمِكَ الْهِنَا فَاجْعَلْ حَرَكَاتِنَا

اور نہیں بندے کا پلٹنا اور ٹھہرنا مگر ساتھ تیرے علم کے۔ اے ہمارے معبود پس کر دے ہمارے حرکات

وَسُكُونَنَا إِلَيْكَ وَشَكَرْنَا لَكَ وَاقْطَعْ جَمِيعَ جِهَاتِنَا بِالتَّوَجُّهِ إِلَيْكَ

و سکناات کو متوجہ طرف اپنے۔ اور ہمارے شکر کو مخصوص واسطے اپنے اور منقطع فرما دے ہماری تمام توجہات کو بسبب متوجہ کرنے کے طرف اپنے

وَاجْعَلْ اعْتِمَادَنَا فِي كُلِّ الْأُمُورِ عَلَيْكَ فَمَبْدَأُ الْأَمْرِ مِنْكَ رَاجِعٌ

اور بنا تو ہمارے تمام امور میں اعتماد اور بھروسہ صرف اپنی ذات پر کیونکہ ہر امر کی ابتدا بھی تجھی سے ہے اور اس کا مرجع و مال بھی

إِلَيْكَ الْهِنَا إِنَّ الطَّاعَةَ وَالْمَعْصِيَةَ سَفِينَتَانِ سَائِرَتَانِ بِالْعَبْدِ

تیری ذات ہی ہے۔ اے ہمارے معبود برحق بیشک طاعت اور معصیت دو کشتیاں ہیں جو بندے کو لے کر رواں دواں ہیں

فَالْعَبْدُ فِي بَحْرِ الْمَشِيئَةِ إِلَى سَاحِلِ السَّلَامَةِ وَالْهَلَالِ فَالْوَاصِلُ

لنذاہر بندہ تیری مشیت کے سمندر میں سلامتی کے ساحل یا ہلاکت کے (بھنور) کی طرف متوجہ ہے پس جو



إِلَى سَاحِلِ السَّلَامَةِ هُوَ السَّعِيدُ الْمُتَقَرَّبُ وَذُو الْهَلَاكِ هُوَ الشَّقِيُّ

سلامتی کے ساحل تک واصل ہونے والا ہے وہی سعادت مند اور مقرب بارگاہ ہے۔ اور جو ہلاک ہونے والا ہے وہی بدبخت ہے

الْمُبْعَدُ وَالْمُعَذِّبُ الْهَنَا أَمَرَتْ بِالطَّاعَةِ وَنَهَيْتْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ

اور بارگاہ قرب سے دھنکارا ہوا اور مبتلا عذاب ہے۔ اسے ہمارے معبود تو نے حکم دیا اطاعت کا اور منع فرمایا معصیت سے

وَقَدْ سَبَقَ تَقْدِيرُهُمَا وَالْعَبْدُ فِي قَبْضَةِ تَصَرُّفِكَ زَمَامَةٌ فِي يَدِكَ

اور دونوں (طاعت و معصیت) کے متعلق تیری تقدیر وارد ہو چکی ہے ماضی میں اور بندہ تیرے قبضہ قدرت و تصرف میں ہے اس کی باگ ڈور تیرے

تَقْوُدُهُ إِلَى آيَتِهَابِ شَدَّتْ وَقَلْبُهُ بَيْنَ الْأَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِكَ تُقَلِّبُهُ

ہاتھ میں ہے کھینچتا ہے تیرے ان دو میں سے جس کی طرف چاہے اور اس کا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے تو اسے الٹا پلٹتا ہے

كَيْفَ شَدَّتْ الْهَنَا فَثَبَّتْ قَلْبُنَا عَلَى مَا أَمَرْتَنَا وَجَبَّبْنَا عَمَّا نَهَيْتَنَا

جس طرح چاہے۔ لے ہمارے خدا پس ثابت رکھ ہمارے قلوب کو اپنے اوامر پر اور ہمیں دُور کر دے اپنے نواہی سے

عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَ الْخَلْقَ

کیونکہ صورت حال واقعی یہ ہے کہ نہیں پھرنا معصیت اور نہ قوت و طاقت (طاعت کی) مگر ساتھ تیری توفیق کے۔ پاک ہے تو، نہیں کوئی معبود برحق سوا تیرے

قَسَمَيْنِ وَفَرَّقْتَهُمْ فَرِيقَيْنِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

تو تو نے مخلوق کو دو قسم پر پیدا فرمایا اور انہیں دو گروہوں میں منقسم فرمایا۔ ایک فریق جنت میں ہے اور دوسرا فریق بھڑکتی آگ میں ہے۔

هَذَا حُكْمُكَ عَدْلٌ وَتَقْدِيرُكَ حَقٌّ وَسُرُّكَ غَامِضٌ فِي هَذَا الْخَلْقِ وَ

یہ تیرا حکم اور فیصلہ برابر عدل ہے اور تیری تقدیر برحق ہے۔ اور تیرا ستر اور راز باریک اور مخفی ہے اس مخلوق و ایجاد میں۔ اور

مَا نَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِنَا فَا فَعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تَفْعَلُ بِنَا مَا

ہم نہیں جانتے (بذات خود) جو ہمارے ساتھ کیا جائے گا پس کز تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کہ جس کا تو اہل اور حقدار ہے اور نہ سلوک فرما ہمارے

نَحْنُ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ الْهَنَا فَاجْعَلْنَا

ساتھ ایسا جس کے ہم سزاوار ہیں کیونکہ بے شک تو ہی لائق ہے اس کے کہ ڈرا جائے تجھ سے۔ اور لائق ہے امید مغفرت کے۔ لے ہمارے معبود پس بنا ہمیں

مِنْ خَيْرِ فَرِيقٍ وَمِمَّنْ سَلَكَ الْأَيْمَنَ فِي الطَّرِيقِ مِنَ الْآخِرَةِ وَ

بہترین فریق سے اور ان لوگوں سے جو چلنے والے ہیں بہت امن والی راہ پر آخرت کے راستوں سے اور

ارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ وَاعْصِمْنَا بِعِصْمَتِكَ لِنَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ وَدُلَّنَا

رحم فرما ہم پر اپنی مخصوص رحمت سے اور محفوظ فرما ہمیں اپنی خاص عصمت سے تاکہ ہو جائیں ہم کامیاب لوگوں سے۔ اور ہماری رہنمائی

عَلَيْكَ لِنَكُونَ مِنَ الْوَاصِلِينَ ۝ اِنَّ وِلْيَیَّ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتَابَ

فرما اپنی ذات کی طرف تاکہ ہو جائیں ہم واصلین میں سے۔ بیشک میرا بار و مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

اور وہ متولی ہے نیکوکاروں کے امور کا۔ پس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُحِبِّ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ قبول کرنے والے ہیں (دعوت)

لِمَنْ دَعَاهُ وَكَفَّاهُ اللّٰهُ وَاوَاةُ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہر اس شخص کی جو انہیں دعوت دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کفایت کی ہے اور انہیں اپنی پناہ اور امان دی ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِحَرِّ النَّدَاوَعِلْمِ الْهُدٰی اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا سخاوت کے سمندر ہیں اور ہدایت کے علم و نشان ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِهَجَةِ الدَّارِیْنَ اللّٰهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ دارین کی رونق اور بہار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلٰی التَّكْوِيْنِ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ ایجاد کونین کی علت (باعث و غائیہ) ہیں

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْرَ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ منظر ہیں تحکیم کا

التَّحْكِيْمِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

(فیصلہ کیے امور کی سبزی کا)۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

يَتَّبِعُوْنَ التَّعِيْمِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

آقا کہ سرچشمہ ہیں (دنیوی اور اخروی) نعمتوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا



مُحَمَّدٍ مِفْتَاحِ الْعَالَمِ وَكَرِيمِ الْمُجْتَلَا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَي سَيِّدِنَا

محمد کی آل پر جو آقا کے بندوں اور فرشتوں کی جانی اور سبب کامل ہیں اور بزرگ و بلند مرتبت پھرے اور جلوہ گاہ والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّقَلَّةِ الْإِمْكَانِ وَمَوْضِعِ الْأَمَانِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ آئینہ ہیں عالم امکان کی اور جائے امان ہیں (ہر ایک کی)۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَوْضَةِ التَّعْيِيمِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سراسر باغ ہیں نعمتوں کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذُرْوَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کے عظیم شرف اور

الشَّرَفِ الْجَسِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

بزرگی کی بلند چوٹی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلْوَةِ الْبَحْرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد کی آل پر جو آقا کے سراسر تسلی و اطمینان ہیں غز و گان کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَطْلَعِ النُّورِ الْمَكْنُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ جہانے طلوع و ظہور ہیں مکنون و مستور نور کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَالِي الْمَجْدِ وَالسَّنْدِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ بلند بزرگی والے ہیں اور عالی مرتبت سہارا ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ

قَامَ بِالْمَعْنَىٰ وَبِالِاسْمِ اتَّحَدَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قائم ہوئے ساتھ معنی و حقیقت کے اور اسم کے ساتھ اتحاد اور ربط کامل قائم کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَمِ قِمِ الطَّرَائِبِ الْأَوَّلِ وَمَجْمَعِ النَّوَالِ الْأَكْمَلِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو نشان و علامت ہیں نقص و نگار اول کی اور محل اجتماع ہیں عطاء اکمل کا۔



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَطِيبَ

لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کرب پاکیزہ لوگوں سے

الطَّيِّبِينَ وَأَشْرَفَ الذَّاكِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پاکیزہ تر ہیں اور سب ذکر خداوند تعالیٰ کرنے والوں سے بلند مرتبت ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مظهرِ الحِكمِ الْفَائِقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ منظر ہیں بلند و بالا حکمتوں کے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الرَّحْمَةِ السَّابِقَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ عین ہیں اس رحمتِ سابقتِ بیجا نبیوں کے (غضب باری تعالیٰ پر از روئے تخریب)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفِيٍّ

لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو اصفیاء سے

الْأَصْفِيَاءِ وَتَقِيٍّ الْأَتْقِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

چنے ہوئے ہیں اور سب اقیاء کے سردار ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُعْطَى الْغَنَائِمِ وَمَكِينِ الدَّعَائِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ غنیمتوں کے عطا کرنے والے ہیں اور مضبوط و مستحکم ستونوں والے ہیں۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُجَلِي الصِّدَا وَ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ دور کرنے والے ہیں (دلوں کے) ازنگ اور

شَدِيدِ الْبَأْسِ عَلَى الْعَدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سخت گرفت والے ہیں اعداء پر۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَبَاحِ الْأَفْقِ وَمُحِبِّ الرَّفْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ ہر افق کی روشنی اور اجالا ہیں اور افق اور نرمی کو پسند کرنے والے ہیں۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَسَاسِ الْإِيْمَانِ وَ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ ایمان کی اساس و بنیاد ہیں اور

دَعَائِهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلِمَ الدِّينَ وَمَعَالِيهِ

اس کے ستون۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ دین کا (بندوں پر لہرانا علم ہیں اور دین کے معلوم حاصل کرنے کے

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُعْصُومِينَ

مقامات و معالم میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا اور ان کی آل معصوم اور محفوظ ہیں (صدور زلوت)

مِنَ النَّاسِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تمام انسانوں میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ مُطَهِّرِ الْبَيْتِ مِنَ الْأَنْجَاسِ وَالْأَرْجَاسِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ

محمد پر جو آقا کہ پاک کرنے والے ہیں بیت اللہ شریف کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے۔ اے اللہ بیشک ہم سوال کرتے ہیں پناہ و امان

بِعِزِّ جَلَالِكَ وَبِجَلَالِ عِزَّتِكَ وَبِقُدْرَةِ سُلْطَانِكَ وَبِسُلْطَانِ

کا بظہیر تیری عزت جلال کے اور جلال عزت کے اور بوسیله تیری قدرت تصرف و تسلط کے اور تصرف

قُدْرَتِكَ وَبِحُبِّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَطِيعَةِ

قدرت کے اور صدقے میں تیرے نبی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تیری ذات کے انقطاع اور انفصال سے

وَالْأَهْوَاءِ الرَّدِيَّةِ يَا ظَهِيرَ الْأَجِينَ يَا جَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ أَجْرِنَا مِنَ

اور ردی خواہشات سے۔ اے مددگار پناہ پھیلانے والوں کے اور پناہ دینے والے پناہ کے خواستگاروں کے ہمیں بچا

الْخَوَاطِرِ النَّفْسَانِيَّةِ وَاحْفَظْنَا مِنَ الشَّهَوَاتِ الشَّيْطَانِيَّةِ وَطَهِّرْنَا

نفسانی خیالات سے۔ اور محفوظ رکھ ہمیں شیطانی شہوات سے۔ اور پاک فرما ہمیں

مِنَ الْقَادُورَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَأَصْفِنَا بِصَفَاءِ الْحَبَّةِ الصِّدِّيقِيَّةِ وَمِنْ

بشری غلاظتوں سے۔ اور صاف کر ہمیں صدیقی محبت والی صفائی اور خلوص کے ساتھ اور

صَدَاءِ الْعُقَلَةِ وَوَهْمِ الْجَهْلِ حَتَّى تَضْمَحَلَّ رُسُومُنَا بِصَفَاءِ الْإِنَانِيَّةِ

عقلت کے زنگ سے اور جہالت کے وہموں سے حتیٰ کہ کمزور اور سست ہوجائیں ہمارے نفس و نشانات بسبب فنا

وَمُبَايَنَةِ الطَّبِيعَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِي حَضْرَةِ الْجَمْعِ وَالتَّخْلِيعِ الْإِلَهِيَّةِ

ہونے انانیت اور جدا ہوجانے طبیعت انسانیہ (اور اس کے لازمی تقاضوں) کے اللہ تعالیٰ کے مقام جمع اور تخلیق و انفرادیت میں



والتَّجَلَّى بِالْأُلُوْهِیَّةِ الْاَحَدِیَّةِ وَالتَّحَلُّیْ بِالْحَقَائِقِ الصَّمَدِ اِنِیَّةِ فِی

اور بظہیل روشنی و متور ہونے کے ساتھ (انوار) الوہیت احدیہ کے اور بسبب مزین ہونے کے ساتھ حقائق صمدانیہ کے (اللہ تعالیٰ کی)

شُهُودِ الْوَحْدِ اِنِیَّةِ حَيْثُ لَا حَيْثُ وَلَا اَیْنَ وَلَا كَيْفَ وَیَبْقَى الْكُلُّ

وحدانیت کے مشاہدہ و دیدار میں جہاں پر نہ جگہ ہے اور نہ مکان و کیفیت کا سوال ہی ہے اور باقی رہ جاتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ

لِلَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَاِلَى اللّٰهِ وَمَعَ اللّٰهِ غَرْقًا بِنِعْمَةِ اللّٰهِ فِی بَحْرِ

کے لیے ہی اور اسی کے ساتھ۔ اسی کی طرف سے اور اسی کی طرف اور اسی کے ساتھ واسطے غرق ہونے کے بسبب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اللہ کے

مَدَّةِ اللّٰهِ مَنصُورِیْنَ بِسَیْفِ اللّٰهِ مَخْصُوصِیْنَ بِمَكَارِمِ اللّٰهِ

احسان کے سمندر میں درآغا لیکھ نہرت دئے ہوئے ہوں ساتھ اللہ تعالیٰ کی تموار کے اور مخصوص ٹھہرائے گئے ہوں اس کے بزرگ صفات و اخلاق سے

مَلْحُوظِیْنَ بِعَیْنِ اللّٰهِ مَحْظُوظِیْنَ بِعِنَايَةِ اللّٰهِ مَحْفُوظِیْنَ

اور منظور نظر ہوں اللہ کی نگاہ عنایت کے حصہ دئے جانے والے ہوں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اور حفاظت کئے گئے ہوں

بِعِصْمَةِ اللّٰهِ مِنْ كُلِّ شَاغِلٍ یَّشْغُلُ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَخَاطِرٍ یَّخْطُرُ

اللہ تعالیٰ کی عصمت کے ساتھ ہر اس امر سے جو مشغول کر دینے والا ہو اللہ تعالیٰ سے اور ایسے خیال اور خطرے سے جو کھٹکے

فِی غَیْرِ اللّٰهِ یَا رَبُّ یَا اللّٰهُ یَا رَبُّ یَا اللّٰهُ یَا رَبُّ یَا اللّٰهُ وَمَا تَوْفِیْقِیْ

غیر اللہ کی طرف متوجہ) میں۔ اے رب اے اللہ۔ اے رب اے اللہ۔ اے رب اے اللہ۔ اے اللہ اور نہیں میری توفیق

اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَیْهِ اُنِیْتُ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَیْ

مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کے، اسی پر توکل کیا میں نے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْاَوَّلِ فِی الْفَضْلِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب مخلوق سے اول ہیں فضل و شرف میں امامت و

التَّقْدِیْمِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَیِّدِنَا

قیادت میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِیْ طُبِعَتْ طِبْنَتُهُ مِنَ التَّسْنِیْمِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَیْ

کہ جس محبوب کی طہنیت اور نمبری عنصر گوندھا اور تیار کیا گیا تسنیم کے پانی سے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَرْدِ الْكَرِيمِ وَالْمَكْرَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ یکتا ہیں کرم و جود میں اور بلند و بزرگ اخلاق و صفات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ سَوَابِغِ الْإِنْعَامِ وَالنِّعَائِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ جامع ہیں کامل انعامات کے اور خوشحالیوں اور سزوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ثَانِيِ اثْنَيْنِ وَشَرِيفِ الدَّارَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ دو (رہ و ان دشت غربت) میں سے ایک تھے اور دارین میں شریف و بزرگ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنَزَّهَةِ الْمُقَدَّسَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سراسر منزہ و مقدس ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعْرَبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ سب عربوں سے

الْعَرَبِ حَسَبًا وَنَسَبًا وَأَنْفُسِهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خالص ترین ہیں از روئے حب و نسب کے اور ان سب نفسیں ترین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُوقِنِ فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ بِجُودٍ وَجُودٍ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب یقین رکھنے والے ہیں اپنے تمام احوال میں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) وجود و ثبوت کے جود و عطا کا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ اللَّهُمَّ اعْطِنِي سَمْعًا يَسْمَعُ آيَاتِكَ وَعَقْلًا

ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے کلمات کے (جیسے حق ہے ایمان کا) اے اللہ عطا فرما مجھے ایسی قوت سامع جو سنے تیری آیات کو اور ایسا

يَفْهَمُ آيْمَاءَكَ وَبَصَرًا يَرَىٰ قُدْرَتَكَ وَفَوْادًا يَعْرِفُ عَظَمَتَكَ وَ

عقل جو سمجھے تیرے اشارات کو اور ایسی نگاہ جو دیکھے تیری قدرت کے آثار کو اور ایسا دل جو پہچانے تیری عظمت کو اور

قَلْبًا يَعْتَقِدُ تَوْحِيدَكَ وَسَيِّرًا يَتَسَيَّرُ بِأَسْرَارِكَ وَنُورًا يَتَنَوَّرُ بِعُرْفَانِكَ

ایسا قلب جو عقیدہ رکھے تیری توحید کا اور ایسی سیر جو لے جا کر متصل کرے تیرے اسرار سے اور ایسا نور جو نور روشن ہو تیرے عرفان

وَحَالًا يَتَصَوَّرُ بِخَيَالِكَ وَخَيَالًا يَتَوَصَّلُ بِوَصْلِ أَصْلِكَ وَاجْعَلْنِي

سے۔ اور ایسا حال جو کہ متصور و متشکل ہو تیرے ہی خیال سے اور ایسا خیال جو واصل ہے تیری ذات کے وصال سے جو کہ وہی وصال اصل ہے تمام

فِي وَايَةٍ عِصْمَتِكَ وَدِرَايَةٍ عَظَمَتِكَ وَبِدَايَةٍ وَسَمْتِكَ وَنَهَايَةٍ

وصالوں کا اور کہ مجھے اپنی عصمت کے تصرف میں اور اپنی عظمت کی پہچان میں اپنے رنگ میں رہنے کی ہدایت و آغاز میں۔ اور اپنی نزویگی اور

قُرْبَتِكَ مَا لَا يَسَعُهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يُصِغُهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يُرْسِلُهُ إِلَّا اللَّهُ

قرابت کی انتہا میں جس کی گنجائش نہیں رکھتا مگر اللہ تعالیٰ۔ اور نہیں ڈھالتا اسے مگر اللہ۔ اور نہیں چھوڑتا اسے مگر اللہ

وَلَا يُصِيبُهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يُدْرِكُهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يُوَصِّلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا

اور نہیں پاتا اسے مگر اللہ اور نہیں احاطہ کرتا اس کا مگر اللہ، اور نہیں واصل کرتا اسے مگر اللہ اور نہیں

مُعِينُهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس کی اعانت کرتا مگر اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ وَالْمَحَامِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جو محبوب کہ جامع ہیں تمام مناقب اور صفات سائنس کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَشْكُورِ فِي الْمَصَادِرِ وَالْمَوَارِدِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب شکر ادا کئے ہوئے ہیں (شکریت اور طریقت و حقیقت کے آب حیات) میر ہو کر لوٹنے کے مقامات میں اور

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بیانی کیلئے وارد ہونے والے مقامات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْجَوَادِ الرَّؤُوفِ وَإِغَاثَةِ الْمَكْرُوبِ وَالْمَلْهُوفِ

جو آقا کہ صاحب جو در نوال اور بہت مہربان ہیں اور سراپا فریاد رسی ہیں کرب و ابتلا میں اور حسرتوں اور انہوں کے شکار لوگوں کے لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ تمام بندگان خداوند تعالیٰ سے

الْعِبَادِ طَرًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بزرگ اور برتر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی



مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَنْ وَرِطَى الْغُبْرَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

آل پر جو محبوب کرا افضل و اعلیٰ ہیں ان تمام سے جنہوں نے قدم رکھا زمین پر۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْلَةَ الشَّفَاعَةِ وَكَعْبَةِ

محمد کی آل پر جو آقا کہ قبلہ شفاعت ہیں اور کعبہ طاعت ہیں یعنی دروں کے

الطَّاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ملجا اور مرجع ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ كُنْزَ الْكَوَامِعِ وَبُرْهَانَ الطَّوَالِعِ وَمُصْبِحَ الْمَطَالِعِ وَوَضَّاحَ

جو محبوب کہ کنز ہی روشن صفات کے۔ اور برہان ہیں سعادتمندیوں کے اور چراغ ہیں افتخار طالع کے۔ اور بہت واضح کنوئے ہیں

الْمَشَارِعِ وَضَخَمِ الدَّاسِعَةِ وَعَنْوَانَ الشَّرِيعَةِ وَجَرَّارِ الْكُتَيْبَةِ وَ

شرعی احکام کے ماخذ کے اور عظیم قوت و بخشش والے۔ حقائق شرعیہ تک رسائی کا ذریعہ۔ باطل کی سرکوبی کے لیے استکرا کے لئے اور

مَيِّمُونَ النَّقِيبَةِ الضَّرِيبَةِ وَالْمُنِيبِ الْأَوَاهِ وَغَيْبِ أَسْرَارِ الْإِلَهِ

مبارک حکومت و سلطنت والے ہیں یا مبارک طبیعت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کنوئے اور بہت آہیں بھرنوئے ہیں اسرار خداوندی کے چھپنے کا مقام

وَمَغْرِبِ أَسْرَارِ الذَّاتِ وَمَشْرِقِ أَنْوَارِ الصِّفَاتِ وَالْمُنْتَفَى

اسرار ذات کے پر شہید ہونے کا مقام اور انوار صفات (کے آفتاب کا) مطلع نورانی۔ اور پاکیزہ ذات و صفات والے

الْمَأْمُونِ وَرَحْمَةِ اللَّهِ لِلْعَالَمِينَ وَهُدَايَةِ اللَّهِ لِلخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ ط

امن دے ہوئے۔ عالمین کے لیے اللہ کی رحمت مجم اور تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت مجم

وَدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَالْمَنْعُوتِ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَبَشْرَى

اور حضرت ابراہیم خلیل کی مجسم دعا۔ اور تورات و انجیل میں بیان کردہ اوصاف و کمالات والے۔ اور تمام انبیاء

الْأَنْبِيَاءِ الْكِرَامِ وَتُحْفَةِ الْأَصْفِيَاءِ الْأَعْلَامِ وَذِي الطَّوْلِ وَالِافْتِحَارِ

کرام عظیم السلام کی مجسم بشارت اور برگزیدہ نامور شخصیات کے لیے سراپا تحفہ و ہدیہ قوت و طاقت اور قابل فخر خوبیوں والے

وَالْمُعْطَى الْمُنْعَمِ وَالطَّيِّبِ الْمَتَّبِعِ وَوَأَسْطَةِ عَقْدِ السُّلُوكِ وَ

عطا دانام فرمانے والے اور پاکیزہ و بہنس تمکھ۔ سلوک راہ خدا کے بار کا قیمتی جوہر



شَرَفِ الْأَمْلَاكِ وَالْمُلُوكِ بِالْأُلُوكِ إِلَى دِينِ الشَّرِيعَةِ وَطَرِيقَةِ السَّلْوكِ

فرشتوں اور بادشاہوں کا شرف و زور ہیں بسبب پیغامِ رسانی اور ہدایت کے طرفِ دینِ شریعت کے اور طریقہ سلوک کے

فِي حِينِ الْعُوكِ وَالتَّهْوُوكِ وَنُورِ الْمُلْكِ وَالْمَمْلُوكِ وَالْفَائِزِ فِي الْحِكْمَةِ

ان کی طرف متوجہ ہونے اور پناہ لینے اور حیرانی و اضطراب کے وقت میں۔ اور نور ہیں ملک اور مملکت کے اور بلند مرتبت ہیں حکمت میں

وَالرَّحْمُوتِ سِرِّ الْوُجُودِ وَسَنَاءِ وَنُورِ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَاءِ وَمِفْتَاحِ

اور بے پایاں رحمت ہیں۔ وجودِ ہستی کا راز ہیں اور اس کی روشنی اور ہر چیز کا نور ہیں اور اس کا حسن موجودات کیلئے مفتاحِ ایجاد ہیں۔

الْأَكْوَانِ وَفَرْدِ الْمَحَاسِنِ وَالْإِحْسَانِ وَيَتَّبِعُ الْعُنَاصِرِ الشَّرِيفَةِ

خوبیوں اور احسان میں یکتا ہیں۔ اور سرچشمہ ہیں پاکیزہ عناصر کا۔

وَسِرِّ الْأَسْرَارِ اللَّطِيفَةِ عَيْنِ غَيْبِ اللَّهِ الْكَامِلَةِ وَخَلِيفَةِ اللَّهِ

اور اسرارِ لطیفہ کا راز نماں ہیں، اللہ تعالیٰ کے غیب کی کامل و اکمل چشمِ بینا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نائبِ مطلق ہیں

عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي مَمْلَكَتِهِ الشَّامِلَةِ إِلَهِي إِرَادَتِي إِرَادَتِكَ وَأَنَا

اس کی محیط سلطنت و بادشاہت میں۔ اے میرے خدایا میرا ارادہ (کچھ بھی نہیں بلکہ وہ صرف) تیرا ارادہ ہے۔ اور میں

فِي الْحَقِيقَةِ مَا أَنَا وَإِنْ أَقْبَلْتَنِي حَاجَةٌ وَتَكُونُ الرَّجْعَةُ إِلَيْهَا

حالاتِ حقیقت میں میں نہیں ہوں اگر پیش آئے مجھے حاجت اور ہو رجوعِ طرفِ اس کے

رَجْعَةٌ إِلَى غَيْرِ مَا بَيَّنَّتُ أَوْ إِلَى مَا يَتَكُونُ مِنْهُ فَاجْعَلْ إِرَادَتِي تَوَجُّهًا

رجوعِ طرفِ غیر مانی امور کے یا طرفِ ان اشیاء کے جو مادہ ماخوذ سے وجود میں آنے والے ہیں تو پس کرو میرے ارادے کو متوجہ فرما

إِلَى وَحْيِي كَأَنِّي مُوسَى فِي الْقَبُولِ وَالْإِجَابَةِ فَالْتَّحِبُّوا إِلَيَّ بِالنَّجْوَى

طرفِ وحی کے جو کفایت کرنے والی اور گنجائش پیدا کرنے والی ہے قبول و اجابت کی پس القاء فرما محبت اور الفت درمیان میرے

وَبَيْنَ هَمْرَائِيلَ وَطَائِيلَ وَأَهْوَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَحَوْلَائِيلَ وَ

اور درمیان ہمزائیل - طائیل - اہوائیل - میکائیل اور حولائیل و

أَقْبَائِيلَ وَدَرْدَائِيلَ حَتَّى يُطَهَّرَنَّ ظَاهِرِي وَبَاطِنِي مِنْ كُلِّ لَوْثٍ

اقبائیل اور دردائیل کے تاکہ وہ پاک کریں میرے ظاہر اور باطن کو ہر آلائش سے

وَوَحْشَةٍ شَيْطَانِيَّةٍ وَنَفْسَانِيَّةٍ وَيَجْعَلُنَ الْكَيْفَ لَطِيفًا قَرِيبًا

اور شیطانی و نفسیاتی وحشت سے اور کر دیں کثیف کو لطیف اور قریب کر دیں

بِالْهَوَاءِ فِي اللَّطَافَةِ وَعَدَمِ الرَّؤْيَةِ وَتَحَقُّقِ الْأَثَارِ وَالْقَابِلِيَّةِ

(مانی کو) ساتھ ہوائی کے لطافت میں اور نظر نہ آسکنے میں اور محقق ہونے آثار و استدلال کے

لِلتَّشْكِْلِ بِأَنْوَاعِ الْأَشْكَالِ وَالتَّكْيِيفِ بِأَصْنَافِ الْكَيْفِيَّاتِ ثُمَّ مَرُّ

واسطے منتقل و تصور ہونے کے مختلف قسم کے اشکال و صورتوں میں۔ اور تصنیف ہونے کے ساتھ مختلف اقسام کی کیفیات کے پھر حکم دے

يَا إِلَهَ الْفَلَكَيَّاتِ مَلَائِكَةَ الْهَوَائِيَّاتِ حَتَّى يَحْفَظْنَ لِيْ وَلِهِنَّ سُبُوْحَهُ

اے فلکیات کے خدا ہوائی امور و اشیاء کے ملائکہ کو تا کہ وہ حفاظت کریں میرے لیے اور میری طرف توجہ کرنے والوں کے لیے

إِلَى بِالْمَحَبَّةِ وَالْإِخْلَاصِ مِنْ أَنْ تُسْرِىَ الْهَوَاءُ الْفَاسِدَةَ مَعَ أَنْفَاسِيْ

ساتھ محبت و اخلاص کے کہ فاسد ہوائیں سرایت کریں میرے انفاس میں

خَارِجَةً أَوْ دَاخِلَةً وَحِينَ يَتَكَيَّفُ كَيْفِيَّةَ الضُّوْرِ أَوِ الظُّلْمَةِ مَوْصُولَةً

خارج ہوتے ہوئے یا داخل ہوتے ہوئے اور جب متکلیف ہو وہ ہوا کیفیت نور یا ظلمت کیساتھ درآئنا کی بہت

إِلَى حَدَقَةِ بَصْرِيْ أَوْ قُوَّةِ سَمْعِيْ فَاجْعَلْهَا مُسْتَمِدَّةً لِّقُوَّةِ مَنْ الْقُوَى

ہے میری آنکھ کے سیاہ حصے سے یا میری قوت سامع سے تو بنا اس کو مدد لانے والی واسطے کسی قوت کے قوی میں سے

عَلَى وَجْهِ الْكِفَايَةِ وَالتَّفْعِ لَا عَلَى وَجْهِ الضَّرْمِ وَالْبَضِيعَةِ وَيَحْفَظْنَ لِيْ

اوپر طریقے کفایت اور نفع رسانی کے نہ اوپر طریقے ضرر کے اور ضائع ٹھرانے کے۔ اور محفوظ رکھیں مجھے

وَلِهِنَّ يُرِيدُ عَبْدُكَ الدَّاعِيَ مِنَ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي تَتَكُونُ سَمًّا أَوْ ضَرًّا

اور جو ارادت رکھتے ہیں تیرے اس مائل بندے سے انہیں بھی ان عقوبات سے جو زہر اور ضرر کا موجب بننے والی ہیں

أَوْ رِيْحًا مَتَّبِعَةً سَارِيَةً فِي طَرِيقِ الْعُرُوقِ وَاجْعَلْهَا يَا فَاطِرَ الْحَقَائِقِ

یا اس زور دار ہوائی صورت میں ڈھلنے والی نہیں جو مومیں مارتی اور سرایت کرتی ہے رگوں کے راستوں میں اور کہ تو ان موکلات کو ملے پیدا کر تیرے (حقائق کے)

مُسَخَّرَةً لِيْ فَيَصُدُّرُ مِنْهَا الْأَثَارُ حِينَ أَتَوَّقِعُهَا مِنْهَا ثُمَّ ابْطُنْ لِيْ وَاجْعَلْ

سخر میرے لیے پس صادر ہوں ان سے آثار جبکہ میں توقع کروں ان کے مزید ہونے ان سے پھر پوشیدہ رکھ میرے لیے (اس راز کو) اور بنا

اسْرَافِيلَ وَكُومَائِيلَ وَرُودَمَائِيلَ وَاسْبَعِيْلَ وَتَنْكْفِيلَ وَشُرْكَائِيلَ وَهَرَائِيلَ

اسرائیل - کومائیل - رودمائیل - اسماعیل - تنکفیل - شرکائیل اور ہرائیل کو

مُحْيِينَ لِي بِحَقِّ هَذِهِ الْحُرُوفِ الَّتِي مَلَكَتْ بِهَا تِلْكَ الْمَلَكَةُ كُرَّةَ الْهَوَاءِ

میرے ساتھ محنت کرنے والے بطفیل حتیٰ ان حروف کے کہ مالک ہو گئے لہذا ان کے وہ ملائکہ کرۃ ہوا کے

وَمَا يَتَكَوَّنُ مِنْهَا بِكَيْفِيَّةِ هَذِهِ الصُّورِ فِي الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ الْمَمْلُوءِ بِالصُّورِ

اور جو اس سے وجود میں آئے والا ہے ساتھ کیفیات ان صورتوں کے جو نقش و ثبت ہیں لکھی ہوئی کتاب میں جو پھر پورے ساتھ لڑائی

التُّورِيَّةِ فَهِيَ أَعْظَمُ الْحُرُوفِ فَوْسَعُ رُوحِي لِمُطَالَعَاتِ الْأَثَارِ وَالْبَدَائِعِ

صورتوں کے ہیں وہ سب حروف سے عظیم حروف ہیں پس وسعت بخش میری روح کو ان آثار اور عجائب کے مطالعہ کی

الَّتِي هِيَ مُودَعَةٌ فِيهَا أَعْنِي قِي ص ع ظ ل ض يَا حَتَّانُ أَنْتَ

جو کہ ان میں ودیعت کئے گئے ہیں یعنی ق ی ص ع ظ ل ض لے مرہبان تو ہی ہے

الَّذِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا وَسِعَ الرَّحْمَةَ وَالْعِلْمُ فِي حَقِّ عَبْدِكَ

جس نے اعاط کر لیا ہے ہر چیز کا از روئے رحمت کے اور علم کے، وسیع کرا پئی رحمت اور اپنے علم کو اپنے اس دُعا طلب

الدَّاعِي حَتَّى يَحْفَشَ قَلْبِي عُلُومَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

بندے کے حتیٰ میں حتیٰ کہ جمع کرے میرا دل اپنے اندر ان اولین و آخرین کے علوم کو جو تیرے نیک بندوں سے ہیں

مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالنَّبِيِّينَ وَتَنْطَوِي نَفْسِي مَعَ كُلِّ حَواِسِ ظَاهِرِي وَ

یعنی اولیاء و انبیاء کرام علیہم السلام اور لہوٹ جائے اور مندرج ہو جائے میرا نفس مع تمام حواس ظاہری اور

بَاطِنِي فِي رَحْمَتِكَ الْمَوْسَعَةِ الْوَاصِلَةِ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ عَالَمٍ تَقِي اللَّهُمَّ

باطنی کے تیری رحمت میں جو گنجائش رکھتی ہے میری اور پہنچتی ہے طرف میرے ہر پرہیزگار عالم کی طرف سے۔ اے اللہ

أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيَّ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تُعِينُهُ وَتَسَخِّرْ لِي الْأَرْوَاحَ الْقُدْسِيَّاتِ

تو قادر ہے اس پر کہ بنائے مجھے ان بندوں سے جن کی تو اعانت فرماتا ہے اور مسخر فرمائے میرے لیے مقدس ارواح کو

وَالْمَلَائِكَةَ الْأَرْضِيَّاتِ وَالْأَمْهَاتِ وَالْمَلَائِكَةَ الْعُلُوبِيَّاتِ الْمَسْبُوحَةَ الْمُقَدَّسَةَ

اور زمین و عناصر کے موکل ملائکہ کو اور عالم بالا کے ملائکہ کو جو تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں



بِالسُّبُوحِ وَالْقُدُّوسِ لَكَ وَالتَّصَرَّفِ فِي الْأَرْوَاحِ الظُّلْمَانِيَّةِ الْكُدْرَةِ

ساتھ سبح قدوس کے اور عطا کرے مجھے تصرف ان ارواح میں جو ظلمانی اور مکدر ویسے ہیں

وَهِيَاءِ كَلِمَتِهِمْ وَنَفُوسِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ مِنَ الْأَرْضِيَّاتِ بِإِعَانَةِ الْأَرْوَاحِ

اور ان ہیاء کل اور ٹوٹا پھرن میں جہاں وہ مکین ہیں اور ان کے نفوس میں اور جو ان سے تعلق رکھنے والے ایسی ارواح و نفوس ہیں ساتھ اعلیٰ ہے

الْمُقَدَّسَاتِ اللَّاهُوتِيَّاتِ وَالْهَامَاتِهِمْ وَاحْلَالِ الْعُلُومِ الْكَلْبِيَّاتِ

ارواح مقدسہ لاهوتیہ کے اور ان کے الہامات کے اور ڈالنے ان کے علوم کلیہ کو

مِنْهُمْ فِي قَلْبِ هَذَا الْفَقِيرِ مُسْتَخْرِجَةً جُزْئِيَّاتِهَا وَنَفْسَهُ مُتَصَرِّفَةً

اس عبد فقیر کے قلب میں در آنجا لیکہ نکالنے والا ہے ان کے جزئیات کے علوم و احکام کو ان کلیات سے نفس اس کا اور تصرف

فِي مَقَارِهَا وَحَوَاسِئِهَا عَلَى نَهْجِ عِلْمِكَ الْحَقِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کرنے والے ہیں ان کے محل قرار و تحقیق میں حواس اس کے تیرے علم حق کے نیچ اور انداز پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَرُوسِ الْمَمْلَكَةِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ مملکت ربانیہ کے دولہا ہیں اور نفیض و حقیقی اے اللہ

إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ عَرُوسِ الْمَمْلَكَةِ وَمُنْقِذِ النَّاسِ مِنَ الْمَهْلَكَةِ الَّذِي

بے شک ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے بطریق حق اس مملکت ربانیہ کے دولہا کے اور لوگوں کو ہلاکتوں سے بچانے والے کے کہ نہیں تو نے

رَفَعَتْهُ وَكَلَّمْتَهُ وَاخْتَرْتَهُ وَأَصْطَفَيْتَهُ أَنْ تَهَبَ لَنَا رِضَاكَ وَرِضَاةَ

رضعت بخشی اور ہکلام بنایا اور چن لیا اور منتخب فرمایا کہ تو ہمہ فرمائے مجھے اپنی رضامندی اور ان کی رضامندی

لِنَفُوزِ بِمَا أَمَلْنَا وَآتَوْسَلُ بِهِ فِي حَضْرَتِكَ وَمَا تَوْسَلُ بِهِ كُلُّ ذِي حَاجَةٍ

تا کہ ہم کامیاب ہو جائیں اپنی امیدوں اور آرزوؤں میں۔ اور وسیلہ بچڑوں میں ان سے تیری بارگاہ میں اور میں وسیلہ بنایا انہیں کسی

إِلَىٰ جَنَابِ قُدْسِكَ إِلَّا أَوْصَلْتَهُ إِلَىٰ مَطْلُوبِهِ فَاسْأَلُكَ مُتَوَسِّلًا بِنْتَاءِ

حاجتمند نے تیری بارگاہ مقدس میں مگر تو نے اس کو پہنچایا ہے اس کے مطلوب تک تو میں بھی سوال کرتا ہوں تجھ سے وسیلہ بچڑنے ہوئے تیرے حبیب

حَبِيبِكَ أَنْ تُسَهِّلَ حَزُونَكَ أَمْرِي وَتُدَلِّلَ صُعُوبَتَكَ وَتُعْطِيَنِي مِنَ الْخَيْرِ

پاک کی شان سے کہ تو سہل اور نرم فرمادے میرے معاملات کی شدت اور سختی کو۔ اور رام کر دے ان کی سرکشی کو اور عطا کرے تو مجھے تمام طرح کی خیرات سے



كَلِّهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَرْجُو وَأَتَصَرَّفُ عَنِّي الشَّرَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَافُ وَتُبْتَنِي عَلَيَّ طَرِيقَةَ

زیادہ اس سے جس کی امید رکھتا ہوں۔ اور پھیر دے مجھ سے شر و فساد کو لہذا اس سے جس سے خوف کھانا ہوں۔ اور ثابت قدم رکھے مجھے توکل اور

التَّوَكُّلَ وَالْقَنَاعَةَ وَغِنَاءَ الْقَلْبِ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا وَتَقِيمَنِي عَلَيَّ شَرِيعَتِكَ

تمامت کے طریقہ پر اور دل کے استغناء پر دنیا اور اہل دنیا سے۔ اور قائم رکھے مجھے اپنی روشن شریعت پر

الْفَرَاءَ الْمَحْدِيَّةَ الْأَكْبَلِيَّةَ وَطَرِيقَتِكَ الْمَوْصِلَةَ إِلَى الْمَقَامِ الْوَحِيدِيِّ

جو محمد کریم والی ہے اور اہل ترین ہے۔ اور ثابت رکھے اپنے اس راستہ پر جو پہنچانے والا ہے احدی توحیدی مقام تک

بِحُرْمَتِهِ وَعِزَّتِهِ وَشَرَفِهِ وَجَاهِهِ وَقَبُولِهِ يَا اللَّهُ تُبْتَنِي عَلَيَّ طَرِيقَ

بطیفیل حرمت و عزت اس محبوب کے اور بطیفیل ان کے شرف و جاہ اور قبولیت کے۔ اے اللہ مجھے ثابت و قائم رکھ اہل سنت

السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَأَوْصِلْنِي إِلَى مَرَاتِبِ الرِّجَالِ

والجماعت کے طریقہ پر اور محبت و معرفت کے طریقہ پر۔ اور واصل فرما مجھے کامل مردوں کے

الْكَامِلِينَ بِحُرْمَتِهِ عِنْدَكَ وَاسْتَجِبْ دُعَائِي بِصِدْقَتِهِ وَادْفَعْ عَنِّي

مراتب تک بطیفیل اس محبوب کی حرمت و عزت کے نزدیک اپنے۔ اور قبول فرما میری دعا کو ان کے صدقے میں اور دور رکھ سے

الْأَمْرَاضَ الْقَلْبِيَّةَ وَالْقَالْبِيَّةَ لِأَسِيْبِمَا مَرَضَ التَّوَجُّهَ إِلَى غَيْرِكَ وَ

قلب اور قالب کے امراض کو بالخصوص تیرے ماسواہ کی طرف توجہ کے مرض کو اور

ارْزُقْنِي رِزْقًا وَاسِعًا عَلَيَّ الدَّوَامَ وَاصْلًا مِّنْكَ إِلَى عَبْدِكَ عَلَيَّ طَرِيقَةَ

عطا فرما مجھے رزق وسیع ہمیشہ کے لیے جو پہنچنے والا ہو تیری طرف سے تیرے اس بندے تک خاص طریقہ

الْخَاصِّ وَالْعَامِ عَارِيًّا عَنِ الْكُلْفِ وَالْمَحْنِ خَالِيًّا عَنِ بَوَائِقِ الدَّهْرِ

پر بھی اور عام طریقہ پر بھی جو کہ خالی ہو مشقت اور محنت سے۔ اور خالی ہو زمانہ کی آفات

وَشَدَائِدِ الْفِتَنِ نَافِعًا فِي الدِّينِ وَالْبَدَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور فتنوں کی شدتوں سے، نفع دینے والا ہو دین میں بھی اور بدن میں بھی۔ اے اللہ صلا و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَرْجِمَانِ حَضْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ ترجمان ہیں بارگاہِ خداوندی کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْتَقَى مِنْ جَوَاهِرِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو چنا ہوا اور چھٹا ہوا جو ہر ہیں

الْحُسْنِ وَالْبَهَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حسن و خوبی کے جواہر سے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا

مُحَمَّدٍ قُطْبِ الذَّهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کہ قطب اور مرکز ہیں عقول و ازمان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحْبُوبِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر جو آقا کہ محبوب ہیں ملک قدوس کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَفَعَ اللَّهُ بِهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے صدقے میں دور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے

الضَّرَاءَ وَالْبُؤْسَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہر ضرر و نقصان اور شدت و سختی کو۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُجِيرِهَا لَيْكِنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی آل پر جو محبوب کہ ہلاکت سے دوچار لوگوں کو بچانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غُوثِ الصَّارِخِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ فریادیوں کے فریاد رس ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صُبْحِ الدَّجَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ کامیابی کی صبح تاراں ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَيْثِ السَّمَاحِ اللَّهُمَّ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سخاوت کی موسلا دھار بارش ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَفَّ اللَّهُ

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے صدقے میں روک دیا اللہ تعالیٰ نے



بِیَدِ الظَّالِمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَوْرِ كُلِّ جَائِرٍ وَظُلْمِ

ہاتھ ظلم پیشہ لوگوں کا۔ اے اللہ بیشک میں پناہ مانگتا ہوں تیری ہر جور پیشہ کے جور سے اور ہر ظالم

كُلِّ ظَالِمٍ وَبَغْيِ كُلِّ بَاغٍ وَحَسَدِ كُلِّ حَاسِدٍ وَحَقْدِ كُلِّ حَاقِدٍ وَ

کے ظلم سے۔ اور ہر باغی کی بغاوت اور تجاوز سے اور ہر حاسد کے حسد سے اور ہر کینہ ور کے کینہ سے اور

كِبْرٍ كُلِّ كَاذِبٍ وَسِحْرِ كُلِّ سَاحِرٍ وَمَكْرِ كُلِّ مَكْرٍ وَكَيْدِ كُلِّ كَايِدٍ

ہر کاذب کے کذب سے اور ہر جادوگر کے جادو سے اور ہر مکار کے مکر سے اور فریب کار کے فریب سے

وَعَدْرِ كُلِّ عَادِرٍ وَشِمَاتٍ كُلِّ شَامِتٍ وَكُشْحٍ كُلِّ كَاشِحٍ بِكَ

اور ہر عداوت کی عداوت سے۔ اور ہر دشمن بداندیش کے خوش ہونے سے اور ہر پہلو تھی کر نیوالے کی پہلو تھی سے۔ ساتھ تیری توفیق کے ہی

أَصُولٍ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَإِيَّاكَ أَرْجُو وَلَا يَتَى الْأَحْبَاءَ وَالْقُرَانَ اللَّهُمَّ

حملہ آور ہوتا ہوں اعداء پر اور تجھ سے ہی امید رکھتا ہوں احباب اور ساتھیوں کی ولایت اور سرپرستی کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْهُدَى

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا آخری ہادی ہیں (ارباب ہدایت انبیاء عظیم السلام سے)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا

أَشْرَفِ مَتَّبِعِينَ وَأَفْضَلِ مُقْتَدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کہ سب متبوعین سے بزرگتر ہیں اور سب مقتداؤں سے افضل۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَوَّرَ اللَّهُ مَظْهَرَهُ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے محل ظہور کو اللہ تعالیٰ نے متور فرمایا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاتِمِّ الْعُلِيَّا

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو رافت اور بندی کی لاہیں اکھوتے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَهْرَةَ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ دنیا کی زینت



الدُّنْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور آرائش ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مُحَمَّدٍ أُنْسَانَ عَيْنِ الْاَكْوَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو محبوب کریم کہ موجودات کی آنکھ کی پتلی اور نور ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خُلَاصَةَ الْاِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْحَجَاتِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو خلاصہ ہیں اذوی العقول کا انسانوں۔ فرشتوں اور جنوں میں سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَكُنْ لِي وَوَلِيًّا وَ

اے اللہ بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری تمام تر موطن و مقامات میں پس ہو تو میرے لیے اور میرے اہل و عیال کے

إِخْوَانِي كُلِّهِمْ جَارًا حَاضِرًا حَفِيًّا بَارًّا أَوْلِيًّا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا

اور میرے تمام بھائیوں کے لیے پناہ دینے والا ہر وقت ساتھ موجود رہنے والا نصوحی نوہر رکھنے والا محسن و مددگار ہمارے تمام امور پر نظر و عنایت

نَاطِرًا وَعَلَى الْأَعْدَاءِ كُلِّهِمْ نَاصِرًا وَوَلِيًّا لِخَطَايَا وَالذُّنُوبِ كُلِّهَا غَافِرًا

رکھنے والا۔ اور تمام دشمنوں کے خلاف نصرت و امداد دینے والا۔ اور تمام تر خطاؤں اور گناہوں کا بخشنے والا

وَلِلْعَيُوبِ كُلِّهَا سَاتِرًا لَمْ أَعْدِمْ عَوْنَكَ وَبَرَكَ وَخَيْرِكَ لِي طَرْفَةَ

اور تمام تر عیوب پر پردہ دینے والا۔ نہیں میں نے معدوم پایا تیری اعانت و احسان اور تیری بھلائی کو اپنے لیے آنکھ

عَيْنٍ مُنْذُ أَنْزَلْتَنِي دَارًا اِلْخْتِيَارِ وَالْفِكْرِ وَالْإِعْتِبَارِ لَتَنْظُرَ إِلَيَّ

بھلنے کی دیر کے لیے بھی جب سے کہ تو نے اتنا ہے مجھے اختیار و فکر اور عبرت حاصل کرنے کے تمام (دار دنیا) میں تاکہ نظر نہ لگے تو طرف

فِيهَا أَقْدَمُ إِلَيْكَ لِدَارِ الْقَرَارِ فَإِنَّا عَتَيْتُكَ يَا مَوْلَايَ مِنْ جَمِيعِ

میرے ان امور میں جو میں تیری طرف بھیجنے والا ہوں دار قرار (جنت) کے لیے۔ پس میں تیرا آزاد کیا معدوم غلام ہوں اے میرے مولیٰ تمام تر

الْمُبْضَارِ وَالْمُبْضَالِ وَالْمَصَائِبِ وَالْمَعَائِبِ وَاللَّوْازِبِ وَالْهُمُومِ

ضرر سال اور گمراہ کن امور سے اور مصیبتوں اور عیبوں سے اور چپک جانے والے نقائص اور تفکرات سے

وَاللَّوْازِمِ وَالْهُمُومِ الَّتِي قَدْ سَاوَرْتَنِي فِيهَا الْغُومُ بِمَعَارِيضِ

اور لازم رہنے والے بیبات اور آلام سے کہ جن میں حملہ آور ہو گئے ہیں مجھ پر غم و اندوہ مختلف قسم کے



أَصْنَفِ الْبَلَاءِ وَضُرُوبِ جُهْدِ الْقَضَاءِ لَا أَذْكَرُ مِنْكَ إِلَّا الْجَبِيلَ وَلَمْ أَرِ

بلیات کے تیروں سے۔ اور قضاہ کی مشقتوں کے انواع و اقسام سے۔ میں نہیں یاد رکھتا تجھ سے مگر جن سلوک اور وضع جمیل کو اور نہیں دیکھی میں سے

مِنْكَ إِلَّا التَّفْضِيلَ خَيْرَكَ لِي شَامِلٌ وَصُنْعَكَ لِي كَامِلٌ وَلَطْفَكَ بِنِي

تجھ سے مگر نہایت اور بھلائی، تیری نیر میرے شامل حال ہے۔ اور تیری نیکی میرے لیے کامل ہے۔ اور تیرا لطف

كَافِلٌ وَفَضْلَكَ عَلَيَّ مُتَوَاتِرٌ وَنِعْمَكَ عِنْدِي مُتَّصِلَةٌ وَأَيَادِيكَ

میرا کفیل ہے۔ اور تیری مہربانی مجھ پر مسلسل اور لگاتار ہے اور تیری نعمتیں میرے ہاں مسلسل ہیں اور تیرے احسانات

لَدَائِي مُتَّظَاهِرَةٌ لَمْ تُخْفِرْ جَوَارِيَّ وَصَدَّقْتَ رَجَائِي وَمَا حَدَّثَ

میرے ہاں ایک دوسرے کی تقویت کرنے والے ہیں تو نے میرے پناہ دینے میں کوتاہی نہیں کی اور میری امیدوں کو سچا کر دکھایا اور تو میرا معصوب

أَسْفَارِي وَأَكْرَمْتَ أَحْضَارِي وَحَقَّقْتَ أَمَالِي وَشَفَيْتَ لِي

راہ میرے سفروں میں۔ اور میری عزت بڑھائی حضور و اقامت میں۔ اور متحقق و موجود فرمایا میری آرزوؤں کو اور شفا دی میرے لیے

أَمْرَاضِي وَعَافَيْتَ مُنْقَلِبِي وَمَتَّوَأَيْ وَلَمْ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي

امراض میں۔ اور عافیت دی میری درگونی میں اور برپا رہنے کی حالت میں۔ اور نہ خوش کیا میرے بہتے میرے اعداء کو

وَرَمَيْتَ مَنْ رَمَانِي وَكَفَيْتَنِي شَرَّ مَنْ عَادَانِي وَأَعُوذُ بِاللَّهِ

اور نشانہ بنایا اسے جس نے مجھے نشانہ بنایا اور کفایت کی تو نے مجھے ہر اس شخص کے شر سے جس نے میرے ساتھ عداوت کی۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں

مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَغَضَبِ اللَّهِ وَتَكَاَلِ اللَّهِ وَعَذَابِ اللَّهِ وَبَطْشِ

اللہ تعالیٰ سے اس کی ناراضگی اور غضب سے اور اس کی عقوبت اور عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت

اللَّهِ وَأَحْيَايَتِهِ وَاجْتِنَاثِهِ وَأَصْطِلَامِهِ وَسَطَوَاتِهِ وَمَنْ تَقَمَّتْهُ

اور اس کی ناراضگیوں سے۔ اور اس کے اکھیر پھینکنے۔ اور نہایت و نابود کرنے سے۔ اور اس کے غلبہ و تشدد سے۔ اور اس کے

وَجَمِيعِ مَثَلَتِهِ وَمِنْ إِعْرَاضِهِ وَصُدُودِهِ وَتَخْلِيَّتِهِ وَخَدْلَانِهِ وَ

انتقام اور عبرت ناک سزاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی بے اتفاقی سے اور رکاوٹ پیدا کرنے سے۔ اور اس کے چھڑوینے سے اور مروجہ اتفاقات

تَنْكِيْلِهِ وَمِنَ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالْحَيْرَةِ وَالشُّرْكِ وَالشَّكِّ فِي دِينِ اللَّهِ

رکھنے سے اور سزا و عقاب کرنے سے اور کفر و نفاق سے اور حیرت۔ شرک اور دینِ خلافتی میں شک و شبہ سے

وَشَرَّ يَوْمٍ أَحْشَرُ وَالتَّشْرِ وَشَرِّ كِتَابٍ قَدْ سَبَقَ وَمِنْ زَوَالِ

اور حشر و شر کے دن کے شر سے۔ اور اس تحریر ازلی کے شر سے جو سبقت لیا چکی ہے۔ اور نعمت کے

التَّعْمَةِ وَتَحَوُّلِ الْعَافِيَةِ وَحُلُولِ النِّقْمَةِ وَمِنْ مُوجِبَاتِ

زوال سے اور عافیت کے بدل جانے سے اور انتقامی کارروائی اور عذاب کے اترنے سے اور ہلاکت کے

الْهَدَاةِ وَمِنْ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْفَضِيحَةِ

اسباب موجبہ سے اور ذلت و رسوائی کے مقامات سے دنیا میں اور دارین میں

فِي الدَّارَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

فضیحت و رسوائی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاسْطَةَ نِظَامِ الْمَوْجُودَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد کی آل پر جو واسطہ و وسیلہ ہیں موجودات کے نظم و ضبط کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَطَائِفِ بَدَايِعِ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ سراسر لطائف اور بدائع امور سے ہیں

الْعُلُويَّاتِ وَالسَّفَلِيَّاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

علوی اور سفلی اشیاء کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِرُقْعِكَ اللّٰمِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ تیرا چمکدار نورانی برقع ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِكَ السَّاطِعِ


سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ تیرے بلند مرتبت نور ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ مَعْنَاكَ الَّذِي هُوَ بِكُلِّ قَلْبٍ سَلِيمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جو محبوب تیرے ایسے معنی (اور حقیقت) ہیں جو کہ ہر قلب سلیم میں جلوہ گر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ الْأَفَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سب آفاق اور اطراف جہاں کے چراغ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَيْسَ هُوَ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ نہ سخت کلام ہیں

بِفِظِّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نہ سخت مزاج ہیں اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا رَحِيَ الْغَرَائِمِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب تاوانوں کے مٹانے والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَفَّارِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ حراموں کے

الْجَرَائِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بخشتے والے ہیں (بطور سبیت کے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَيْسَ هُوَ عَلَى الْخَلْقِ بِجَبَّارٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

محمد کی آل پر کہ جو آقا مخلوق پر بالکل جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِسِرِّ الْأَسْرَارِ مِنَ الْمَانِعِ مِنَ الْأَضْرَارِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَنَا مَعَ الذُّنُوبِ

بطریقہ سرالاسرار کے جو بچانے والے ہیں نقصانات سے حتیٰ کہ نہ رہے ہمارے لیے ساتھ گناہوں کے

وَالْعُيُوبِ قَرَارًا وَثَبَّتْنَا وَاهْدِنَا لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور عیبوں کے قرار و سکون کے قرار و سکون اور ہمیں ثابت قدم فرما اور ہدایت فرما علم اور عمل کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الظِّلِّ الظِّلِّ

سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بہت گھنا سائیہ (رحمت) ہیں

وَمُرْتِيلِ الشَّدَّةِ وَالْكَرْبَةِ وَالْعَفْوِ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَرَحْبِ السَّاحَةِ

اور دور کرنے والے ہیں شدت اور تنگی کے اور درگزر کرنے والے ہیں اپنے اوپر ظلم کر نبیوں سے اور کشادہ بارگاہ والے ہیں



وَالْمَحْدَرِ مِنَ الْعِقَابِ وَالِدَالِ عَلَى تَحْصِيلِ الصَّوَابِ وَالْمُقَدَّمِ

اور ڈرانے والے ہیں عقاب سے اور رہنمائی کرنے والے ہیں صیح امور کے حاصل کرنے کی۔ اور سب سے مقدم ہیں

فِي الشَّفَاعَةِ وَالظَّاهِرِ فِي الزُّهْدِ وَالْقَنَاعَةِ قُدْوَةَ الْأَفَاضِلِ وَ

شفاعت میں (اول شافع ہیں، اور سب پر ظاہر ہیں زہد اور قناعت میں۔ مقتدا ہیں بزرگ ہستیوں کے اور

عِصْمَةَ الْأَرَامِلِ الْقُدْوَةَ الْمَيْمُونِ وَالْجَوْهَرَ الْمَكْنُونِ وَقَابِلِ

سامان حفاظت ہیں بیوگان کے لیے۔ مبارک قیادت والے ہیں۔ پوشیدہ اور مخفی گوہر مکتبہ ہیں۔ اور قبول فرمانے والے ہیں

الْمَعْدَرَةِ وَآبِي الْعَدْرَاءِ الْبَتُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

معذرت کے اور والد گرامی ہیں پاکدامن تہل حضرت زہرا کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَدْرُ الصُّدُورِ وَرِوَادُ الْبُدُورِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کرب صدروں کے لیے صدر ہیں اور سب ماہتا بول کے لیے ماہتاب ہیں

وَقُطْبِ أَقْلَانِ الْمَعَالِي وَمُنْحَةِ مَوْلَى الْمَوَالِي وَالْقَمَرِ الزَّاهِرِ وَ

اور رفتوں کے آسمانوں کے قطب ہیں اور خاص عطیہ ہیں سب آقاؤں کے آقا اللہ تعالیٰ کا۔ اور روشن چاند ہیں اور

الْكُوكَبِ النَّائِرِ وَلَبْنَةِ التَّهَامِ وَظَاهِرِ الصِّفَاتِ وَسَلِيمِ الصُّدُورِ

نورانی کوکب اور زہر رسالت کی تکمیل و تمہیم والی آخری اینٹ ہیں۔ ظاہر اور روشن صفات والے ہیں۔ اور کینہ و غیرہ سے محفوظ و سالم سینے اور

الذَّاتِ شَمْسِ الْمَعَارِفِ وَبَدْرِ الْعَوَارِفِ عَيْنِ الصِّفَاءِ وَمَصْدَرِ الْوَفَا

ذات والے ہیں سمارت کے شمس تاباں ہیں اور عطیات (خداوندی) کے ماہ تمام ہیں۔ سرچشمہ ہیں صفاء و اخلاص کے اور معدن و کان ہیں وفاء کے

وَسِرِّ النَّهْيِ وَرُوحِ الْبَهِيِّ وَعَلِيِّ الْوَسَائِلِ وَحَسَنِ الشَّمَائِلِ وَالْمُقَرَّبِ

اور راز ہیں عقول کے اور روح ہیں خوبی کی۔ بلند تر وسائل والے ہیں اور حسین نصلتوں والے ہیں خود بھی اللہ کے مقرب ہیں

الْمُقَرَّبِ وَبَهْجَةِ الْكُونَيْنِ وَخَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ وَالْمُخْلِصِ الْمُقَفَّاءِ

اور دوسروں کو قریب کرنے والے ہیں کونین کی رونق و بہار ہیں۔ (عرب و عجم کے) دونوں فریق کے بہتر اور سردار ہیں۔ سراسر اخلاص ہیں اور سب

بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْ فِي اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

انبیاء کے بعد بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے عہد کو بہت ہی پورا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مَحْتَدٍ الْهُدَى الْهُدَى وَوَقَّعَ اللَّهُ بِهِ الْعِبَادَ وَهُدَى وَالْجَزَاءِ

آل پر جو محبوب کہ سراسر تقدیریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعطا کیا گیا ہے۔ اور تو مقوی اللہ تعالیٰ نے بسبب ان کے اپنے بندوں کو اور ہدایت

الْأَوْفَى وَشَوَاهِدُ صَدَقِهِ لَا تَخْفَى وَالْوَلِيِّ الْمُحْسِنِ وَلِيَّ كُلِّ مُؤْمِنٍ

دی اور کامل تر جزا ہیں اور ان کی صداقت کے شواہد و آثار کسی پر مخفی نہیں ہیں۔ محسن و مددگار ہیں اور ہر مومن کے دوست اور یار ہیں

اللَّهُمَّ طَهِّرْ ظَاهِرِي وَبَاطِنِي عَنِ الرِّيَاءِ وَالتَّفَاقُ وَالشَّقَاقِ وَ

اے اللہ میرے ظاہر اور باطن کو پاک فرما ریا کاری، منافقت اور شریعت کی مخالفت سے اور

اجْعَلْ تَوَاضِعِي وَخُضُوعِي لِعِبَادِكَ حَيْثُ تَرْضَى مِنْ غَيْرِ

بنا تو میری تواضع اور خضوع و خشوع اپنے بندوں کے لیے ایسے مقام میں کہ اس سے تو راضی ہو جائے بغیر

طَمَعٍ وَلَا التَّفَاتِ إِلَى مَالٍ أَحَدٍ وَجَاهٍ شَخِصٍ فَيَسْبِقُ مِنِّي

طمع اور دھیان کے طرف کسی کے مال و جاہ کے۔ پس سبقت لے جائے میری طرف سے

تَعْظِيمٍ وَتَوَاضِعٍ إِلَيْهِ دُونَ مَنْ يَسْتَحِقُّ إِلَّا عَلَى طَرِيقِ إِثَارِ

اس کے لیے تعظیم اور تواضع بغیر اس کے کہ وہ مستحق ہو اس کا۔ مگر اوپر طریقے ترجیح دینے

الْأُخُوَّةِ الْمُحَصَّنَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى وَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِهِ اللَّهُمَّ

خالص برادرانہ بندیاں کے بغیر نظر کرنے کے طرف کسی وصف کے اس کے اوصاف سے۔ اے اللہ

أَنْتَ الْعَلِيمُ بِالْعُلُومِ الْكَلِيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ الْمُطَهَّرَةِ عَنِ الْكُذِبِ

تو ہی جاننے والا ہے علوم کلیہ اور جزئیہ کا جو نکل طور پر پاک ہیں جھوٹ

وَالْخَطَاءِ وَالشُّكُوكِ وَالْأَوْهَامِ فَأَثَرُ طَهَارَةِ عَلَيْهِ وَصِدْقِهِ فِي

اور خطا سے اور شکوک و اوہام سے۔ پس موثر بنا اپنے علم اور سچائی کی طہارت کو

عَلَمِي وَقَلْبِي فَلَا يَمُرُّ وَهُمْ مَنِّي وَلَا خِيَالِي فِي أَيِّ حِسِّ إِلَّا وَهُوَ

میرے علم اور قلب میں پس نہ گزر ہو میرے وہم اور خیال کا کسی بھی حاسہ میں مگر یہ کہ وہ

ظَاهِرٌ عَنِ الْخِلَافِ وَالْكَذِبِ وَالْمَيْنِ وَقَلْبِي إِنْ اجْتَهَدَا

پاک ہو خلاف واقع اور کذب و جھوٹ ہونے سے۔ اور میرا دل اگر اجتہاد کرے

بِاسْتِبْصَارِكَ فِي الْأَحْكَامِ الدِّينِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ أَوْ الْإِعْتِقَادِيَّةِ فَيَسِّرْهُ

مجھ سے بصیرت طلب کرنے کے ذریعے احکام دینیہ میں جو عمل سے متعلق ہوں یا اعتقاد سے تو اس کو سہولت ہم پہنچانا۔

وَأْمُرْهُ فِيهَا إِلَى مَا هُوَ حَقٌّ عِنْدَكَ مَحْفُوظَةٌ عَنْ خِلَافِ إِرَادَتِكَ

اور اس کو اشارہ فرماتا ان احکام میں سے اس حکم کی طرف جو تیرے نزدیک حق ہو اور محفوظ ہو تیرے ارادہ اور تیرے

وَعِلْمِكَ وَطَهَّرْ قَلْبِي مِنْ خَطَرَاتِ فَاحِشَةٍ مِّنْ أَبِي فُحْشٍ كَانَ

علم کی مخالفت سے۔ اور پاک فرما میرے دل کو فحش خیالات سے ان میں جس قسم کا بھی فحش ہو

فَاجْعَلْهُ نَازِرًا بَيْنَ يَدَيْكَ فَأَيْمَانِي مُشَاهِدَتِكَ مُصَلِّيًّا وَكُفْيًّا

پس کر اسے اپنی طرف دیکھنے والا اور تیرے اپنے مشاہدہ میں قائم رہنے والا، نماز پڑھنے اور تیغ کئے والا

مَعَ مَلَكُوتِكَ مِنْ حَيْثُ الْعَادَةُ وَالطَّبِيعَةُ لَا عَلَى وَجْهِ الْخُطْفِ وَ

ساتھ تیرے عالم بالا کے (مکینوں کے) از روئے عادت اور طبیعت کے نہ محض ایک لینے اور لھاتی جذب کے

اللَّهُمَّ يَا إِلَهَ الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُؤَكَّلَةِ بِهَا أَحْفَظْنِي عَنِ

طور پر (متوجہ کرنے کی وجہ سے) اے خداوند چاروں طبائع کے اور ان پر مومل ملائکہ کے محفوظ فرما مجھے

الْأَبْخَرَةَ الرَّدِّيَّةِ الْمُتَكُونَةَ مِنْ عَصَاةِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ

ان ردی بخارات سے جو وجود میں آنے والے ہیں ان طبائع اربعہ کے پینہ اور نفلہ سے چاروں موموں میں

أَنْ تُسْرِيَ فِي أَوْفِي عَضْوٍ مِّنْ أَعْضَائِي مُضِرَّةً لِّغَدَائِي وَشَرَابِي

کہ وہ جاری کریں مجھ میں یا میرے اعضاء میں سے کسی عضو میں ضرور نقصان کو میری غذا اور مشروبات کے لیے

وَعَنْ إِفْرَاطِهَا وَأَعْطِنِي بِدَنَائِلِهِ فَالْحَاوِدُنَا فِي اللَّهِ صَالِحًا

اور ان انجھ کے حد سے متجاوز ہونے سے۔ اور عطا فرما مجھے ایسا بدن جو فلاح پانے والا ہے اللہ کے لیے۔ اور نیکو کار ہے ذات

وَلَا بَادِنَ لِّغَيْرِ اللَّهِ طَالِحًا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُبْدِعُ جَلَائِلَ النِّعَمِ

باری میں نہ فریب ہونے والا، بسبب غیر اللہ کے فساد برپا کرنے والا۔ اے اللہ تو ہی از سر نو پیدا کرنے والا ہے جلیل اور عظیم

وَعَظَمَاتِهَا وَأَنْتَ الْمُنْشِئُ دَقَائِقَ التُّوبِ وَمَرَقَاتِهَا وَأَنْتَ

نعمتوں کو۔ اور تو ہی پیدا کرنے والا ہے چھوٹی اور بھلی آفات کو اور تو ہی

الْمَسْبِسِ الْمَسْبِلِ نِعْمَكَ عَلَى كُلِّ الْخَلْقِ وَأَنْتَ الْمَتَصَرِّفُ فِيمَا أَحْكَمْتَ

پھیلانے اور اتارنے والا ہے اپنی نعمتیں ساری مخلوق پر اور تو ہی تصرف فرماتے والا ہے ان میں جنہیں حکم اور مضبوط فرمایا

فِنِعْمَ الْمَوْجُودُ وَنِعْمَ الْحَكْمُ تَسْتُرُ الْعُيُوبَ وَتَكْشِفُ الْكُرُوبَ

پس اچھا موجود اور اچھا حکم کرنے والا ہے تو جو پردہ ڈالتا ہے عیبوں پر اور دُور کرتا ہے تنگیوں کو۔

وَتُظْهِرُ مَنْ بَيْنَهُمَا الشَّرُوقَ وَالْغُرُوبَ وَأَنْتَ الْغَافِرُ الْغَفَّارُ

اور ظاہر فرماتا ہے ان دونوں کے درمیان سے روشنی (اور کرن اُتھیلوں کی) اور تاریکی (محرومی کی) اور تو ہی بخشتے والا ہے

الْغَفُورُ لِمَا أَبْدَيْتَهُ يَا مَنْ قَهْرَكَ عَلَى أَعْدَائِكَ وَأَنْتَ الْعَالِمُ

بہت بخشتے والا کثیر التعداد کو بخشتے والا ہے انہیں جن کو ظاہر فرمایا ہے تو نے۔ اے وہ ذات کہ اس کا تیرا اس کے اعدا پر ہے اور تو

الْعَلِيمُ بِمَا أَكْنَتَهُ فِي ظَوَاهِرِ لُطْفِكَ وَبِمَا أَخْفَيْتَهُ فِي ضَمَائِرِ

ہی عالم و علیم ہے ان اسرار کا جنہیں پوشیدہ کیا ہے اپنے لطف و کرم کے ظہوروں میں۔ اور ان خفیات کا جنہیں تو نے چھپا یا ہے اپنے

صُدُورِهَا أَهْلُ حُجَّتِكَ أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الْقَدِيمَةِ وَبِقُوَّتِكَ

اہل حجت و برہان کے سینوں کے اسرار اور پوشیدہ خیالات میں میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری قدرت قدیمہ اور قوت تمام

الْقَوِيْمَةِ أَنْ تَرْتُقِنِي بِرُدِّ عَفْوِكَ يَوْمَ الْمَحْشَرِ وَحَلَاوَةِ نِعْمَتِكَ

اور پانچیدار کے وسیلہ سے کہ تو مجھے عطا کرے اپنے عفو و درگزر کی ٹھنڈک محشر کے دن اور اپنی مغفرت کی شیرینی

يَوْمَ ظَهَرُوا إِلَهُهُمْ وَالْحُزْنَ وَالسُّرُورَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى دَوَامِ

اس دن میں جو تفکر و ملال اور فرحت و سرور کے ظہور کا دن ہے۔ اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ بقیات اور

الْبَلِيَّاتِ لِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ التَّوَرُّوْشَانِي

آزمائشوں کے دوام پر واسطے منکشف ہونے تیرے نور کے۔ بے شک تو ہی اللہ ہے اور سرسبز رہے اور شفا دینے والا ہے

الصُّدُورِ يَا غَفَّارُ اللَّهُمَّ ارْتُقِنِي مِنَ الْعِلْمِ أَنْفَعَهُ وَمِنَ

سینوں اور دلوں کی بیماریوں کو اے بہت بخشتے والے۔ اے اللہ عطا فرما مجھے علم سے جو بہت نافع ہو اور

الْعَمَلِ أَرْفَعَهُ وَمِنَ الرِّزْقِ أَوْسَعَهُ وَمِنَ الْقَوْلِ أَصْدَقَهُ

عمل سے جو بہت بلند مرتبت ہو اور رزق سے جو بہت وسیع ہو۔ اور قول سے جو بہت سچا ہو

وَمِنَ الْيَقِينِ أَوْفَقَهُ وَمِنَ الْخَيْرِ الْكَمَلَهُ وَمِنَ الصَّبْرِ الْجَمَلَهُ وَمِنَ

اور یقین سے جو بہت موافق ہو واقعہ اور نفس الامر کے اور خیر سے جو بہت کامل ہو اور صبر سے جو بہت جمیل ہو اور

الْحُكْمِ أَعْدَلَهُ وَمِنَ التَّقْوَىٰ أَدْوَمَهُ وَمِنَ الْهُدَىٰ أَعْظَمَهُ وَمِنَ الْعَيْشِ

حکم سے جو بہت ہی عدل پر مبنی ہو۔ اور تقویٰ سے جو دائم و قائم ہو۔ اور ہدایت سے جو عظیم تر ہو۔ اور گزران سے جو بہت

النَّعْمَةِ وَمِنَ النَّظْرِ أَحْرَمَهُ وَمِنَ الرَّحْمَةِ أَكْرَمَهَا وَمِنَ النِّعْمَةِ

ہی خوشحالی پر مشتمل ہو۔ اور نظر سے جو بہت ہی حرمت والی ہو اور رحمت سے جو بہت ہی کرامت والی ہو اور نعمتوں سے

أَشْمَلَهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ أَجْمَلَهَا وَمِنَ الْعِبَادَةِ أَفْضَلَهَا اللَّهُمَّ قَنَا

جو بہت ہی محیط اور شامل ہوں۔ اور عافیت سے جو بہت ہی خوبتر ہو اور عبادت سے جو سب سے برتر ہو۔ اے اللہ بجا ہمیں

شَرَّ الْمَضْجَعِ وَيَلْغِنَا حُسْنَ الْمَرْتَجِعِ وَأَمْتًا عِنْدَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَ

خواب گاہوں کے شر سے اور پہنچا ہمیں اچھی بازگشت کی جگہ تک اور امن عطا فرما نا بہت بڑی گھبراہٹ (قیامت) کے وقت اور

بَيْتُنَا عِنْدَ حَوْلِ الْمَطْلِعِ وَلَا تَفْضِحْنَا عَلَىٰ رُءُوسِ الْأَشْهَادِ فِي

ثابت رکھ ہمیں وقت ہول و وحشت مطلع سے اور نہ رسوا کرنا ہمیں گواہوں کے رو برو اس

ذَلِكَ الْجَمْعِ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ سَبَقْنَا إِلَيْكَ الذُّنُوبَ وَمَا قَدَّ مَنَا وَمَا

بھیڑ اور آڑ دھام میں۔ اے اللہ بیشک ہم نے تیری طرف صرف گناہ ہی بھیجے ہیں اور ہم نے جو پہلے کئے

أَخْرَنَا فِي اللُّوْحِ الْمَكْتُوبِ فَهِيَ تَنْتَظِرُنَا وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ الَّتِي

اور جو بعد میں کئے لوح مرقوم میں ہیں۔ پس وہ گناہ ہماری تاک میں ہیں اور ہم نظریں جاتے ہوئے ہیں تیری رحمت پر جو

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَعَمَّتْ كُلَّ حَيْثُ اللَّهُمَّ حَقِّقْ رَجَاءَ نَابِمَا نَنْتَظِرُهُ

دیسج ہے ہر شئی کو اور محیط ہے ہر جگہ اور اے اللہ ثابت اور موجود فرما ہماری امید و رجاء کو بسبب اس کے رحمت جس پر ہم

مِنَ رَحْمَتِكَ وَأَمْتًا مِمَّا نَحْذَرُهُ وَلَا تَوَاخِذْنَا بِمَا قَدَّ مَنَا وَاعْفِرْ لَنَا

نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور بے خوف کر دے ہیں اس سے جس سے ہم اندیشہ تاک ہیں اور نہ مٹاؤ افندہ فرما ہم سے بسبب اس کے جو ہم نے اگلے بھیجا اور

مَا اجْتَرْنَا اللَّهُمَّ هَبْ لَنَا مِنْ حُسْنِ الْيَقِينِ مَا تَسَهَّلُ بِهِ عَلَيْنَا

بیش دے ہمارے لیے جن جرائم کا ہم نے ارتکاب کیا۔ اے اللہ عطا فرما ہمیں حسن یقین سے اتنا قدر کہ سہل فرما دے بسبب اس کے ہم پر

عہدین ملائکہ موت کے دیکھنے یا قبر کی ہولناکیاں دیکھنے پر قیامت کے دن ہم کو دیکھنے پر جب انبیاء علیہم السلام بھی قبروں سے نیچے گر جائیں گے اور نفسی نفسی پکاریں گے۔

إِنْتَظِرِ الْمُنِيَّةَ وَامْرُؤًا مِّنْ جَمِيلِ الظَّنِّ مَا نَتَيْقِنُ بِهِ يُلَوِّغُ

انتظار (حصول) آرزو کا۔ اور عطا فرما ہمیں حسن ظن سے اتنا قدر کر یقین کریں بسبب اس کے آرزو تک رسائی

الْمُنِيَّةِ وَقَنَا ظَلَمَ الظَّالِمِينَ وَحَقَّدَ الحَاقِدِينَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ

کا۔ اور بچا ہمیں ظالموں کے ظلم سے اور کینہ وروں گراہوں کے کینہ سے۔ اے اللہ

أَعْطِنَا ثَوَابَ الْأَوَابِينَ وَاجْزِنَا جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ وَاحْشِرْنَا مَعَ

ہمیں عطا فرما ثواب (اپنی طرف) رجوع کرنے والوں کا۔ اور جزا دے ہمیں نیکو کاروں والی جزا اور ہمارا حشر فرما ساتھ

الْمُتَّقِينَ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ لَا

متقیوں کے۔ اور داخل فرما ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالحین بندوں میں۔ اے اللہ

تُضِلَّنَا فِي حَالٍ مِّنْ أَحْوَالِنَا وَاسْتَعْمَلْنَا فِي مَا تَرْضَى بِهِ عَنَّا وَ

گمراہ فرما ہمیں کسی بھی حال میں ہمارے احوال سے۔ اور ہمیں عامل بنا ان امور کا جن پر عمل سے تو راضی ہو جائے ہم

اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اللَّهُمَّ

اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے دوست اور یار۔ اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے معاون و مددگار۔ اے اللہ

احْفَظْ عَلَيْنَا عِلْمَنَا وَعَمَلَنَا اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْكَ وَ

محفوظ فرما ہم پر ہمارے علم کو اور ہمارے عمل کو۔ اے اللہ نصیب فرما ہمیں حسن توجہ طرف اپنے اور

الْإصْغَاءِ إِلَيْكَ وَالْفَهْمَ عَنْكَ وَالْبَصِيرَةَ فِي أَمْرِكَ وَالتَّفَازِي

کان لگانا طرف تیرے (فرمان سننے کے لیے) اور سمجھ بوجھ اپنی طرف سے۔ اور بصیرت اپنے امر میں اور جاری رہنا اپنی

طَاعَتِكَ وَالْمُوَاطَبَةَ عَلَى إِرَادَتِكَ وَالْمُبَادَرَةَ إِلَى خِدْمَتِكَ وَ

طاعت میں اور ہمیشگی و دوام اپنے ارادہ پر اور سرعت و عجلت اپنی خدمت و طاعت کے لیے اور

حُسْنَ الْأَدَبِ فِي مُعَامَلَتِكَ وَالتَّسْلِيمَ إِلَيْكَ وَالرِّضَاءَ بِفَضْلِكَ

اچھا ادب و انداز اپنے معاملہ میں۔ اور سونپنا (تمام امور کا) طرف تیری۔ اور رضامندی ساتھ اپنے فضل و احسان کے

إِلَهِي كَيْفَ يَنَاجِيكَ فِي الصَّلَوَاتِ مَنْ يُعْصِيكَ فِي الْخَلَوَاتِ

اے میرے الہی کیسے مناجات کر سکتا ہے تیرے ساتھ نمازوں میں جو نافرمان برداری کرتا ہے تیری تنہائیوں میں

لَوْلَا حِلْمُكَ أَمْ كَيْفَ يَدْعُوكَ فِي الْحَاجَاتِ مَنْ يَنْسَاكَ عِنْدَ

اگر نہ ہوتا علم و تحمل تیرا۔ یا کس طرح پکار سکتا تجھے حاجات میں جو بھول جاتا ہے تجھے وقت

الشَّهَوَاتِ لَوْلَا فَضْلُكَ أَمْ كَيْفَ تَنَامُ الْعُيُونُ وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ

شہوات کے اگر نہ ہوتا فضل تیرا۔ یا کس طرح سوتیں آنکھیں (سوتے والوں کی) حالانکہ ہر رات میں

تَقُولُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيهِ

فرماتا ہے تو ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا تاکہ عطا کروں اسے اس

سُؤْلَةٍ أَمْ كَيْفَ يَنْقَطِعُ عَنْكَ مَنْ لَمْ تَقْطَعْ عَنْهُ هَذِهِ الْوَسَائِلُ

کا سوال۔ یا کیسے منقطع اور بے تعلق ہو سکتا ہے تجھ سے وہ شخص کہ نہیں قطع کئے تو نے اس سے یہ وسائل

أَمْ كَيْفَ يَبَاءُ الْبَاقِي بِالْفَاقِي وَالنَّهَارُ بِاللَّيْلِ لِيَذُنِي اللَّهُ

یا کیسے بچا جاسکتا ہے باقی رہنے والے کو ساتھ فنا پذیر کے۔ اور یہ تو صرف اور صرف چند قبیل دن ہیں، لذت عطا فرما مجھے اے اللہ

بِتِلَاوَةِ أَسْمَائِكَ يَا رَبِّ تَدَلَّتْ بَيْنَ يَدَيْكَ تَدَلُّ الْعَبِيدِ

ساتھ تلاوت کرنے تیرے اسماء کے۔ اے اللہ میں عاجز و بے بس ہو چکا ہوں تیرے آگے مانند عاجز و بے بس ہونے غلاموں کے

الْمُفْتَقِرِينَ بِالْحَاجَاتِ إِلَيْكَ وَتَدَلُّ ذَاتُ بِأَسْمَائِكَ تَدَلُّ ذَا إِلَيْكَ

جو محتاج و فقیر ہیں ساتھ حاجات کے طرف تیرے اور میں لذت اندوز ہوا ہوں تیرے اسماء کی تلاوت کے ساتھ مثل لذت اندوز ہوئیے تیری نعمتوں

فِي سِرِّي وَجَهْرِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کے ساتھ اپنے باطن میں اور ظاہر میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِ الرَّبِّ وَمُطَهِّرِ الْقَلْبِ كَهْفِ الْمَنِيِّ وَسَنَدِ

کی آل اطہار پر جو کہ اللہ کے محبوب ہیں۔ پاکیزہ قلب والے ہیں۔ مضبوط و محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ بند مرتبت سہارا

الرَّفِيعِ مَوْضِعِ سِرِّ جِبْرِائِيلَ وَأَفْرَغَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِلْيَةَ الصَّبْرِ

ہیں محل و مقام ہیں جسیر بجلی اسرار کے۔ اور انڈیلی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر صبر جمیل کی زینت

الْجَمِيلِ وَثَمَرَةَ الْإِيمَانِ وَخَزَانَةَ الْإِمْتِنَانِ وَنَتِيجَةَ الْيَقِينِ

و آرائش۔ اور نتیجہ و اثر ایمان کا۔ اور خزانہ احسان کا۔ اور نتیجہ یقین کا۔

وَشَفِيعِ الْمُدْنِبِينَ وَقُطْبِ الْوَلَايَةِ وَمِصْبَاحِ الْهُدَايَةِ وَجَوْهَرِ

اور جو کہ شفیع ماصیباں ہیں اور قطب ولایت ہیں اور ہدایت کے روشن چراغ ہیں اور نفیس و

التَّفِيسَةِ وَجَعَلَ اللَّهُ جِبْرَائِيلَ جَلِيْسَةً وَأَيْسَةَ وَالذَّلَالََةَ

عمدہ جوہر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کا ہم نشین بنا دیا ہے۔ اور موسیٰ و عنقراب آپ کفایت کرتے

الْكَافِيَةَ وَالْعُرَّةَ السَّامِيَةَ الشَّافِيَةَ وَالتَّسْمَةَ الْكَرِيْمَةَ وَأَظْهَرَهُ

والی ہدایت ہیں۔ اور بلند مرتبت اور شفا بخش روشنی و نورانی اور پاکیزہ نفس ہیں اللہ تعالیٰ نے

اللَّهُ تَعْظِيْمَهُ وَتَكْرِيْمَهُ وَصَادِقِ الْوَعْدِ وَطَلْعَةِ السُّعْدِ وَفِكَالِكِ

ظاہر فرمایا جن کی تعظیم و تکریم کو۔ اور آپ سچے وعدے والے ہیں اور مبارک ظہور والے اور سراپا ربانی و خدائی

الْأَسِيرِ وَنِعْمَ الْجَارُ وَنِعْمَ الْمَجِيرُ وَحَبْلِ الْوَثِيقِ وَنَجَاةِ الْغَرِيْقِ

ہیں اسیرانِ نفس و شیطان کی۔ بڑے اچھے پڑوسی ہیں اور بہت اچھے پناہ دینے والے مضبوط اور قابلِ وثوق رسی ہیں (اللہ کی) اور غرق

طَيْبِ الذُّنُوبِ وَكَشَافِ الْكُرُوبِ سِرِّمَا حِمَّةٍ أَدَمَ وَنُكْتَةٍ

ہونے والے کا سبب نجات۔ اور گناہوں کے دور کرنے والے طیب۔ شہداء کو دور کرنے والے حضرت آدم پر کی جانے والی رحمت کا راز پنهانی۔ موجود

أَكُوَانِ الْعَوَالِمِ وَقُطْبِ دَائِرَةِ السَّعَادَاتِ وَرَأْسِ الْمُؤَقِنِينَ

عوالم کا مرکزی نکتہ (اور سرمنانی) اور بنیادی مقصود۔ یقینوں کے دائرہ کے قطب اور درمیانی نقطہ اور سردارِ اربابِ یقین کے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ تُبَلِّغَ النَّفْسَ الدَّلِيلَةَ مَبْلَغَ الشَّرِيفَةِ

اے اللہ تو ہی قادر ہے اس پر کہ پہنچائے ذلیل نفس کو شریف کے مقام پر

وَالشَّرِيفَةَ مَبْلَغَ الدَّلِيلَةِ بِالْأَسْبَابِ النَّاشِئَةِ عِنْدَ الْمَبْلَغِ وَقَدْ

اور شریف نفس کو ذلیل کے مقام پر بسبب ان اسباب کے جو پیدا ہونے والے ہیں پہنچائے جانے والے کے ہاں۔ اور

مَسَحَتْ قَوْمَ مُوسَى وَبَدَّلْتَ نَفُوسَهُمْ إِلَى النَّفُوسِ الَّتِي هِيَ

تو نے مسح فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور تبدیل کیا ان کے نفوس کو طرف ایسے نفوس کے جو

أَرْدَلُ عِنْدَ الْعُلُوبِيَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ فَالْقُلُوبُ وَالنَّفُوسُ بَيْنَ

رذیل تر ہیں نزدیک علوی اور سفلی نفوس و ارواح کے۔ پس تمام قلوب اور نفوس تیری



صَفِيِّكَ الْجَلَالِ وَالْجَبَالِ فَتَرَدُّ دُيُنَ هَوْلَاءَ وَبَيْنَ هَوْلَاءَ

جلال و جمال والی دونوں صفتوں کے درمیان ہیں پس مترادف رہتے ہیں درمیان جلالیوں اور جمالیوں کے

فَقَلْبِي سَاكِنٌ كُلُّ وَلِسَانِي عَجْمٌ عَنِ الْإِعْتِرَاضَاتِ وَالْإِرَادَاتِ

پس میرا دل خاموش ہے اور کمزور اور میری زبان گنگ ہے اعتراضات سے اور ارادوں سے

أَنْتَ كَرِيمٌ مَلِكٌ جَوَادٌ كَبِيرٌ تُعْطِي مَقْصُودَ مَنْ يَقْصِدُ إِلَى مَطْلُوبَاتِ

تو ہی کریم۔ بادشاہ۔ صاحب جود اور مہمن ہے عطا کرتا ہے مقاصد ہر اس شخص کے جو قصد کرتا ہے طرے مان مطلوبات

وَهُمْ وَمَعَالِيَاتِ وَكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِلَهِيَّةَ وَالرُّبُوبِيَّةَ الْمَطْلُوقَةَ

اور بلند افکار کے اور عطا کرتا ہے ہر شئی سوائے الہیت اور ربوبیت مطلقہ کے

الْمُسْتَقَلَّةَ الْمُخْتَصَّةَ بِكَ وَكَيْسَ أَحَدٌ سِوَاكَ بِقَمِينٍ لِلْإِلَهِيَّةِ

اور مستقلہ کے جو قسم ہے تیری ذات کے ساتھ اور نہیں کوئی ایک سوائے تیرے خمدار الہیت

وَالرُّبُوبِيَّةِ أَنْتَ الْأَعْلَى بِلَا جِهَةٍ أَنْتَ الذَّاتُ بِلَا مِثَالٍ وَالْأَمْثَالُ

اور ربوبیت کا۔ تو ہی بلند ترین ہے بغیر جہت کے۔ اور تو ہی وہ ذات ہے جو بے مثال ہے اور امثال

الصُّورِيَّةِ الْمُقَيَّدَةِ بِمَقُولَةٍ مِّنَ الْمَقُولَاتِ مُذَلَّلَةٌ مَّخْلُوقَةٌ

صوریہ جو مقید ہیں ساتھ کسی مقولہ کے مقولات (عشرہ) سے وہ سب تیرے سامنے عاجز و بے بس ہیں اور تیری ہی پیدا کردہ ہیں

فَعَرَفْنِي وَبَصَّرْنِي كُلِّ مِثَالٍ وَصُورَةٍ حَتَّى أَعَانِنَ الْأَسْرَارَ وَ

پس مجھے عرفان اور بصیرت عطا فرما ہر مثال اور ہر صورت کی حتیٰ کہ میں آنکھوں سے دیکھوں ان اسرار اور

الْعَجَائِبِ الَّتِي صَارَتْ الذَّوَاتُ وَالْأَمْثَالُ مَوْصُوفَةٌ بِهَا وَلَا

عجائبات کو کہ ذاتیں اور امثال ہو جی ہیں۔ موصوفہ و متصف ساتھ ان کے اور نہ

تُعَرِّفْنِي مِنْ خَلْقِكَ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأُمُورِ

پہچان کرانجھے اپنی مخلوق سے مگر اس قدر کہ محتاج ہے طرف اس معرفت کے امور

الْبَشَرِيَّةِ حَتَّى يَكُونَ مَعْرِفَتِي لَكَ خَالِصَةً عِنْدَكَ فَتُعْطِنِي لَنَا

بشریہ میں حتیٰ کہ ہر جائے معرفت میری جو متعلق ہے تیری ذات سے خالص نزدیک تیرے۔ پس عطا کرے تو ہیں



يَوْمَ الْجَزَاءِ بِهَجَةٍ وَجِيهَةٍ وَالْقُرْبِ عِنْدَ رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

یوم الجزاء میں روتی و آبرو مندی - اور قرب ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا

وَسَلَّمَ مَجْعُولَةً نَفْسِي مِنَ السَّابِقِينَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ آمِينَ اللَّهُمَّ

در آغائیکہ کیا ہوا ہو نفس میرا سابقین سے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے قرب سے بہرہ ور کئے ہوئے ہیں آمین لے اللہ

إِنْ صَدَر مَبِيٌّ فَعَلٌّ فَأَصْدِرُهُ عَدْلًا وَصَلَاحًا نَاشِيًا مِنْ أَيْ جَارِحَةٍ

اگر سرزد ہو مجھ سے کوئی فعل تو اس کو سرزد فرما بطور عدل کے اور بہتری و بھلائی کے خواہ وہ میرے کسی بھی عضو سے

مَنْ جَوَارِحِي أَوْ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ قُوَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ فَاسْكِنْ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ مِمَّا

پیدا ہونے والا ہو یا انسانی قوتوں میں سے جس قوت سے - پس ساکن فرما ہر اس شئی کو جو املاوی ہو

لِمَادَّةٍ جَوْرٍ وَظَلْمٍ رَاجِعٍ إِلَى غَيْرِ رِضَاكَ فَخَلِّصْ فِعْلِي وَقَوْلِي وَوَهْبِي

جو اور ظلم کے مادہ کی، جس کا رجوع تیری رضا کے سوا کی طرف ہو۔ پس خالص کر میرے فعل و قول اور وہم

وخيالي ومن كل دناءة ورد آفة كائنت في ظاهري جسدي وبداني وباطني و

وخیال کو ہر طرح کی کینٹی اور گھٹیا پن سے جو ہو میرے جسم اور بدن کے ظاہر میں یا میرے باطن اور

قلبي وقواي اللهم لولا هدايتك ورحمتك وتعليمك لكنت

قلب اور میرے قوی میں۔ لے اللہ اگر نہ ہوتی تیری ہدایت و رحمت اور تعلیم تو میں

أدون من الرماد والجماد بل أرذل من الدودة المتكونة من البخار

کمتر ہو جاتا راکھ سے اور جمادات سے بلکہ زیادہ ذلیل اس کیڑے سے جو پیدا ہونے والے بخارات سے

ولولا تعليمك لكنت أضل من البهائم والأشجار يا كريم العفو

اور اگر نہ ہوتی تیری طرف سے تعلیم و رہنمائی تو البتہ ہوجاتا میں زیادہ گمراہ چار پائیوں سے اور پرندوں سے۔ لے بزرگ درگزر والے

ذا العدل أنت الذي ملئت كل شيء عدله كرمي بالعفوان

صاحب عدل تو ہی ہے جس نے بھر دیا ہے ہر شئی کو اپنے عدل سے مجھے عزت بخش ساتھ درگزر کے اگر

صدر مبي ذنب صغير أو كبير أنت العفو واجعلني متصفا بذلك

سرزد ہو مجھ سے کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا تو ہی عفو و درگزر فرمانے والا ہے۔ اور کر تو مجھے موصوفت ساتھ اس کے



فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
مع تمام مومنین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَفَعَ اللَّهُ بِهِ الضَّرَّاءَ وَالْبُؤْسَ اللَّهُمَّ
کی آل پر کہ جس محبوب کے صدقے میں دور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نقصانات اور شدتوں کو۔ اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُؤْسِ وَالتَّبَاؤُسِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بیشک میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کی شدت و سختی سے اور اس کی بناوٹ اور تکلف سے۔ اے اللہ بیشک میں پناہ طلب کرتا

بِكَ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تَضِلَّنِي وَأَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي
ہوں تیری عزت کی نہیں کوئی معبود برحق مگر تو اس سے کہ گمراہ کرے تو مجھے جبکہ تو ہی زندہ ہے جس پر

لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ
کبھی مرت نہیں آئے گی۔ اور سبھی جتن و انسان وفات پائیں گے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں

جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ
بلاؤں کی مشقت سے اور بدبختی کے پالینے سے اور بری قضا سے اور دشمنوں کی نموشی سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْلَمْ وَ
اے اللہ بیشک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شئی کے شر سے جو میرے علم میں آئی اور اس کے شر سے بھی جو میں نے نہیں جانی

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
اور میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری ہر اس شئی سے جو تیرے علم میں ہے۔ اے اللہ بیشک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس عمل کے شر سے

عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
جو میں نے کیا اور اس کے شر سے جو میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ بیشک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں

زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ
تیری نعمتوں کے زائل ہو جانے سے اور تیری عافیت کے برگشتہ ہو جانے سے اور اچانک تیرے انتقام کا نشانہ بننے سے اور تیری تمام ناراضگیوں سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ



اَلْبَاهِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

مظاہر اور روشن نور ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِیْ اَخَجَلْتُ طَلْعَتَهُ النَّجُومَ اِلَّا زَاهِرَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ

آل پر کہ جس محبوب کی طلعت زیا نے شرمندہ کر دیا ہے چمکتے ستاروں کو۔ لے اللہ بیشک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری

بِكَ مِنْ شَرِّ سَبْعِیْ وَمِنْ شَرِّ بَصْرِیْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِیْ وَمِنْ شَرِّ

اپنے کانوں کے شر سے اور نگاہ کے شر سے۔ اور اپنی زبان کے شر سے اور اپنے قلب

قَلْبِیْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيْبِیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُ

کے شر سے اور مادہ منویہ کے شر سے۔ لے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں وہ کمرے سے۔ اور پناہ مانگتا ہوں

بِكَ مِنَ التَّرْدِیْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَدْمِ وَاَعُوْذُ

باندی سے گر کر ہلاک ہونے سے۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں غرق ہونے، جل مرنے اور وہ کمرے سے اور پناہ طلب کرتا ہوں

بِكَ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِی الشَّیْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ

تیری اس سے کہ شیطان مجھے دیوانہ کرے موت کے قریب اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ

اَمْوَتَ فِیْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمْوَتَ لَدِيْغًا

مروں میں تیری راہ میں پیٹھ پھیرے ہوئے اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری کہ مروں سانپ سے ٹوسا ہوا۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَاَعُوْذُ

لے اللہ بیشک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری بُرے اخلاق و اعمال سے اور بری

اَلْاَهْوَاءِ وَالْاَدْوَاءِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِیُّكَ

خواہشات اور بیماریوں سے۔ اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری ہر اس شے کے شر سے کہ پناہ مانگی ہے اس سے تیرے نبی

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو ہی مدد و توفیق طلب کیا ہوا ہے۔ اور تجھی پر

التُّكْلَانُ وَاَحْوَالُ وَاَقْوَةٌ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ

توکل ہے۔ اور نہیں پھرنا (معصیت سے) اور نہ قوت (طاعت کی) مگر ساتھ توفیق اللہ کے جو بلند شان عظیم ہے۔ لے اللہ



إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَارِ السُّوِّءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ فَإِنَّ جَارَ

بیشک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری بڑے پڑوسی سے ہمیشہ کے دارقیام میں کیونکہ جنگل و بیابان کے

الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ وَمِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَنْسُ الضَّجِيعُ وَمِنَ

پڑوسی (کا پڑوس جلدی) بدل جاتا ہے۔ اور بھوک سے (پناہ طلب کرتا ہوں) کیونکہ وہ برا ساتھی ہے اور خیانت

الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَنْسُ الْبِطَانَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ

سے کیونکہ وہ بری پوشیدہ نعلت ہے۔ اے اللہ بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری ایسے علم سے

لَا يَنْفَعُ نَدْرَةَ - اور ایسے دل سے جو خشنوع نہ کرے۔ اور ایسی دُعا سے جو قبول نہ کی جائے اور ایسے نفس سے جو سیرتِ ہمواران

هُوَ لِأَرْبَعَةِ الْأَرْبَعَةِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ تَرْجِعَ عَلَيَّ أَعْقَابِنَا أَوْ تَفْتِنَ

چاروں سے بحیثیتِ مجموعی بھی۔ اے اللہ بے شک ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم لوہیں ایڑیوں کے بل یا ہم فتنہ میں ڈالے جائیں

عَنْ دِينِنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوِّءِ وَمِنْ لَيْلَةِ

اپنے دین سے۔ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں بڑے دن سے اور بڑی

السُّوِّءِ وَمِنْ وَقْتِ السُّوِّءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوِّءِ وَمِنْ صَاحِبِ

رات سے۔ بڑے وقت۔ بڑی ساعت۔ اور بڑے ساتھی

السُّوِّءِ وَمِنْ جَارِ السُّوِّءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سے۔ اور بڑے پڑوسی سے مستقل قیامگاہ میں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ اللَّهِ وَأَمِينِهِ عَلَى

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سراپا راز ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے امین

سِرِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اسرار بھی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي تَعَبَّدَتْ لَهُ الْجِنَّ وَالنُّفُوسُ وَأَنْقَادَتْ لِأَمْرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

کہ جس آقا کی غلامی اور تابعداری اختیار کی جنوں نے اور مطیع ہو گئے ان کے امر کے۔ اے اللہ بیشک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری



الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءِ

مخالفت شرع سے اور منافقت و بد اخلاقی سے اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری اس سختی اور شدت سے

مُضَرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا

جو مضر رساں ہے اور فتنہ سے جو گمراہ کن ہے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر چیز کے شر سے جلدی پیش آئیوں ہو یا

عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا

دیر سے جو ان میں سے مجھے معلوم ہے اور جو معلوم نہیں ہے اور میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری آتش دوزخ سے اور اس سے جو قریب کرے

مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَرَّائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ

اس کے قول ہو یا عمل - اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر قسم کے شرور سے جن کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں

مِنْ فِجَاءَةِ الشَّرِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْأَعْيُنِ السَّيْلِ

اپناک شر سے دوچار ہونے سے۔ اے اللہ بیشک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں دو اندھوں سے طغیانی سے

وَالْبَعِيرِ الصُّوْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خَيْلٍ مَّا كَرَّ عَيْنَاهُ

اور حملہ آور اونٹ سے۔ اے اللہ بیشک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیری مکار دوست سے جس کی آنکھیں

تَرِيَانِي وَقَلْبُهُ يَرُعَانِي إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً

مجھے دیکھتی ہیں اور اس کا دل میری تان میں ہے اگر نیکی اور اچھائی دیکھے تو اسے دفن کر دے اور اگر دیکھے برائی

أَذَاعَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو اس کو شاخ کر دے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

زُوبَةِ السَّرُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو کہ سرور کے بلند چوٹی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

بِهَجَةِ الضِّيَاءِ وَالتُّورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو محبوب کہ ضیاء و نور کی رونق و بہار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِفْتَاحِ مَقَامَاتِ الْحَقَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد کی آل پر جو محبوب کہ مقامات حقائق کی چابی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّصْبَاحِ دَلَائِلِ الدَّقَائِقِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ باریکیوں کے دلائل کا چراغ نور ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَرَّةَ

لئے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ ٹھنڈک ہیں

عَيْنِ الصُّدُورِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دلوں کی آنکھوں کے لیے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ النَّوْمِ الْأَوَّلِ فِي الْبُطُونِ وَالظُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جو محبوب کہ نوراؤل ہیں خفاء و بطون کے لحاظ سے بھی اور ظہور و آشکار ہونے کے لحاظ سے بھی۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ

بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سب خیرات اور بھلائیوں سے بہتر و برتر ہیں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَوَامِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ دائمی

السَّعَادَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سعادتوں والے ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَرْفِ الْمُتَّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل پر جو محبوب کہ (موجب) قرب ہیں واسطے متقین کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرَامَةِ الْمُخْلِصِينَ اللَّهُمَّ

پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب سراپا کرامت و عزت ہیں مخلصین کے لیے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَدْبَرِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ صیغ اور درست تدابیر والے

الصَّائِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مبارک و منتظم ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر



مُحَمَّدٍ الْمُتَكَلِّمِ الْمَسْمُوعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب ایسے متکلم ہیں کہ جن کا کلام (عند اللہ) سنا اور قبول کیا جاتا ہے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ عَلَىٰ كُلِّ خَلْقٍ رَاضِيٌ كَرِيمٌ مَطْبُوعٌ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب پیدا کئے گئے ہیں ہر پسندیدہ اور بزرگ خلق و خلقت پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الْبِرِّءِ الدَّوَامِ شِفَاءً مَجْمُوعًا - لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شِفَاءً لِمَنْ شَاءَ مِنَ الْمَرِيضِينَ

محمد کی آل پر کہ جو آقا سراسر شفاء ہیں تمام بیماریوں کی اور (علاج ہیں) سوزش عشق کا۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْإِنْسِ الْمَوَانِسِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو آقا انس رکھنے والے ہیں اور انس مہتیا کرنے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

زَيْنِ الصُّدُورِ وَالْمَجَالِسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ جو محبوب زینت مجسمہ ہیں صدرات پر فائز لوگوں کے لیے اور مجالس کے لیے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَحَنِّفِ الْمُتَعَبِّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب بہت زیادہ حق کی طرف رغبت و میلان رکھتے تھے اور عبادت میں کمال ریاضت کا کام لیتے تھے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوُدُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ بہت محبت رکھنے والے اور محبت کا اظہار فرمانے والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِ الْكُلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سب کے حبیب ہیں۔ لے اللہ صلوات

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِ الْكُلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سب کے حبیب ہیں۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّذْ هَبَ الْغَلِّ وَ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو غلاموں کی گردنوں سے اطوق غلامی اتارنے والے ہیں اور

وَالذُّلَّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّلِّ إِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ إِلَّا

بے بسی و بیکسی کو دور کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم پناہ تیری طلب کرتے ہیں عاجزی و بے بسی سے مگر واسطے تیرے اور خوف سے مگر

مِنْكَ وَمِنَ الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ كَمَا صُنْتَ وَجُوهَنَا أَنْ نَسْجُدَ لِغَيْرِكَ

تجھ سے۔ اور محتاجی سے مگر طرف تیرے، جیسے تو نے محفوظ فرمایا ہمارے چہروں کو کہ سجدہ کریں تیرے ماسوا کسی کو

فَصْنُ أَيِّدِينَا أَنْ تَمْتَدَّ بِالسُّؤَالِ لِغَيْرِكَ لِأَنَّكَ سُبْحَانَكَ

پس بچا ہمارے ہاتھوں کو بھی کہ وہ دراز ہوں واسطے سوال کے تیرے غیر کے آگے۔ ہمیں کوئی مہجور برحق مگر تو ہی۔ پاک ہے تو

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَلِّ وَالْغَلِّ

بیشک ہوں میں ظلم کرنے والوں سے۔ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری کہینہ سے اور اطوق غلامی سے۔

وَمِنَ الْغُلِّ وَالْغُلِّ وَالْغُلِّ وَأَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ

اور خیا تزل سے۔ اور ریگ تانوں میں بھٹکتے پھرنے سے اور شدتِ پیاس سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیری رضا کے طفیل تیری

وَسَخِطِ غَضَبِكَ وَغَضَبِ شِدِيدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخِطِ غَضَبِكَ

ناراضگی سے اور شدتِ غضب سے اور غضبِ شدید سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیری ولایت کی شدتِ غضب سے

وَلَايَتِكَ وَوَلِيَّتِكَ وَأَوْلِيَاءِكَ وَبِعَافَاتِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ وَ

اور تیرے ہر ولی کی شدتِ غضب سے اور تمام اولیاء کے شدتِ غضب سے اور تیری عفو کے صدقے میں تیری عفویت اور

عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّحُوجِ وَالسَّحُوجِ وَالْحَرْجِ وَالْحَرْجِ

تیرے عتاب سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں چھٹنے سے اور تمام قسم کی خراشوں سے۔ اور تنگی سے اور تمام طرح کی تنگیوں سے

وَالْمَرْجِ وَالْمَرْجِ وَالْمَرْجِ وَأَعْطِنِي السُّوْبَ وَالْمَزْدَوجَ وَالْفَلْدَجَ

اور قتل سے۔ اور فساد سے اور تمام قسم کے قتلوں سے۔ اور عطا فرما مجھے انگوروں کے باہم متصل بانگات اور کشائش و فراخی

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْنِ وَالشَّيْنِ وَالْهَيْنِ وَالْهَيْنِ وَالْغَيْنِ وَ

اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں مصیبت سے اور عیب و نقص سے۔ اور کمزوری سے اور ناتوانی سے۔ اور پردے چڑھنے سے اور

الْغَيْنَ وَالْمَيْنَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَلْظِ وَالْغَلِيظِ وَمِنَ الْغَيْظِ وَ

حجاب سے۔ اور جھوٹ سے۔ اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں سختی سے اور سخت لوگوں سے۔ اور ناراضگی سے اور بہت ناراض ہونے

الْغِيُوظِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْظِ وَالْفَقِظِ وَمِنَ الْغَمْظِ وَالْغَمُوظِ اللَّهُمَّ

والوں سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں سخت مزاج سے اور بدخلقی سے۔ اور حقیر جاننے سے اور حقیر جاننے والے سے۔ اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَجْعِ وَالْفَاجِعِ وَمِنَ الْفَضِيحِ وَالْفَضُوحِ اللَّهُمَّ

بیشک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں غمزدہ ہونے سے اور غمزدہ کرنے والے سے اور رسوا کرنے والے سے اور رسوائی سے۔ اے اللہ

إِنَّا نَعُوذُ بِكَ عَنْ دِيَارِ الظُّلُمَاتِ الْأَنْثَانِيَّةِ الْوَهْمِيَّةِ وَخَدَاجِ

بے شک تیری پناہ طلب کرتے ہیں انانیت موموم کی تاریک تر ظلمتوں سے اور بشری آلاشوں

الْقَادُورَاتِ الْبَشَرِيَّةِ الْمَوْهُومِيَّةِ الْأَنْثَانِيَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ

بشری آلاشوں کے نقصان سے جو موموم انانیت وہستی والی ہے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بُرے

الذِّكْرِ وَسُوءِ الْفِكْرِ وَسُوءِ الذُّوقِ وَسُوءِ الشُّوقِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

ذکر سے۔ بُرے فکر سے۔ بُرے ذوق سے اور بُرے شوق سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں

سُوءِ الْعِلْمِ وَسُوءِ الْجَلْمِ وَسُوءِ الْخُدْبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ

بُرے علم سے۔ بُرے علم سے اور بُرے جھوٹ سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بُرے ادب اور طریقہ

وَسُوءِ الْعَجَبِ وَسُوءِ الْعَجَبِ وَسُوءِ الْغَضَبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ

سے اور بُرے تعجب سے۔ اور بُرے تعجب سے اور بُرے غضب سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بُرے

الْفِهْمِ وَسُوءِ الْعَمِّ وَسُوءِ الْوَهْمِ وَسُوءِ الْفَهْمِ وَسُوءِ الرَّعْمِ وَأَعُوذُ بِكَ

مُنہ سے اور بُرے اندھے پن سے اور بُرے وہم سے اور سو وہم اور بُری پندار سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں

مِنْ سُوءِ الظَّنِّ وَسُوءِ الْفِنِّ وَسُوءِ الْغَيْرِ وَسُوءِ الضَّيْرِ وَسُوءِ

بُرے گمان سے۔ اور بُرے اسلوب و انداز سے۔ اور بُری تبدیلی سے۔ اور بُرے ضرر و نقصان سے اور

الْمَيْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الشَّيْءِ وَسُوءِ الشَّيْءِ وَسُوءِ الْمَشْيُودِ

بُری بھراک سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بُرے مکر سے اور بدترین مکر سے۔ اور مکر لکنے ہونے سے

وَسَوْءَ الْكِبَادِ وَأَعُوذُ بِنُورٍ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي أَضَاءَتْ لَهُ

اور بڑی مکاری سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بطفیل تیرے چہرہ کریم کے نور کے کہ روشن ہو گئے بسبب اسکے

السَّمَوَاتِ وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

سب آسمان اور جگمگا اٹھیں بسبب اس کے سب تاریکیاں۔ اور درست ہو گیا اسی پر معاملہ دنیا اور آخرت کا۔

أَنْ لَا تَحِلَّ عَلَيَّ غَضَبُكَ وَلَا تَنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطُكَ وَلَكَ الْعُتْبَىٰ

کہ تو نہ حلال ٹھہرائے مجھ پر اپنے غضب کو اور نہ نازل کرے مجھ پر اپنی ناراضگی کو اور تیرے شایان شان ہے عتاب کو روکے رکھنا

حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ وَمِنْكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

شئی کہ تو راضی ہو جائے۔ اور نہیں پھرتا (معبیت سے) اور نہ طاقت (یعنی کی) مگر ساتھ تیرے اور تجھ سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں

فَسَادِ الزَّمَانِ وَتَسْبِيْعِهِ وَظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَتَرْوِيعِهِ وَمِنْ كُلِّ ظَالِمٍ وَ

زمانہ کے فساد سے اور اس کی ربا کاری سے۔ اور اہل اسلام کے ظلم سے اور اس کے خوفزدہ کرنے سے۔ اور ہر ظالم اور

حَاسِدٍ وَتَصْدِيْعِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَقْوَالِ

حاسد سے اور اس کی چہرہ دستی سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بڑے اہل اخلاق و اقوال سے

وَالْأَعْمَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْإِسْتِدْلَالَ وَالْأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ

اور بڑے اعمال و افعال سے۔ اور بڑے استدلال سے۔ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شئی کے شر سے کہ پناہ طلب کی

مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوْفَنِي

اس سے تیرے نیک بندوں نے، تو ہی میرا یار و مددگار ہے دُنیا و آخرت میں مجھے وفات دینا

مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

حالت اسلام میں۔ اور لاحق کرنا ساتھ نیک لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَيِّنِ اللَّيِّنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ باوقار انداز والے اور نرم طبیعت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّيَّاءِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سراپا ضیاء ہیں

الْبَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو واضح و آشکار ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

السَّهْلِ الطَّلِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّمْحِ

جو محبوب کہ نرم طبع اور نہیں مکھہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب بخور و می می

الْمُنْتَخَلِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَوْقِرِ

اور اعلیٰ اخلاق سے متصف ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب کہ زہری آفرین کرنے

الْوَقُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْخَيْرِ

والے ہیں اور بہت باوقار ہیں اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سراسر خیر

الْبُرِّ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ

مقبول ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ جامع ہیں

كُلِّ خَلْقٍ كَرِيمٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہر بزرگ نسلت کے جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیشک تم حاوی و غالب ہر خلق عظیم پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّارِي الْمُدَلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ رات کو سیر فرمانے والے ہیں اور رات نہانی کئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُكْخَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ نعم عطا کئے ہوئے ہیں اور قدرتی سرمہ کی آنکھوں والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَاضِي الْحَوَائِجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ (بازن اللہ) حاجات کو پورا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَبِيحَةِ النَّتَائِجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ سب نتائج و مقاصد کا نتیجہ اور حاصل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَافِضِ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب دنیا کو ترک کرتے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّفَضِّلِ الْفَقْرِ عَلَى الْغِنَى اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اجداد پر جو محبوب ترجیح دینے والے ہیں فقر کو غنا پر۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّوَامِ الْقَوَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور قیام کرنے والے ہیں۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَارِئِ الْبَسَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ

صلوات وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ (قرآن کے) قاری ہیں اور بہت مسکنے والے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَطِيرَةِ الْخَطَائِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ بلند قدر ہیں تمام بلند قدروں سے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَبْصِرَةِ أُولَى الْبَصَائِرِ اللَّهُمَّ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی جو محبوب کہ سراسر سامان بصیرت ہیں ارباب بصیرت کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُوحِ أَرْوَاحِ الصُّورِ

صلوات وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ صورتوں کے ارواح کی روح ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ أَوَائِلِ السُّورِ

اے اللہ صلوات وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سورتوں کے قرآنی کے حروف مقطعات کے رازینہانی ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاطِقِ بِالْحَقِّ

اے اللہ صلوات وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ کلام فرمانے والے ہیں ساتھ حق کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاعِلِ الْخَيْرَاتِ

اے اللہ صلوات وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ عملات کے لیے بھلاؤں کا

فِي الْخَلْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سامان کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

الْحَرَمِ الْأَمِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محبوب کہ سراسر حرم ہیں امن وامان کا۔ اے اللہ صلوات وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

لِيَايَ الْبُعَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب کہ خلاصہ اور مغز ہیں تمام معاون کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

مَسَّلِكَ الْهُدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو آقا کہ ہدایت کا راہ سلوک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

عَلِمَ مَنْ هَدَى وَاهْتَدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو محبوب کہ علم اور بلند جوئی میں ہدایت کرنے والوں اور ہدایت پانے والوں کیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَرَبِّ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اہل اسلام کے بارود و گار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَاظِرِ عَيْنِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل پر کہ جو محبوب کریم دین کی آنکھ کی پتلی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَاطُونَ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل پر کہ جس محبوب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللطف و کرم کیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَشْغُوفِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل پر کہ جس محبوب کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر سرایت کئے ہوئے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَرْفُوقِ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل احماد پر کہ جس محبوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی اور ملازمت سے کام لیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَنْظُورِ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل پر کہ جس محبوب کی طرف ہر ایک کی نظر لگی ہوئی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْعَرْشِ الْمَتِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل پر جو محبوب کہ مضبوط و مستحکم عرش والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَسْمُوعِ الْقَوْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ مقبول قول والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعُدَّةُ فِي كُلِّ شِدَّةٍ وَهَوْلِ اللَّهِمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ سر سامان ہیں (تسکین کا) ہر شدت اور دہشت میں۔ لے اللہ بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

بِحَاءِ الْحَمْدِ وَمِيمِ الْحَمْدِ وَدَالَ الْحَمْدِ أَنْ تُخْرِجَ لِي مِنْ دَالِ دِينِكَ

حمد کی حاء اور حمد کی میم اور حمد کی دال کے طفیل کہ برآمد فرمائے میرے لیے اپنے دین کی دال سے

دَارَكَ وَدَاعَيْتِكَ وَدُعَاءِ تَعِيدُ بَرَكَتَهُ عَلَيَّ وَتُنَجِّنِي بِهِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ

اپنا دار و مکان اور داعیہ اپنا اور ایسی دعا کہ لوٹائے تو اس کی برکت مجھ پر اور نجات دے مجھے ہر ناپسندیدہ چیز سے

لَدَائِي وَأَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَاتِي النَّازِلَةَ فِيَّ وَأَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ آخِرَةً

زویک میرے۔ اور یہ کہ پورا فرمائے میرے اندر نازل ہونے والی حاجات کو اور بالآخر ظاہر فرمائے اس سے

مَحْمُودَةً وَدُنْيَانَا مَوْجُودَةً مَشْهُودَةً وَعَاقِبَةٌ جَمِيلَةٌ مَسْعُودَةٌ اللَّهُمَّ

محمود عاقبت و انجام کو۔ اور وہ دنیا ہماری جو موجود مشہور ہے اور اس عاقبت و انجام کو جو جمیل اور باسعادت ہے۔ لے اللہ

اجْعَلْ لِي مِنْ حُرْبِكَ وَمَنَاجَاتِكَ وَدُعَائِكَ سَيْفًا قَاطِعًا وَسَكِينًا

بنامیرے لیے اپنے تعویذ۔ مناجات اور دعا کو کاٹنے والی تلوار اور پارہ ہر جانے والی چھری اور

تَافِذًا وَقَوْسًا سَائِقًا وَسَهْمًا صَائِبًا يَدْفَعُ بِهَا الْعَدُوَّ الْمْتَرِدَّ وَالْحَسُودَ

تیر چلانے والی قوس اور نشانے پر بیٹھنے والا تیر کہ دور کیا جائے ساتھ اس کے سرکش دشمن اور حاسد

وَالْمُنْكَرَ وَالْمُتَشَرِّدَ وَالْمُنْحَرِفَ وَالْمُتَرَدِّدَ وَيَضْرِبُ بِهَا أَعْنَاقَ الْأَعْدَاءِ

منکر اور دور بھاگنے والا۔ اور بٹھنے والا اور تردد و تذبذب میں مبتلا اور ماری جائیں بسبب ان کے گرو میں اعداء کی۔

وَيُقْتَلُ بِهَا شَوَاكِلُ الْبَلَاءِ وَيُهْلِكُ بِهَا مَا لَيْسَ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

اور قتل کی جائیں ساتھ ان کے ضلعت الاقسام بلا میں اور ہلاک کیا جائے ساتھ ان کے جو نہیں ہے واسطے مالک ارض و سما کے

بِحَقِّ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالْمُصْطَفَى الْمَكِينِ وَأَسْأَلُكَ رِزْقًا حَلَالًا

بطفیل حق محمد کے جو سردار ہیں مرسلین کے اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں اور بلند قدر ہیں اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے حلال و پاکیزہ

طَيِّبًا وَلَا تُوْمِنِي مَكْرَكَ وَلَا تَنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تَكْشِفْ عَنِّي سِتْرَكَ وَلَا

رزق کا اور یہ کہ نہ بے خوف کرے تو مجھے اپنی خفیہ تدبیر سے اور نہ بھولے دے ذکر اپنا اور نہ ہٹائے مجھ سے ستر اپنا۔ اور نہ

تَقْتُنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَلَا تُبْعِدْنِي مِنْ كَنَفِكَ وَجَوَارِكَ وَأَعِزَّنِي مِنْ

نامید کرے مجھے اپنی رحمت سے۔ اور نہ دور کرے مجھے اپنے پہلوئے رحمت سے اور پڑوس سے۔ اور مجھے بجائے

سَخَطِكَ وَعَضْبِكَ وَلَا تُؤْيِسْنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَرَوْحِكَ وَكُنْ لِي أُنَيْسًا

اپنے غصے اور غضب سے۔ اور نہ مایوس کرے مجھے اپنی رحمت سے اور راحت و خوشی سے۔ اور ہو جا تو میرا انس و ہوا

مِنْ كُلِّ رَوْعَةٍ وَوَحْشَةٍ وَأَعْصِمْنِي مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ وَزَلْزَلَةٍ وَغَمٍّ وَهَمٍّ

کرنے والا ہر خوف اور وحشت سے۔ اور بچا مجھے ہر قسم کی ہلاکت اور زلزلہ سے اور غم و تنگ سے

وَبَلَاءٍ وَوَبَاءٍ وَطَعْنٍ وَطَاعُونَ وَحَرَقٍ وَغَرَقٍ وَحَرِّ وَبَرْدٍ وَجُوعٍ وَ

اور بلا و وباد سے۔ اور نيزول کے زخم اور طاعون سے اور جل مرنے اور غرق ہونے سے اور گرمی و سردی سے اور

عَطَشٍ وَفَحْطٍ وَغَارَةٍ وَضَيْقٍ وَنَجْنِي مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَأَفِيَةٍ وَعَاهَةِ

بھوک و پیاس سے اور قحط سالی اور غارت سے اور تنگدستی سے اور نجات دے مجھے ہر آزمائش اور آفت سے اور عیب و نقص سے

وَعَصَبَةٍ وَمُحَنَةٍ وَشِدَّةٍ وَزَلَلٍ وَخَطَاءٍ وَهَانَةٍ وَكُرْبَةٍ وَهَزَقٍ وَهَدْمٍ

اور ہر غم و عقید سے۔ اور محنت و شدت سے اور لغزش و خطا سے اور حقارت اور کربت سے۔ بادل کی سخت گرج سے اور بکھرنے

وَحَسَقٍ وَسَرِقٍ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّكَ لَا تُخَلِّفُ الْبَيْعَادَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

سے اور زمین میں و چھتے سے اور ضعف و ناتوانی سے و نزل جہان میں۔ بے شک تو وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ

بَعْدَ دَخْلِكَ بِعِزَّةِ عَرْشِكَ بِرِضَاءِ نَفْسِكَ بِنُورِ وَجْهِكَ بِمَبْلَغِ حَلِيمِكَ

سے تیری مخلوق کی گنتی کے مطابق تیرے عرش کی عزت کے طفیل، تیری ذات کی رضا مندی کے طفیل، تیرے نور ذات کے طفیل، تیرے بے انتہاء

بِهَيْبَتِهِ رَحْمَتِكَ بِأَدْرَاكِ مَشِيَّتِكَ بِكُلِّ صِفَاتِكَ بِنَهَايَاتِ أَسْمَائِكَ

حلم کے طفیل، تیری بے نہایت رحمت کے طفیل، تیری مشیت کے احاطہ کے طفیل، تیری نام نہاد صفات کے طفیل، تیرے اسماء کی بے نہایتی کے طفیل۔

بِمَكْنُونِ سِرِّكَ بِجَمِيلِ بَرِّكَ بِكَمَالِ مَنِّكَ بِفَيْضِ جُودِكَ بِسَبَاقِ رَحْمَتِكَ

تیرے راز مستور کے طفیل، تیرے جمیل احسان کے طفیل، تیرے کمال امتنان کے طفیل، تیرے فیضانِ جود کے طفیل، تیری رحمت کے سبقت لینے کے

بَعْدَ دِكْحَلِيَّتِكَ بِتَوْحِيدِ وَحْدَانِيَّتِكَ بِبَقَاءِ سَرْمَدِيَّةِ أَوْقَاتِكَ بِعِزَّةِ

طفیل، تیرے کلمات کی گنتی و شمار کے صدقے میں، تیری وحدانیت کے افراد و اعتراف کے صدقے میں تیرے اوقات کی سرمدیت و بقا، ابد کے صدقے میں تیری

رَبُّوْبِيَّتِكَ بِجَاهِكَ بِجَلَالِكَ بِكِمَالِكَ بِجَبَالِكَ بِأَفْعَالِكَ بِإِنْعَامِكَ

عزت ربوبیت کے صدقے میں تیرے جاہ و جلال کے صدقے میں تیرے کمال و جمال کے صدقے میں تیرے تمام افعال اور تیرے انعام کے صدقے میں۔

بِحَقِّكَ وَبِحَقِّ رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ

تیرے حق کے صدقے میں تیرے رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

أَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا فَرْجًا وَمَخْرَجًا وَشِفَاءً مِّنَ الْهُمُومِ وَ

کے حق کے صدقے میں (سوال کرتا ہوں کہ) بنائے تو ہمارے لیے کشائش اور جگہ خلاصی کی اور شفاء و نجات اور

الْغُومِ وَالْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالطَّعْنِ وَالطَّاعُونَ وَالْعَنَاءِ وَمِنَ جَمِيعِ

غمگینیوں سے۔ اور بلاؤ و وباء سے۔ اور طعن و طاعنوں سے اور مشقت و شدت اور جملہ

الْأَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ بِحَقِّ كَهَيْعَتِمْ وَبِحَقِّ طَهِّ وَبِئْسَ

آفات و نقائص سے اور بلیات سے بطفیل حق کہلیعص اور بطفیل حق طہ اور بیس۔

وَطَسٍ وَحَمَسَقٍ وَبِحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ

اور طس اور حمسق کے اور بطفیل حق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ بے شک ہم نے فتح دی ہے آپ کو

فَتْحًا مَبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ

فتح آشکارا تاکہ بخش دے اللہ تمہارے وہ جو گزرے تمہارے ذنوب سے (تمہارے خیال میں) اور وہ جو بعد میں مزور ہوں گے (تمہارے اندیشوں میں) اور

نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمَ

کامل کرے تم پر اپنی نعمت کو اور چلائے تمہیں راہ راست پر۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں توحید کے

التَّوْحِيدِ وَعَمَلِ التَّوْحِيدِ وَقَوْلِ التَّوْحِيدِ وَخِيَالِ التَّوْحِيدِ وَحَالِ

علم کا۔ اور توحید پر عمل کا۔ اور توحید کے قول و اقرار کا۔ اور توحید کے خیال کا اور توحید کے

التَّوْحِيدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝

حال کا۔ فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم نہ وہ خود جنم گیا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اور نہیں اس کے لیے کوئی بھی رشتہ دار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
الحمد لله
کہ دین زبانِ نعتِ آقرانِ فضل
ایز و منان تحفہ عجایب و ہدیہ غرائب الی اللہ
مقبول بارگاہِ کونین حضرت محمد رسول اللہ
مُسَمَّیْ بِہِ

صَلَوَاتُ الرَّسُولِ

الجزء السادس

فِي شَرَفِهِ وَشَرَفَتِهِ ﷺ

از تصنیف و تالیف مولانا محمد رفیع صاحب دہلی

حضرت خواجہ نوری خان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہی پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رسم والا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَضْرَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِحَضْرَةِ

لے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظیفیل اقبال مندی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ اور بظیفیل نصیب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِحَضْرَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بظیفیل حصص خیر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

سب ستائش اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ بہت مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ مالک، یوم جزاء کا۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۚ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ

اے ان صفات کمال والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں ہم۔ چلا ہمیں راہ راست پر۔ راہ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۚ

ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا ہے نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ قِيَوْمِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ ۚ مُدِيرِ

سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو قائم و برپا رکھنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ تدبیر فرمانے والا ہے

الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ ۚ مَنْوُورِ أَبْصَارِ الْعَارِفِينَ ۚ بُورِ الْمَعْرِفَةِ

سب مخلوقات کی۔ روشن کرنے والا ہے آنکھیں ماریوں کی بصیرتوں کی۔ ساتھ معرفت

وَالْيَقِينِ ۚ جَادِبِ أَسْرَارِ الْإِنَّمَةِ وَالْمُحَقِّقِينَ ۚ بِجَذَبِ الْقُرْبِ

و یقین کے نرے۔ کھینچنے والا ہے آئمہ اور اہل تحقیق کے بواطن و قلوب کو قرب اور بلندی مرتبت کی

وَالشُّكْرِينَ ۚ وَفَاتِحِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ بِمَفَاتِيحِ حَمْدِ الشَّاكِرِينَ ۚ

کشش سے۔ اور کھولنے والا ہے اہل توحید کے قلوب کو شکر گزاروں کی حمد کی چابیوں کے ساتھ

وَجَامِعِ أَشْتَاتِ شَمْلِ الْمُحِبِّينَ ۚ فِي حَضْرَةِ قُدْسِهِ وَأَنْسِهِ بِجَمْعِ

اور جمع فرمانے والا ہے پراگندگیاں اہل محبت کی جمعیت کی اپنی بزم قدس و انس میں بسبب جمع کرنے



الْحَفِظُ وَالْيَقِينُ ۝ أَحْمَدُ ۝ حَمْدًا أَيْفُوقُ وَيَعْلُو ۝ وَيَفْضُلُ حَمْدًا

حفظ اور یقین کے۔ میں اس کی ثناء کرتا ہوں ایسی ثناء جو فائق اور بلند ہو اور برتر ہو تمام حمد

الْحَامِدِينَ ۝ حَمْدًا أَيْكُونُ لِي رِضًا وَفِيضًا وَحِفْظًا وَحِطًّا وَذُخْرًا

کرنے والوں کی حمد سے۔ ایسی حمد کہ ہو میرے لیے سراسر رضا، فیضان اور حفاظت کا سامان اور حصہ خیر اور ذخیرہ

وَجِرْزًا عِنْدَ خَالِقِي وَخَالِقِ الْأَقَالِيمِ وَالْجِهَاتِ وَالْأَقْطَارِ وَالْأَنْصَارِ

اور سبب حفاظت نزدیک میرے خالق کے۔ اور تمام اقالیم و جہات کے خالق اور اطراف و بلاد اور

وَالْأَعْصَارِ وَالْأَمْلاَكِ وَالْأَفْلَاقِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ السَّمَوَاتِ

زمانوں کے خالق۔ اور ملائکہ و افلاک کے خالق کے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ سب آسمانوں کا مالک

وَرَبِّ الْأَرْضِينَ وَرَبِّ الْأَقْرَبِينَ ۝ وَرَبِّ الْأَبْعَدِينَ ۝ وَرَبِّ

اور سب زمینوں کا مالک ہے۔ قریب ترین لوگوں کا پروردگار ہے اور بعید ترین کا پروردگار ہے۔ اور اولین

الْأَوَّلِينَ ۝ وَرَبِّ الْآخِرِينَ ۝ وَرَبِّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَرَبِّ

کا رب ہے اور آخرین کا رب ہے۔ اور ملائکہ مقربین کا رب ہے۔ تمام انبیاء و

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ۝ وَرَبِّ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ ۝ الرَّحْمَنُ

مرسلین کا رب ہے۔ اور رب ہے تمام مخلوقات کا۔ رحمن

الرَّحِيمُ ۝ الْأَزَلِيُّ الْقَدِيمُ السَّمِيعُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

رحیم ہے۔ ازلی ہے قدیم ہے۔ ہمیشہ سے سُننے والا، بلند شان اور مالک عظمت ہے۔ دائمی عزت والا اور دائمی حکمت

الَّذِي دَخَى الْأَقَالِيمَ ۝ وَاخْتَصَّ مُوسَى الْكَلِيمَ ۝ وَاخْتَارَ سَيِّدَنَا

والہے۔ جس نے پھیلا یا سب اقالیم کو۔ اور مخصوص ٹھہرایا۔ حضرت موسیٰ کلیم کو۔ اور اختیار فرمایا سیدنا

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيبًا مِّنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ۝

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حبیب کے تمام انبیاء اور مرسلین میں سے۔

وَسَيِّئَتِي نَفْسَهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ ۝ فَهَمَّا إِسْمَانُ عَظِيمَانِ كَرِيمَانِ

اور اپنی ذات کو موسوم کیا رحمن رحیم کے ساتھ۔ پس وہ دونوں عظمت و کرامت والے اور



جَلِيلَانِ فِيهِمَا شِفَاءٌ لِّكُلِّ سَقِيمٍ وَدَوَاءٌ لِّكُلِّ عَليْلِ وَغِنَاءٌ لِّكُلِّ

جلالت والے نام ہیں۔ ان دونوں میں شفا ہے واسطے ہر مریض کے۔ اور دوا ہے واسطے ہر بیمار کے اور دولت مند ہے

لِّكُلِّ فَقِيرٍ وَعَدِيْمٍ مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۗ لَيْسَ لَهُ فِي مَلِكِهِ

واسطے ہر فقیر اور تنہی دامن کے، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ نہیں اس کے لیے اس کے ملک میں

مُنَازَعَةٌ وَلَا شَرِيْكٌ وَلَا ظَهِيْرٌ وَلَا شَبِيْهٌ وَلَا نَظِيْرٌ وَلَا مُدَبِّرٌ وَلَا وِزِيْرٌ

مخالفت کرنے والا۔ اور نہ حصہ دار۔ نہ مددگار اور نہ مشابہت رکھنے والا اور نہ کوئی مشابہت رکھنے والا۔ نہ منتظم اور نہ وزیر

وَلَا مُعِيْنٌ بَلْ كَانَ قَبْلَ وُجُوْدِ الْعٰلَمِيْنَ اَجْمَعِيْنَ ۗ وَلَمْ يَزَلْ

اور نہ کوئی اعانت کرنے والا۔ بلکہ وہ موجود ہے پہلے اس کے کہ موجود ہوتے سب جہاں۔ اور ہمیشہ سے ہے

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی مَلِيْكًا كَرِيْمًا قَيُّوْمًا اَبَدًا اَبَدِيْنَ وَدَهْرًا لِّلْاٰهْرِيْنَ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب ملک۔ کریم۔ قائم رہنے والا ہے قائم رہنے اور باقی رہنے والوں کے زمانہ تک بلکہ ہمیشہ کے لیے

فَهُوَ اِحَاطَتِيْ مِنْ جَمِيْعِ الشَّيَاطِيْنِ وَالسَّلَاطِيْنِ ۗ وَعَوْنٌ لِّيْ مِنْ

پس وہی میرا قلعہ ہے تمام شیاطین اور سلاطین سے۔ اور میرا معاون ہے تمام

جَمِيْعِ الْاَقْرَبِيْنَ وَالْاَبْعَدِيْنَ ۗ اِيَّاكَ نَعْبُدُ يَا مَوْلَانَا بِالْاِقْرَارِ وَ

لوگوں سے قریب ترین اور بعید ترین سے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم نے ہمارے مولیٰ ساتھ اقرار الوہیت

نَعْتَرِفُ لَكَ اَيْضًا بِالْعِجْزِ وَالتَّقْصِيْرِ وَنُوْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ

کے اور اعتراف کرتے ہیں تیرے لیے عجز و قصور کا بھی۔ اور ایمان لاتے ہیں ساتھ تیرے اور توکل کرتے ہیں

عَلَيْكَ فِيْ كُلِّ الْاُمُوْر ۗ وَنَعْتَصِمُ بِكَ مِنْ جَمِيْعِ الذُّنُوْبِ وَنَشْهَدُ

تجھ پر تمام امور میں۔ بچاؤ حاصل کرتے ہیں تجھی سے تمام گناہوں سے۔ اور شہادت دیتے ہیں

اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۗ وَرَايَاكَ نَسْتَعِيْنُ ۗ

کہ نہیں مبود برحق مگر تو ہی ہے ذوالجلال و الاکرام۔ اور تجھی سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔

نَسْتَعِيْنُ بِاللّٰهِ عَلٰی كُلِّ حَاجَةٍ مِّنْ اُمُوْر الدُّنْيَا وَالدِّينِ ۗ

توفیق طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہر حاجت میں دنیا و آخرت کے حاجات میں سے۔



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تاجِ أَهْلِ الْبَدَاوِ وَالْحَضِرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر جو کہ بادشاہ ہیں دیہاتوں اور شہریوں کے۔

وَمَنْ أَقْرَبَ بِفَضْلِهِ وَمَنْ تَأْتِي عَنْهُ وَمَنْ حَضَرَ يَأْتِي هَادِي الْمُضِلِّينَ

اور (ان تمام کے) جنہوں نے اقرار کیا آپ کی فضیلت کا۔ اور جو آپ سے دور رہے یا جو حاضر بارگاہ ہوئے۔ اے ہدایت دینے والے گمراہ

لَاهَادِي لَنَا غَيْرُكَ وَحَدَاكَ لَا شَرِيكَ لَكَ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ

کرنے والوں کے نہیں کوئی ہادی ہمارے لیے سوا تیرے۔ تو یکتا و بے ہمتا ہے۔ نہیں شریک واسطے تیرے۔ تو ہی بادشاہ ہے حق ہے

الْمُهَيَّبِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَهَادِيَنَا وَمُهَيَّبِيْنَا مُحَمَّدًا

آشکارا کرنے والا ہے (حق کا) اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہمارے سردار۔ نبی۔ ہادی اور معطی محمد

عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَحَبِيبُكَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ

تیرے عبد خاص۔ تیرے رسول اور حبیب، نبی امی چھے وعدوں والے۔ امین و معتمد علیہ ہیں

الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً إِلَى كَافَّةِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

جو بھیجے ہوئے ہیں بطور رحمت مہم ہونے کے طرف تمام مخلوق کے۔ درود بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور

عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَشِيعَتِهِ وَوَارَثِيهِ وَحَزْبِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

ان کی آل اور اصحاب اور آپ کی جماعت اور آپ کے نامین پر اور آپ کے گروہ پر جو پاکیزہ و منزه ہیں

صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمِينَ مُتَلَازِمِينَ بَاقِيَيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

ایسا درود و سلام کہ وہ دونوں دائم اور باہم لازم و ملزوم ہوں اور باقی رہنے والے ہوں قیامت کے دن تک

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مَنِ


چلا ہمیں راہ راست پر راہ ان لوگوں کی کہ تو نے انعام فرمایا ہے ان پر یعنی

النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ

انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین۔ اور بہت اچھے ہیں وہ حضرات از روئے

رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْهَا صِرَاطَ أَهْلِ

رفیق ہونے کے۔ وہ عظیم فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور صاحب علم ہونے کے (چلا ہمیں) راہ



الْإِسْتِقَامَةَ وَالذِّينَ وَالتَّعْظِيمَ صِرَاطَ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ وَالتَّسْلِيمِ

اہل استقامت اور اہل دین کی اور عظمت والوں کی۔ راہ اہل اخلاص اور ارباب تسلیم کی۔ راہ

صِرَاطَ الرَّاعِبِينَ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ صِرَاطَ الْمُسْتَأْنِسِينَ بِالنَّظَرِ

ان حضرات کی جو راغب ہیں طرف جنات نعیم کے۔ راہ طلب گاران اس کی بسبب نظر کے

إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ أَللَّهُمَّ لَا تَغْضَبْ عَلَيْنَا

طرف تیرے وجہ کریم کے۔ نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے۔ اے اللہ نہ غضب فرما ہم پر

وَسَهِّلْ لَنَا طَرِيقًا بَيْنَنَا لِمَا قَدْ نَطَلَبُهُ مِنْكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ

اور آسان فرما ہمارے لیے راستہ آشکارا بسبب اس کے کہ ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اے رب العالمین۔ اور

أَحْبَبُ عَنَّا كُلَّ قَاطِعٍ وَمَانِعٍ وَحَاسِدٍ وَبَاغِضٍ مِّنَ الْخَلْقِ وَ

روک لے ہم سے ہر قطع کرنے والے اور منع کرنے والے۔ اور حسد و بغض رکھنے والے کو سب مخلوق میں سے بالعموم

الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور سب جنوں انسانوں میں سے بالخصوص۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَمَلَهُ الْمَجْدُ الْأَثِيْلُ وَكَلَّمَهُ وَتَنَاهَى

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کا احاطہ کر رکھا ہے پائیدار بزرگی نے اور ان کے ہاں توبیرہ لگا رکھا ہے۔ اور تنہا

إِلَيْهِ الشَّرْفُ الْمُنِيفُ وَالشَّرْفُ الْخَيفُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کو بیجا شرف انھیں کے شرف عالی اور مختلف النوع شرف۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَافَتْهُ الْمَهَابَةُ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا کے ساتھ سازگاری کی قدرتی اور خدا داد ہیبت اور

الْجَلَالُ وَتَمَّ لَهُ الْمَحَاسِنُ وَالْجَمَالُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جلال نے۔ اور کامل ہر نین ان کے لیے خوبیاں اور جمال صورت۔ اے اللہ صلوات بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّرْفِ وَالْأَمَانِ وَالْبَيْعَةِ الرَّضْوَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر جو آقا کہ صاحب شرف اور صاحب امان ہیں اور بیعت الرضوان والے ہیں۔ اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَيَانِ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ صاحب بیان ہیں

وَالْفِطْرَةِ وَالْبَيْعَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور دین فطرت والے ہیں۔ اور درخت کے نیچے بیعت لینے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحِزْبِ وَالْقُرْبَةِ وَبَيْعَةِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ درد والے اور مشکیزہ والے اور بیعت

الْعَقَبَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

عقبہ والے ہیں اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ وَالْقَتْلِ وَالْجِهَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

جو محبوب کہ عمدہ گھوڑے والے ہیں اور قتال و جہاد والے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَوْلِ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ مقبول

الْمَسْمُوعِ وَالسُّجُودِ وَالرُّكُوعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قول والے ہیں اور سجد و رکوع والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَوَائِدِ وَالْعَقَائِدِ وَالْاَعْلَامِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ فوائد کے مالک ہیں۔ اور عقائد و اعلام

وَالْمَسَاجِدِ وَالْمَحَافِلِ الْجَلِيَّةِ وَالْمَشَاهِدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور مساجد کے مالک ہیں اور روشن و آشکار محافل و مشاہد والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّوَاهِدِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ علامات صدق اور دلائل حقیقت

الدَّلَائِلِ وَالْفَضَائِلِ وَالْمَسَائِلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

کے مالک ہیں اور فضائل کے سرچشمہ اور مسائل شرعیہ کے معلم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقِبْلَةِ الْيَمَانِيَّةِ وَالْمَوَاهِبِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ کعبہ یمانیہ اور ربانی عطیات کے مالک

الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوُتْرِ وَالصُّحَى وَالْأَضْحِيَّةِ وَالْأَضْحَى اللَّهُمَّ صَلِّ

جو کہ نماز وتر اور صلواتِ صبحی کے ساتھ مختص ہیں اور قربانی اور عید الاضحیٰ والے ہیں۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّامُوسِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر۔ اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ جبریل امین (جیسے مخلص خادم) والے ہیں

وَالْمَحَبَّةِ الْمُثْمِرَةِ فِي الْقُلُوبِ وَالتَّفُوسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور ایسی محبت والے جو بار آورہے قلوب اور نفوس میں (ساتھ نورانیت کے)۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرَّتْبَةِ الْجَلِيَّةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقائے خلق کہ روشن رتبتہ

وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَالْمَحَاسِنِ الْبَدِيعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

بلند درجہ اور انوھی محبتوں کے مالک ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الدَّجْدَةِ وَالْقُوَّةِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقائے نامدار عظیم طاقت و قوت کے مالک ہیں

الْمَكَانَةِ وَالْحُظُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور عظیم درجہ اور نصیب کے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ الْمُقَرَّبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد کی آل پر جو محبوب مکرم کہ (تیرے ہاں) تریب ترین منزل و مقام پر نماز ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ النُّورِ وَالْبُرْهَانِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ نور و برہان کے مالک ہیں



وَالْحِكْمَةَ وَالْقُرْآنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور حکمت و قرآن کے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَالْتَّحْقِيقِ وَالْمَبَانِي اللَّهُمَّ

آل پر جو محبوب کہ سبع مثانی (سورۃ فاتحہ کے ساتھ نقش فرمائے گئے ہیں اور حقائق کے ثابت کرنے اور اسرار کی طور پر حروف تہجی بیان کرنے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَمَانَةِ

والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ امانت

وَالطَّاعَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَالْبِرَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و طاعت والے ہیں اور بلاغت و برتری والے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقِبْلَتَيْنِ وَالْمَسْجِدَيْنِ وَالْمَقَامَيْنِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ دونوں قبلوں اور دونوں مسجدوں (مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ) اور دونوں مقاموں (مقام ابراہیم اور

وَالْحَرَمَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مقام محمود) اور دونوں حرموں (حرم مکہ اور حرام مدینہ) والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحِطِّ الْأَوْفَرِ وَالْوَجْهِ الْأَقْمَرِ الْأَنْوَرِ وَالطَّرْفِ

پر جو محبوب کہ تیرے بال) وافر ترین تھے والے ہیں اور چاند جیسے نورانی چہرے والے۔ اور آنکھ کے سفید حصہ

الْأَحْوَرِ وَالْجَبِينِ الْأَزْهَرِ وَالْجَمَالِ الْأَبْهَرِ وَالْمَقَامِ الْأَخْزَرِ الْأَنْوَرِ

کی زیادہ سفیدی والے۔ روشن جبین والے (عقول کو) حیرت زدہ کرنے والے جمال کے مالک اور بہت ہی قابل فخر نورانی مقام

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

صَاحِبِ اللَّيْمَةِ وَالشَّامَةِ وَالْخَاتِمِ وَالْغِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محبوب کہ دراز زلفوں والے اور سو گھنے کی عظیم قوت والے اور مہر نبوت والے اور سایہ ٹھنک بادل والے۔ لے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الثَّاقَةِ وَالْتَّجِيبِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا و مہتمم کو سواری کا شرف بخشے والے ہیں اور شریف ترین خاندان والے۔



وَالْهَرَاوَةَ وَالْقَضِيبَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور صاحب عشا اور صاحب بیعت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجَيْشِ الْمَنْصُورِ وَالسَّوَالِكِ وَالطُّهُورِ اللَّهُمَّ

آل پر جو محبوب کہ فتح یاب لشکر والے اور مسواک اور وضو والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ

الْوَفْرَةَ الْعَطِرَةَ وَالْوَجْنَةَ التَّضْيِيرَةَ وَالطَّلْعَةَ السَّعِيدَةَ وَالْحَالَةَ

عنبریں لطفوں والے۔ تروتازہ رخساروں والے۔ سعادت مند ستارے والے اور لائق ہزار ستائش

الْحَمِيدَةَ وَالْخَفِيَّةَ وَالرُّسَادَةَ وَالرُّهْدَ وَالْعِبَادَةَ يَا حَمِيدَ الْأَفْعَالِ

حالت و کیفیت والے ہیں اور موزوں۔ تکبیر اور زہد و عبادت والے ہیں۔ قابل ستائش افعال اور

ذَالْمِنَّةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ بِلُطْفٍ اجْعَلْنِي مَحْمُودًا مَسْعُودًا بِكُلِّ

احسان و انعام فرمانے والے تمام مخلوق پر ساتھ لطف و کرم کے بنا دے مجھے بھی سزاوار ستائش اور سعادت مند ساتھ

أَفْعَالٍ وَأَقْوَالٍ عِنْدَ كُلِّ نَفْسٍ مَعَ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ وَاجْعَلْنِي عَلَى

تمام افعال و اقوال کے نزدیک ہر نفس کے ساتھ ہر حرکت اور سکون کے بنا دے مجھے

أَقْصَى طَرَقٍ مَحْمُودَةٍ عِنْدَ الْعَارِفِينَ وَالْوَاصِلِينَ ثُمَّ مَنْ عَلَى

انتہائی محمود طریقہ پر نزدیک تمام عارفین و واصلین کے۔ پھر احسان فرما مجھ پر

مَنْ أَبْعَثَ كَثِيرَ دِينِي وَرُوحِي فِي مَرْتَبَةٍ تَكْمِيلٍ إِضَافِي فَكُلَّمَا

دینی اور روحانی عظیم و کثیر عطا کے ساتھ ترقی پذیر تکمیل کے مرتبہ میں۔ پس ہر بار کہ

رَجَعْتُ إِلَيْكَ يَا جَبْرَ الْجَلَالِ الدَّاعِي إِلَى التَّجْرِيدِ وَالْإِهْلَاكِ أَعْدَاةَ

مراجعت فرما ہو احسان بسبب شان جبر و جلال کے جو باعث ہو العبادت سے محرومی کا اور ہلاکت کا تو اس کو ٹوٹا مجھ پر

بِلُطْفِ الْجَمَالِ الْعَرِيْقِ الْبَهِيْجِ النَّاطِرِ بِهِ عِبَادَتِكَ الْمَخْلُصُونَ

ساتھ شان لطف و جمال کے جو راسخ و پائیدار اور خوش منظر ہے۔ دیکھنے والے ہوں ساتھ اس کے تیرے مخلص بندے طنز پر



فَاَجْعَلْ لِيْلِي وَنَهَارِي وَكُلَّ مَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ وَرَسُولِكَ وَعَبْدِكَ

پس بنا دے تو مجھے میرے تمام شب و روز میں اور ہر اس شخص کو جو متوجہ ہو تیری طرف اور تیرے رسول کی طرف اور تیرے

الْمُخْلِصِ ذَاتَ مَنْ مَشَرَفٍ جَامِعٍ بِكُلِّ خَلْقٍ فَاضِلٍ مِّنْ كُلِّ

اس عبد مخلص کی طرف بہت بڑے اعلیٰ اور جامع احسان والے واسطے ہر فضیلت والی حصلت کے

عَالِمٍ بِالْفِعْلِ وَالْقُوَّةِ الرَّاجِحَةِ أَوْ الْمَسَاوِيَةِ أَمِينٍ طَيِّبِ سُبُوهِ

تمام جہان سے جو ان میں بالفعل ہے یا بالقوة فزنی استمداد کے ساتھ یا مساوی کے ساتھ امین طیب سبوح

الْمُنَزَّهَ وَيَأْتِدُّ وَسَّ الْقَادِرُ طَهَّرْنِي مِنْ الدَّنَسِ النَّاسُوتِيِّ فَأَنْتَ

پاکیزہ ترین۔ اے قدوس صاحب قدرت پاک فرما مجھے جہان میں سے پس تو ہی

الْمَلْقَى إِلَى الْعُلُوبِيِّ بِالْجَبْرِ وَالْقَهْرِ الْقَوِيِّ الْجَرَّارِ مِنْ مَّادَّةِ دَنِيَّةِ

القہار کرنے والا ہے طرف بندگیوں والوں کے جبر اور شدید قہر کو جو بھینچنے والا ہے انہیں زویل مادہ سے

إِلَى عَالِمِ الْقَرَارِ وَيَأْتِيًا مِّنْ كُلِّ لَوْثٍ قَوْلِي أَوْ وَهْمِي مَرَكُوبِي

طرف دار قرار کے۔ اور اے کہ پاک ہے ہر آلائش قولی اور وہمی سے جو مرکوب ہے

فِي أَبِي حَسٍّ وَاجْعَلْ قَلْبِي ثُمَّ رُوحِي عَرِيضًا عَلَى سَمَاءِ الْقُدْسِ

کسی بھی حس میں۔ اور بنا تو میرے دل کو پھر میری روح کو چڑھنے والا تقدس کے آسمان پر

وَقَدِّرْ لِي ثَمَّةً مَطْوِيَّتَيْنِ الْجِهَاتِ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْأَزْمَنَةَ

اور میرے زیر تصرف فرما اس جگہ دو سمٹی ہوئی چیزیں۔ تمام جہات بمنزلہ ایک جہت کے ہوں اور زمانے (مادی و متقبل

فِي نَهْجٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَصِيدَ الشَّهْرُ وَالْجُمُعَةُ وَالْيَوْمُ يَوْمًا وَاحِدًا

اور حال، ایک انداز و طریق حال) پر ہوں حتیٰ کہ ہو جائے مہینہ۔ ہفتہ اور دن مانند ایک دن کے

مُطْلَعًا عَلَى الْأَسْرَارِ الْغَيْبِيَّةِ الَّتِي هِيَ وَرَاءَ الْمُعَقَّقَةِ فِي الْخَلَاءِ

در آنجا نیکہ اطلاع پانے والا ہوں ان اسرار غیبیہ پر جو ماوراء ہیں بعید ترین خلاء میں

الْأَبْعَدِ مِنْ غَيْرِ أَطْرَافِ الْجِهَاتِ وَالْأَزْمَنَةَ الْمُقَيَّدَةَ بِاشْتِغَالِ

جو مکان و زمان کے حدود و اطراف سے پاک ہے جو کہ مقید ہیں بشری اشتغال کے ساتھ



البَشْرِيَّةُ الْخَامِدَةُ الْحَرَارَةُ التُّورِيَّةُ الْإِشْرَاقِيَّةُ الْمُؤَلَّفَةُ الْمُعَلَّقَةُ

جو بشریت کہ بھی ہوئی نورانی روشن حرارت والی ہے جس کی تالیف اور تعلق قائم کیا گیا ہے

بِالْهُوَائِيَّةِ الْيَبَسِيَّةِ الْمُخْتَرَةِ مَعَ الْأَرْضِيَّةِ الْكَبِيرَةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ

ساتھ مادہ ہوائیہ کے جو خشک ہے اور اس کو ملا یا گیا ہے ساتھ مادہ ارضیہ کے جو گدلا ہے اے اللہ تو ہی

تُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَا إِلَيْكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

قبول کرتا ہے دعا کرنے والے کی دعا جب وہ تیری طرف متوجہ ہو کر دعا کرے۔ اور نہیں طاقت اور قوت مگر ساتھ توفیق

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ مَنْ عَلَى الْعُظْمَةِ وَالْجَلَالِ وَاسْتَحْيِ

اللہ علی عظیم کے۔ پاک ہے وہ جو بلند و برتر ہوا ساتھ عظمت و جلال کے۔ اور باز رہے

أَصْحَابُ الْكَمَالِ مِنَ الْإِتِّصَافِ بِالتَّنْزُهِ فِي أَدْنَى نُورِهِ مِنْ فُرُوعِ

اصحاب کمال متصف ہونے سے ساتھ نزاہت کاملہ کے اس ادنیٰ کرمہ نور میں جو فروع و آثار سے

عَلَيْهِ لِأَصْلِهِ الذَّارِقِي الْمَقْدَّسِ الْمُحْرِقِ خُطُومِ الْعِبَادِ وَ

ہے اس کے اصل ذاتی مقدس نور کے جو جلا دینے والا ہے بندوں کے دوسوں کو اور

الْمَوْجُودَاتِ الْأَشْخَاصِيَّةِ وَالْأَنْوَارِ الْمَلِكِيَّةِ السُّبُوحِيَّةِ إِنَّ

موجودات شخصیہ اور انوار ملکیہ سبوحیہ کے وساوس کو اگر

نَظْرُنَ إِلَى أَوْجِهٍ عَظْمَةِ الْجَلَالِ وَالسَّائِرِينَ إِلَى الْأَحْدَاثِ

نظر کریں طرف اس کی عظمت جلال کے وجہ کے۔ اور (اس طرح) سیر کرنے والے طرف مقام احدیت کے

الْمُبْتَنِعِ السَّيْرِ إِلَيْهَا فَسُبْحَانَ مَنْ خَافَ عَنْهُ أَجْسَامُ صَلْبِيَّةٍ شَاقَّةٌ

کہ متنع ہے سیر طرف اس کے۔ پس پاک ہے وہ ذات کہ خوفزدہ ہیں اس سے سخت ٹھوس مشقت آزما اجسام

قُوَّةٍ عَلَى الْإِصْطِدَاقَاتِ وَالْإِحْتِكَكَاتِ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَهُمْ أَبْيَنُ

یعنی پہاڑ جو قادر ہیں تصادمات اور ضربات سنے پر اور ہونے والے ہیں امانت دہنی ہوئی اون کے جلال و انوار نے انکار کیا

أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَالِمٌ

تھا (امانت کا رجمہ) اٹھانے سے اور اس سے ڈر گئے تھے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے۔ اے اللہ بیشک میں اپنے نفس پر

لِنَفْسِي وَأَنْتَ الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ لَا يَحْضُرُ فِي الْقَلْبِ شَيْءٌ إِلَّا وَأَنْتَ

علم کرنے والا ہوں اور تو عالی شان، حکمت والا ہے۔ نہیں حاضر ہوتی دل میں کوئی شئی مگر تو ہی

الْفَعَالُ وَلَقَدْ أَنْشَأْتَنَا فِي النَّشْأَةِ الْأُولَى بِغَيْرِ وَسْطَاةٍ أَعْمَالِنَا

اس میں مؤثر ہے اور البتہ تحقیق تو نے پیدا فرمایا ہمیں پہلی دفعہ بغیر ہمارے اعمال اور افعال کی

وَأَكْسَابِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

وساقت کے (بلکہ محض اپنے فضل سے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَادَ جَمِيعَ الْأَنْبَاءِ وَحَقٌّ لَهُ أَنْ يُسَوَّدَ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر جو آقا کہ سردار بنے ساری مخلوق کے اور حقدار ہیں سردار بننے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَبَقَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پھوٹا

عَرَقُ الْمَجْدِ مِنْ أُرْدَانِهِ وَفَاحَ وَطَلَعَ طَالِعُ السُّعْدِ مِنْ وَجْهِهِ

پسینہ مجد و شرف کا جس محبوب کی آستینوں سے اور نمکا۔ اور طلوع ہوا ستارہ سعادت مندی کا جس کے چہرہ اقدس سے

وَلَا حَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور چمکا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي تَرَفَّى إِلَى أَعْلَى دَرَجَاتِ الشَّرَفِ وَفَاقَ شَرَفَهُ مَنْ

آل پر کہ جس نے ترقی فرمائی فضیلت کے اعلیٰ درجات تک اور فوقیت لے گیا ان کا شرف و فضل

يَأْتِي مِنَ الْأُمَمِ وَمَنْ سَلَفَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آنے والی امتوں پر اور گزر جانے والوں پر بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَاضَ بِحُرِّيَّتِهِ فَأَنْجَلَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس کریم کا بحر سخا و بخشش پر آیا تو اس نے شرمندہ کر دیا

الْأَنْهَارَ وَالْبُحُورَ وَقَدْ أَدَّ اللَّهُ جِيدَهُ أَبَدًا مِنْ دُرِّ النَّحُورِ اللَّهُمَّ

تمام دریاؤں اور سمندروں کو اور ہار سینا یا ان کی گردن میں اللہ تعالیٰ نے سینوں کو مزین کرنے والے عمدہ آنوکھے موتیوں سے۔ اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ عَادَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے رجوع فرمایا

عَلٰی قَوْمِهِ بِعَوَانِدِ جُوْدِهِ وَمَدَدِهِ وَسُلْطٰتِ عَلٰی اَعْدَائِهِ بَعْدَ دِه

اپنی قوم پر اپنے جود کی فیض رسانیوں اور مدد کے ساتھ اور مسلط کئے گئے اپنے اعداء پر اپنے کثیر تعداد و لشکروں

وَعَدَدِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

اور ساز و سامان کے ساتھ۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ طَلَعَ قَمَرُ نُورِهِ فِيْ اَفْقِ السَّمٰوٰتِ وَعَلٰى الْاَنْبِيَاءِ

پر کہ جس آقا کا ہلال نور طلوع فرما ہوا آسمان کے افق پر اور ترقی کر گیا انبیاء

وَالْمُرْسَلِيْنَ وَسَمَّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

و مرسلین (کے انبیا) سے۔ اور بلند ہوا۔ لے اللہ درود و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اسْتَخْرَجَهُ اللهُ مِنْ اَشْرَفِ عُنُقِرِهِ فِي

آل یہ کہ جس آقا کو ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرب کے شریف ترین عنصر سے۔

الْعَرَبِ وَمُرْفَعِ عَلِيٍّ مِنْ اَسْبَاطِ الْمَحٰسِنِ وَعَلَيْهِ اَنْتَضَبَ اَللّٰهُمَّ

اور بلند کیا گیا ان کے سر تاز پر خوبوں کا تاج اور انہیں پر نصب ہو گیا۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا

تَجَلَّى بِنُوْرِ حُلَّةِ السِّيَادَةِ فَتَالِهًا وَتَوَجَّهَ بِتَاوَجِ الْعِزَّةِ فَاذْرَكَ

جلوہ گر ہوئے خلعت سیادت کے نور کے ساتھ پس پا لیا اس کو۔ اور تاج پہنائے گئے عزت کا پس حال

كَمَا لَهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

کر لیا اس کے کمال کا۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ رَتَعَ فِيْ رِيَاضِ الْعِزِّ جَوَادُ عَزْمِهِ وَجَدَّ مَفْصَلِ

پر کہ چرنے لگا عزت کے سبزہ زاروں میں ان کے عزم کا رہوار۔ اور کاٹ دئے (دوروں کی)

السُّودِ دِيمُدَا مَهْ جَزْمُهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

سرورہی کے بند اور جوڑ اپنی پختگی اور ثابت قدمی کے تسلسل سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَضَاعَتْ اِلَافًا بِاَنْوَارِهِ وَاَيْنَعَتْ

اور آپ کی آل پر کہ روشن ہو گئے آفاق جس محبوب کے انوار سے اور پک کر تیار ہو گئے

ثَمَارُ الْاَسْرَارِ مِنْ يَّانِعِ اسْرَارِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اسرار کے پھل اسی کے پختہ اسرار سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ زَيَّنَ اللّٰهُ الْاَرْضَ بِدَعْوَتِهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ مزین فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس محبوب کی دعا سے

وَمَلَأَ اللّٰهُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ بِاَمَّتِهِ وَشَيَعَتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور معمور فرمایا ہے مشرق تا مغرب کو آپ کی امت اور خواص سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ سَلَكَ طَرِيْقَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا چلے عزت اور جواں مری کی

الْعِزَّةِ وَالْبَسَالَةِ وَاَشْرَقَ فِيْ وَجْهِهِ نُوْرُ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ اَللّٰهُمَّ

راہ پر اور جگمگایا ان کے چہرہ نور میں نبوت اور رسالت کا نور۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے

طَلَعَ بَدْرُ شَرْفِهِ فِيْ اَفْقِ الْمَجْدِ تَمَامًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا


فضل و کمال کا بدر تمام افقِ مجد میں طلوع فرما ہوا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ تَشَرَّفَ بِعُلُوِّ نَسَبِهِ فَزَكَّى اَخْوَالًا وَاَعْمَامًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد پر کہ جو مشرف ہو گئے نسی برتری کے ساتھ پس پاکیزہ ہو گئے نخیال اور درصیال کے لحاظ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ نَحَرَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے نوح کر ڈوال



بُدِيَّةِ الْعَزَّادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

عز و جاہ کے خیر سے اپنے دشمنوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَنْفَرَدَ بِالسِّيَادَةِ لَهَا بَلَّغَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

آل پر کہ جو محبوب مفرد ہو گئے ساتھ سیادت کے جب پہنچ گئے ہر شئی سے

قُصْدًا وَمُنَاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

اپنے مقصد اور آرزو تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ حَلَّ مِنَ الْحُبِّ وَالتَّشْرِيفِ اَعْلًا مَّرْتَبَةً

آل پر جو محبوب کہ تمکین ہوئے محبوبیت اور شرف و تفضیل کے اعلیٰ اور بلند

وَعَلِيَّاهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

تر مرتبہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَقْرَلَهُ بِالْفَضْلِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ وَالْاَنْبِيَاءِ

پر کہ جس محبوب کے فضل و شرف کا اقرار کیا آپ سے پہلے تمام رسل اور انبیاء علیہم السلام نے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کو

اَحْبَبَهُ اللّٰهُ بِاصْطِفَائِهِ وَفَضَّلَهُ اللّٰهُ عَلٰى اَوْلِي الْعَزْمِ مِنْ رُسُلِهِ

محبوب بنایا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے اچن کر اور فضیلت دی ان کو اولو العزم رسل

وَاَنْبِيَاءِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اور انبیاء پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ عَمَّ كُلَّ بَرِيَّةٍ فَضْلُهُ وَفَضَّلَهُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ رَسُوْلٍ

آل پر کہ جس محبوب کے جوہر و افضال نے احاطہ کر رکھا ہے ساری مخلوق کا اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ سے پہلے

قَبْلَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہر رسول پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی



الْمَخْصُوصِ بِالْقُرْبِ فِي الْأَنْزَالِ وَهُوَ أَفْضَلُ مَخْلُوقٍ وَ أَجَلُّ

آل پر کہ جو محبوب محض کئے گئے ساتھ قرب و منزلت کے ازل میں۔ اور ساری مخلوق سے افضل اور بزرگتر ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

سَادَ أَهْلَ السُّودِ دِوَالْكَهْمَالِ وَسَادَ أَهْلَ الْجُودِ وَالْإِفْضَالِ اللَّهُمَّ

سرور ہرئے ارباب سیادت اور اصحاب کمال کے اور آقا بنے اہل جود اور ارباب سخا کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَيْنَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مخالف کو

اللَّهُ بِهِ الْمَحَاضِرَ وَيُدْجَأُ إِلَيْهِ فِي الْمَعَادِ كُلُّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ اللَّهُمَّ

زینت دی اور پناہ حاصل کریں گے طرف انہیں کے قیامت کے دن بھی نیچو کار اور گنہگار۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَنْعُوتِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ تنہا کئے گئے ہیں

بِنَعْتِ الْجَلِيَّةِ الْعَلِيَّةِ وَالْمَوْصُوفِ بِكُلِّ صِفَةٍ رُضِيَّةٍ مَرْضِيَّةٍ

روشن اور بلند مرتبت صفات کے ساتھ اور وصف کئے گئے ہیں ہر دل نشین اور دلربا صفت کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَنَّ كُلَّ سُنَّةٍ حَسَنَةٍ وَصَنَعَ الْجَمِيلَ وَحَسَنَهُ اللَّهُمَّ

کہ جنہوں نے جاری فرمایا ہر اچھے طریقے اور روش کو اور اچھے کام کئے اور ان کی اچھائی کو اجاگر فرمایا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کے

كَلَّمَ اللَّهُ بِهِ رِقَابَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْهُ وَأَفْرَةَ الْأَقْسَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ

طہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی گردنوں میں اپنے مختلف النوع احسانات کے ہار ڈالے۔ اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَوَجَّهَ اللهُ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے

بِتَاجِ الْحِكْمَةِ وَرَحِمَ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

حکمت کا تاج پہنایا اور انہیں کی بدولت اس امت پر رحم فرمایا۔ اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے

وَرَحْمَتِكَ بِمَا سَأَلْتُكَ بِهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فضل اور تیری رحمت کا ساتھ اس انداز و اسلوب کے کہ جس کے ساتھ تجھ سے سوال کیا سیدنا محمد نے درود بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور

يُودِي الْيُودِ وَاللَّهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِي وَأَذْكَاءَكَ يَا وَدُودًا

سلام بطیفیل جنت مودود کے۔ اے اللہ بنا دے میرے دل کو اپنی محبت رکھنے والے مودود۔ اے مودود

يَا وَدُودِ الْهَيُّ اعْطِنِي وَدِّانِي قُلُوبَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ يَا وَدُودِ

اے مودود۔ اے میرے خدا مجھے عطا فرما محبوبیت ایسے مومنین بندوں کے قلوب میں۔ یا مودود

يَا وَدُودِ يَا وَدُودِ اللَّهُمَّ الْفِنْيُ شَرٌّ مِنْ كِفَايَتِهِ بِيدِكَ يَا وَدُودِ يَا

یا مودود یا مودود۔ اے اللہ مجھے کفایت فرما ان کے شر سے جن سے کفایت تیرے دست قدرت میں ہے یا مودود

وَدُودِ يَا وَدُودِ اللَّهُمَّ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِيَّ يَوْمِ عِيدِ

یا مودود۔ یا مودود۔ اے اللہ اے مالک عرش۔ اے آغاز کرنے والے ایجاد کا۔ اے دوبارہ لوٹانے والے ہیئت اولیٰ پر

يَا فَعَالَ لِمَا يَرِيدُ أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ

اے کر سکنے والے ہر اس شے کو جس کا ارادہ فرمائے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے نور ذات کے طفیل جس نے معمور کر دیا ہے

عَرْشِكَ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَّرْتَ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ

عرش اعظم کے اجزاء و حصص کو اور تیری قدرت کے طفیل کہ جس کے ساتھ تو مقتدر ہے اپنی تمام مخلوق پر اور

بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَّعَتْ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُغِيثُ اغْنِنِي

تیری رحمت کے طفیل جس نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شے کا۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی۔ اے فریادرس میری امداد فرما۔

يَا مُغِيثُ اغْنِنِي يَا مُغِيثُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ

اے فریادرس میری امداد فرما۔ اے فریادرس میری امداد فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت

وَالْعَقَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخَلْقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ

پاکبازی کا اور امانتداری کا۔ اور حسن خلق اور حسن خلق اور تقدیر پر رضامندی کا اے اللہ میں تیری حمد ساتھ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوءًا

ساتھ شہادت دیتا ہوں کہ میں کوئی معبود برحق مگر تو ہی۔ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں تیری طرف۔ میں نے برائی کا ارتکاب کیا

وَزَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنْ

اور اپنی جان پر ظلم کیا پس بخش دے مجھے کیونکہ گناہ نہیں بخشتا مگر تو ہی اور یہ کہ

تُعَافِيَنِي مِنَ الدَّيْنِ وَتُغْنِيَنِي مِنَ الْفَقْرِ وَأَنْ تَرْزُقَنِي بِرِزْقِكَ

عافیت دے مجھے قرض سے۔ اور غنا بخشے فقر و فاقہ سے۔ اور عطا کرے مجھے رزق

حَلَالًا وَسَعَاءً مُبَارَكًا فِيهِ وَأَنْ تَرْحَمَنِي وَتُعَافِيَنِي

حلال جو وسیع و با برکت ہو اور یہ کہ مجھ پر رحم فرمائے۔ اور نظر رحمت کرے اور عافیت دے

مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبَلَوَاءِ وَأَنْ تُغْفِرَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَتَرْحَمَ

بلیات سے اور آزمائشوں سے۔ اور مجھے بخشے اور میرے والدین کو۔ اور رحم فرمائے

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

مومن مردوں عورتوں پر اور مسلمان مردوں عورتوں پر جو ان میں سے بقیہ حیات میں ہیں

وَالْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا

اور جو فوت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ بخش دے میرے گناہ اور میرے والدین کے اور ان پر رحم فرما جیسے لاکھوں

رَبِّيَانِي صَغِيرًا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَ

اور درمیان ان کے نیکیوں میں۔ اے میرے پروردگار مغفرت و رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور

بَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَ

ان تَتُوبَ عَلَيْنَا وَأَنْ تُعَافِيَنَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبَلَوَاءِ مَا

ہم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرما۔ اور ہمیں عافیت عطا فرما تمام بلیات اور ابتلاات سے جو ظاہر



ظَهَرْمَنْهَا وَمَا بَطْنٍ وَأَنْ تَرْحَمْنَا وَأَنْ تَعْفُو عَنَّا وَتَغْفِرَ لَنَا وَاجْبِيعِ

ہیں یا جو مخفی ہیں اور رم فرمائے ہم پر اور درگزر فرمائے ہم سے اور مغفرت فرمائے ہمارے لیے اور

الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ تَضَرُّعًا وَآمِنٌ خَوْفًا وَتَقَبَّلْ أَعْمَالَنَا

مؤمنین کے لیے۔ اے اللہ ہماری ناریوں پر زریں فرما۔ اور ہمارے خوف کو امن سے بدل۔ ہمارے اعمال قبول فرما۔

وَأَصْلِحْ أحوالنا وَاجْعَلْ بِطَاعَتِكَ اشْتِغَالَنا وَإِلَى الْخَيْرَاتِ

اور اصلاح فرما ہمارے احوال کی۔ اور کردے ہیں اپنی طاعت کے ساتھ ہی مشغول۔ اور طرف بھلا بیٹوں کے

مَالَنَا وَحَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ أَمَالَنَا وَاخْتِمْ بِالسَّعَادَةِ أَجَالَنا هَذَا

انجام کار ہمارا اور محقق فرما ہماری آرزوؤں کو ان سے زائد عطا کرے اور انتہا تک پہنچا ساتھ ساتھ سعادت ہی کے ہماری عمروں کو۔ ہماری

ذُنُونا ظَاهِرِينَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَحَالَنَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْرًا تَنَاوَلْتَنَا

یہ عاجزی ظاہر ہے تجھ پر اور ہماری حالت نہیں مخفی تجھ پر، تو نے علم دے ہیں تو ہم نے ان کو ترک کر دیا

وَنَهَيْتَنَا فَارْتَكِبْنَا وَلَا يَسْعُنَا إِلَّا عَفْوُكَ فَاعْفُ عَنَّا يَا خَيْرَ

اور تو نے ہمیں منع فرمایا مگر ہم نے انہیں ممنوعہ امور پر عمل کیا اور نہیں ہمیں سمیٹ سکتا مگر تیرا دامن عفو پس ہم سے درگزر فرما۔ اے سب سے بہتر

مَأْمُولٍ وَأَكْرَمَ مَسْئُولٍ إِنَّكَ عَفُوٌّ غَفُورٌ رَّءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهُمَّ

مرکز امید۔ اور سب سے بزرگتر مرکز سوال۔ بے شک تو ہی درگزر اور مغفرت فرمائے والا ہے اور رافت و رحمت فرمایا والا ہے۔ اے اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي

بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مغفرت اور رحمت کا اپنے لیے اور نظر رحمت کا مجھ پر اور عافیت کا

مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُكَوَاءِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ وَالنَّازِلِ مِنَ

تمام بیات و مصائب سے جو زمین سے برآمد ہونے والے ہوں یا نازل ہونے والے ہوں

السَّمَاءِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا عَفْوَ عَنَّا

آسمان سے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ قبول فرما مجھ سے۔ پس درگزر فرما ہم سے

وَاسْتَجِبْ لَنَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِمَنْ أَحَبَبْنَا فِيكَ

اور قبول فرما ہمارے لیے۔ اے اللہ مغفرت فرما ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اور واسطے محبت رکھنے والوں کے ہم سے تیری خاطر

وَلِمَنْ أَحْبَبْنَا مِنْ أَجْلِكَ وَلَا مِمَّا صَلَّيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور جن سے ہم محبت رکھتے ہیں تیری وجہ سے اور واسطے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَكُنْ لَهُمْ وَلِنَا وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ

اے اللہ مغفرت و رحمت فرما ان کے لیے اور ہو جا تو خود ان کا ہمارا اور تمام اہل اسلام کا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

حَمِدَ اللَّهُ أَفْعَالَهَ وَأَقْوَالَهَ وَنَوَالَهَ وَأَفْضَالَهَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ستائش فرما اللہ تعالیٰ نے جس محبوب کے افعال و اقوال کی اور جو نوال کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي آيَدَاكَ اللَّهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کی امداد فرمائی اللہ تعالیٰ نے

بِجُودِهِ وَتَوَسَّرَ الْوُجُودَ بِوُجُودِهِ وَخَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ مِنْ أَجْلِهِ

ساتھ اپنے لشکروں کے اور متوسل فرمایا وجود و ہستی کو ان کے وجود و مسود سے اور موجود فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ان کے طفیل

وَأَسْبَغَ عَلَيْهِ نِعْمَةً بِفَضْلِهِ وَطَوَّلَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور ان پر انڈیل دئے اپنے انعامات اپنے فضل اور قدرت سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنْ لَا ذِيهَ مِنْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے ساتھ اگر پناہ لی

الْعَصَاةِ نَالَ الْفَوْزَ وَالتَّجَاةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عاصیوں نے بھی تو پالیا فلاح اور نجات کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْ أُمَّرِّ جَنَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَالَ

اور آپ کی آل پر کہ جو بھی قصد کرے گا اس آقا کی بارگاہ کا قیامت کے دن پالے گا

الْأَمْنَ وَالسَّلَامَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

امن اور سلامتی کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْ حَطِّ بِسَاحَتِهِ رِحَالُهُ بَلَّغَهُ اللَّهُ يَوْمَ

آل پر کہ جس نے بھی اس کریم کے در پر ڈیرے لگایے پنہا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ تیا مت

الْقِيَامَةِ قَصْدًا وَأَمَالَةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے دن اپنے مقاصد اور آرزوؤں تک۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ وَتَقَدَّاتُ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت کامل فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین کو اور جاری فرمایا

شَفَاعَتُهُ فِي الْمُنْذِرِينَ الْمَلُوثِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ان کی شفاعت کو گناہگاروں کو وہ دامنوں میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَكْفَلُ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب طاعت پر چلے ہیں اپنے طاعت گزاروں کے لیے

بِعِمِّيهِمْ شَفَاعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

شفاعت عامہ کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قُبِلَ مِنْهُ الدُّعَاءُ وَطَابَ مِنْهُ الْمَكَانُ وَ

آل پر کہ جس محبوب سے قبول کی گئی ان کی دعا اور پاکیزہ ہو گئی بسبب ان کے ان کی رہائش گاہ اور

الدُّعَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ان کا باطن۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي طَوَّقَ اللَّهُ بِهِ الْإِنَامَ مِنْتَهُ الْوَافِرَةَ الْعِظَامَ اللَّهُمَّ

آل پر کہ جس محبوب کے طفیل اللہ تعالیٰ نے طوق ڈالے مخلوق رکی گردنوں میں، اپنے وافر و عظیم احسانات کے۔

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس کے

قَدَّ اللَّهُ جَمِيعَ أُمَّتِهِ جَمِيلٌ مَحَبَّتِهِ وَمَرَأْفَتِهِ وَحَبَّبَ إِلَهُ

پا بند فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری امت کو آپ کی محبت جمیلہ کا اور اخلاص و ہمدردی کا۔ اور محبوب بنا لیا اللہ

أُمَّتَهُ فِيهِ وَنَالَهُمْ مِنْ خَيْرِ مَا لَدَيْهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

نے آپ کی امت کو آپ کی وجہ سے اور انہیں پہنچائی وہ خیر و بھلائی جو اس کے پاس ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَاقَ عَلَى النَّبِيِّينَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ فوقیت و برتری لے گئے انبیاء

وَالرُّسُلِينَ بِالشَّرَفِ وَالسِّيَادَةِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

و مرسلین پر ساتھ شرف اور سیادت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي حَقِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت

أُمَّتِهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

نازل فرمائی جنہوں نے نیک کام کئے ان کے لیے اچھی جزا جنت ہے اور مزید برآں (دیباچہ)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْأُمَّةِ الْأَعْلَامِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا امام ہیں آئمہ اعلام کے اور

الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْأَبْرَارِ وَالْأَخْيَارِ وَالْفِرْقَةِ

آپ کی آل پر کہ جو آقا آئمہ ابرار و انخیر کے امام ہیں اور بلند مرتبے والے

التَّاجِيَةِ ذِي الرَّتْبَةِ الْعَالِيَةِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نجات و فلاح پانے والے فرقہ (اہل سنت) کے مقتدا و پیشوا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ رُسُلِ اللَّهِ وَجُنُودِ اللَّهِ وَدِينِ اللَّهِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا رسل خداوندی اور اس کے لشکروں کے امام ہیں اور دین خداوندی

وَحَزْبِ اللَّهِ وَشَرْعِ اللَّهِ وَحَضْرَتِ اللَّهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

اور اس کی جماعت اور شریعت اور اس کی بارگاہ کے امام ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ أَهْلِ الْكَمَالِ وَأَهْلِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ امام ہیں اہل کمال اور ارباب

الْعَطَايَا وَالتَّوَالٍ وَالْعُدْلِ وَحَضْرَةِ الْوُصَالِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ

عطا و نوال کے اور اصحاب عدل اور بارگاہ وصال اور اہل فضائل کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا امام

حَضْرَةِ الْمَشَاهِدَاتِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَهْلِ الطَّاعَةِ وَالسِّيَادَةِ

و مقتدا ہیں مشاہدات کے مقام میں اور جماعت (مشاہدین) کے اور مقتداؤں اور سرداروں کے

وَالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ وَإِمَامِ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور اہل سعادت اور حقداران شہادت کے اور امام ہیں (اللہ تعالیٰ کی) بارگاہ مقدسہ کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْأَتْقِيَاءِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو امام ہیں متقیوں کے

وَأَهْلِ التَّحْدِيثِ وَأَهْلِ الْبَلَدِ وَأَهْلِ الْعِرْفَانِ فِي حَضْرَةِ

اور امام کئے جانے والوں کے۔ اور احکام خداوندی پہنچانے والوں کے اور اہل عرفان کے انسان کامل کی

الْإِنْسَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بارگاہ میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ إِمَامِ أَهْلِ الْهُدَىٰ وَالرُّسُلِ وَخَطِيبِهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو آقا کہ امام ہیں اہل ہدئی اور رسل کلام کے اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام و خطاب کرنے والے ہیں اے اللہ صلوات و

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ جَامِعِ الْإِنْسِ

بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ امام ہیں انس

وَالنَّاسِ وَالْإِخْتِصَاصِ وَالْمَلَائِكَةِ الْإِبْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور انسانوں کی اور اختصاص و ملائکہ ابرار کی جامع (مسجد) کے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ حَضْرَةِ الشَّاهِدِينَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا امام ہیں اہل شہود کے مقام مشاہدہ کے

وَالصَّادِقِينَ وَالْمُصَدِّقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور اہل صدق و تصدیق کے - اور صدیقین کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب ملت اسلامیہ اور

وَالْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آئمہ اسلام کے امام و مقتدا ہیں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِمَامِ الْفَضْلِ وَأَهْلِ

آپ کی آل پر جو آقا امام ہیں دنیا و آخرت میں - اور امام ہیں فضلاء اور

الْمَجْدِ وَالْعُلَى وَالصَّفَا وَالْحِلْمِ وَالْوَفَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

بزرگی و برتری والوں کے اور اہل صفا اور ارباب علم و وفا کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ مِحْرَابِ حَضْرَةِ الْحَقِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب امام ہیں بارگاہ حق کی عبادت گاہ کے

وَإِمَامِ الْخَيْرِ وَابْنَةِ الْأَنْبَاءِ وَالْكَرَمِ وَالْجُودِ وَالشَّيْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور خیر و بھلائی کے اور مخلوقات کے آئمہ کے امام ہیں اور ارباب جود و کرم کے اور اعلیٰ نسلوں والے حضرات کے - اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْحَضْرَاتِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ امام ہیں کامل

الْكَامِلَةِ وَأَهْلِ الْعَنَايَةِ وَالذَّرَايَةِ وَالتَّوْحِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بارگاہوں کے - اور اہل عنایت - اور ارباب درایت و کیاست اور اہل توحید کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْمُرْسَلِينَ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ مرسلین کے امام ہیں اور

أَهْلَ الْجَنَّةِ عِبَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ کے مومن جنتی بندوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْمُخْلِصِينَ وَالْمُوقِنِينَ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب امام ہیں اہل اخلاص و ایقان کے اور

الصَّابِرِينَ وَالْمُؤَيَّدِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَائِمِينَ

ارباب صبر کے۔ اور اسلام کی تائید و استحکام کی سعی کرنے والوں کے۔ اور اہل اسلام و ایمان کے اور حق و صدق کیساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ

تمام رہنے والوں کے اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب امام و مقتدا ہیں

أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَذُرِّيَّةِ السَّلَامِ إِمَامِ الْخَوَاصِّ وَأَهْلِ الْإِخْلَاصِ اللَّهُمَّ

اہل اسلام اور دارالسلام کے اور خواصان خداوند تعالیٰ اور اہل اخلاص کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْأَثَمَةِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب آئمہ

الْمُكْرَمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُؤَقِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

مکرمین کے امام ہیں اور عبادت گزاروں کے اور اہل استغفار کے اور اہل توفیق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْمَجَاهِدِينَ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ امام ہیں مجاہدین

وَالْمُهَاجِرِينَ وَالزَّاهِدِينَ وَالْمُهْتَدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مہاجرین اور زاہدین کے اور ہدایت یافتہ حضرات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْأُمَمِ وَالْعَرَبِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا امام ہیں تمام امتوں کے اور عرب و

الْعَجَمِ وَإِمَامِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَالْفَضْلِ وَالْعُرْفَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ

عجم کے اور اہل ایمان اور ارباب فضل و عرفان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُبِيْنِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ (دین) مبین کے امام ہیں

وَ اِمَامِ الثَّقَلَيْنِ وَ اَيُّمَّةِ الثَّقَلَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

اور جنوں انسانوں کے مقتدا اور ان کے مقتداؤں کے مقتدا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ اَوْلِيَّائِكَ وَ حَضْرَتِكَ اَللّٰهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ تیرے دوستوں کے امام ہیں اور تیری بارگاہ میں باریاب سعادتمندوں کے امام ہیں۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ

اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ امام ہیں مقرران بارگاہ خداوندہ تعالیٰ کے

وَ الطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّاهِرِيْنَ وَ الْفَائِزِيْنَ وَ التَّوَابِيْنَ وَ النَّاصِحِيْنَ وَ

اور طیبین و طاہرین کے۔ اور اہل فلاح کے۔ اور اہل فلاح کے۔ توبہ کرنے والوں اور اہل اخلاص کے۔

الْمُفْلِحِيْنَ وَ الرَّاٰعِيْنَ وَ السَّاجِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

کامیاب۔ اور رکوع و سجود کرنے والے لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الدَّاكِرِيْنَ وَ التَّابِعِيْنَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا امام ہیں اہل ذکر اور متابعت کرنے والوں کے

وَ الْخَاشِعِيْنَ وَ الْخَاضِعِيْنَ وَ الْخَائِفِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اور ارباب خستوع و خضوع کے۔ اور اللہ کا خوف کھانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ الْمُتَّقِدِيْنَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب اہل تقویٰ۔ اہل سبقت

وَ الْمُحْسِنِيْنَ وَ الرَّاٰغِبِيْنَ وَ اِمَامِ اَهْلِ التَّحْقِيْقِ وَ التَّوْفِيْقِ اَللّٰهُمَّ

اور ارباب احسان کے امام ہیں اور رغبت الی اللہ رکھنے والوں کے اور اہل تحقیق و توفیق کے امام ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا امام ہیں

الْحَرَمَيْنِ وَالْقِبْلَتَيْنِ وَإِمَامٍ مِّنَ اتَّقَى وَأَصْلَحَ وَمَنْ تَجَاوَزَ

حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اور بیت المقدس اور بیت اللہ شریف کے اور امام ہیں اہل تقویٰ اور مسلمین کے اور اہل نجات و

أَفْلَحَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فلاح کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

إِمَامٍ الْوَاصِلِينَ وَالْمُتَعَبِّدِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالْعَالَمِينَ وَ

محبوب امام ہیں واصلین بارگاہ خداوند تعالیٰ کے اور عبادت میں سعی و کوشش کرنے والوں کے اور صلحاء اور اہل علم

الْعَامِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

و عمل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ إِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّاهِبِينَ وَالْمُوحِدِينَ

آل پر جو محبوب کہ امام ہیں اہل شفاعت اور اہل تقاعدت کے اور اہل خوف اور ارباب توحید کے

اللَّهُمَّ إِنَّكَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ وَدَائِمٌ لَا تَفُوتُ وَخَالِقٌ لَا تُخْلَقُ

اے اللہ بے شک تو زندہ ہے ہرگز نہیں مرے گا اور دائم ہے کبھی فوت نہیں ہوگا اور خود دو مردوں کو پیدا کرنے والا ہے (لہذا پیدا کئے جانے

وَسَمِيعٌ لَا تَشُكُّ وَبَصِيرٌ لَا تَرْتَابُ وَرَبٌّ لَا تُعَابُ وَشَاهِدٌ لَا

سے بالاتر ہے اور سمیع ہے شک سے بالاتر ہے۔ اور بصیر ہے۔ ریب و تردد سے پاک ہے اور پالنے اور پروان چڑھانے والا ہے عیب سے میرا ہے۔ عاقل ہے

تَغِيْبٌ وَآبِدِيٌّ لَا تَفْقَدُ وَلَا تَنْفَدُ وَصَادِقٌ لَا تُكْذَبُ وَقَاهِرٌ

غائب ہونے سے پاک ہے۔ اور ابدی ہے معدوم اور فنا ہونے سے پاک ہے۔ سچا ہے جھوٹ سے پاک ہے۔ غالب و قاہر ہے

لَا تُغْلَبُ وَقَرِيبٌ لَا يُبْعَدُ وَقَادِرٌ لَا تُضَارُّ وَغَافِرٌ لَا تُظْلَمُ

مغلوب ہونے سے پاک ہے۔ قریب ہے بعید ہونے سے بالاتر ہے صاحب قدرت ہے ضرور نے جانے سے پاک ہے اور بخشنے والا ہے

وَصَبَدٌ لَا تُطْعَمُ وَقَيُّومٌ لَا تَنَامُ وَمُجِيبٌ لَا تُسَامُ وَجَبَّارٌ لَا

ظلم کئے جانے سے بالاتر ہے۔ اور بے نیاز ہے احتیاج طعام سے منزہ ہے اور ارض و سما کو قائم رکھنے والا ہے نیند سے پاک ہے دعا قبول کرنے والا ہے ملال سے

تُكَلَّمُ وَعَلِيمٌ لَا تُرَامُ وَعَالِمٌ لَا تُعْلَمُ وَقَوِيٌّ لَا تُضْعَفُ وَعَظِيمٌ

منزہ ہے اور جابہ سے کراس سے کلام کی جرأت نہیں کی جاسکتی اور ظاہر و باطن کا اجناسے والا ہے اسکو دھوکا دینے کا ارادہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور علم اس کا متصلے ذات ہے

لَا تُوصَفُ وَدَنِي لَا تَخْلِفُ وَعَدْلٌ لَا تَحِيفُ وَغَنِيٌّ لَا

اسے تعب نہیں دی جاسکتی۔ ایسا قوت والا ہے کہ صنعت پذیر میں ہو سکتا اور اتنا عظیم کہ مخلوق کی توصیف سے بالاتر۔ ایسا وفا والا کہ کھلتا وعدہ نہیں کرتا اور سراسر عدل

تَفْتَقِرُ وَمَعْرُوفٌ لَا تُنْكِرُ وَكَبِيرٌ لَا تَعْدِرُ وَحَكَمٌ لَا تَجُورُ وَ

جو رے سے پاک۔ ایسا غنی کہ فقر و احتیاج سے پاک۔ ایسا جانا پہچانا کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا اور بڑا حق والا جو عمدہ شکنجہ نہیں کرتا اور ایسا حاکم کہ ظلم نہیں کرتا اور

مَنِيعٌ لَا تُقْهَرُ وَوَكِيلٌ لَا تَخْفِرُ وَغَالِبٌ لَا تُغْلَبُ وَوَتْرٌ لَا

بند مرتبت کہ مقهور نہیں ہو سکتا۔ اور کارساز کہ ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اور ایسا غالب جو مغلوب نہیں ہو سکتا اور بہتیا کہ کسی کا تابع امر نہیں اور

تَسْتَأْمِرُ وَفَرْدٌ لَا تَسْتَشِيرُ وَوَهَّابٌ لَا تَمَلُّ وَسَرِيعٌ لَا تَذْهَلُ

بیگانہ کہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں۔ بخشش و عطا والا کہ دینے سے مل نہ ہو۔ اور جلدی (حساب لینے والا کہ سہو و ذہول سے اور

وَلَا تَضِلُّ وَحَلِيمٌ لَا تَعْجَلُ وَجَوَادٌ لَا تَبْخُلُ وَعَزِيزٌ لَا تَذَلُّ

بھولنے سے پاک ہے۔ برو بار کہ عقوبت میں جلدی نہیں کرتا۔ ایسا صاحب جو د عطا کہ بخل سے پاک اور ایسا عزت والا کہ ذلت سے منزہ

وَقَائِمٌ لَا تَنَامُ وَحَافِظٌ لَا تَغْفُلُ وَمُحْتَجِبٌ لَا تُرَى وَدَائِمٌ

قائم و دائم کہ سونے سے پاک۔ اور محافظ کہ غفلت سے پاک اور ایسا پوشیدہ (بوجہ کمال طور) کہ دیکھا نہیں جاسکتا اور دائم

لَا تَزُولُ وَبَاقٍ لَا تَبْلَى وَوَاحِدٌ لَا تُشَبِّهُ وَمُقْتَدِرٌ لَا تُنَازِعُ

جو زوال سے پاک ہے۔ اور ہمیشہ رہنے والا ہے بوسیدہ اور ضعیف نہیں ہو سکتا۔ بیگانہ کہ کسی سے تشبیہ نہیں دیا جاسکتا۔ اور صاحب اقتدار جس سے نزاع نہیں کیا

وَمَلِكٌ لَا تَزُولُ يَا كَرِيمُ الْجَوَادُ الْمُكْرَمُ يَا قَرِيبُ الْمَجِيبُ

جاسکتا اور شہنشاہ کہ زوال پذیر نہیں (تیری سلطنت)۔ اے کریم صاحب جو دو اکرام۔ اے قریب قبول کرنے والے بلند

الْمُتَعَالَى يَا جَلِيلُ الْمُتَجَلَّلُ الْمُتَجَمِّلُ يَا سَلَامُ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيَّمِ

شان اے صاحب جلالت جلال کامل اور جمال کامل کا اظہار کرنے والے۔ اے سلامتی دینے والے۔ امان دینے والے نگہبان

يَا عَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُتَجَبِّرُ يَا ظَاهِرُ الظُّهُورِ الْمُظْهِرُ يَا طَاهِرُ

اے عزیز جبار کبریا فی مطلقہ اور جبر کامل کا اظہار کرنے والے۔ اے ظاہر و سراسر ظہور اور ظاہر کرنے والے۔ اے ظاہر

الظُّهُورِ الْمُطَهَّرِ الْمُتَطَهَّرِ يَا قَاهِرُ الْقَادِمِ الْمُقْتَدِرِ يَا عَزِيزُ الْمَعْرِفِ

سراسر ظہور اور اچھی طرح پاک کرنے والے اور ذاتی طہارت کامل کا اظہار کرنے والے۔ اے قاہر قادر اور صاحب اقتدار۔ اے عزیز۔ اے عزت دینے والے

الَّتَعَزُّزُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور عزت غالبہ والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي فَاقَتْ هِمَّتُهُ جَمِيعَ الْهَيْمِ وَعَلِمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ

آل پر کہ جس آقائے خلق کی ہمت تمام کی ہمتوں سے فائق ہوگئی اور سکھایا انہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی انہوں نے

يَكُنْ يَعْلَمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

(اس سے قبل) انہیں جانا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَادَ جَبْرَيْئِيلُ بِرِمَا مَنَا قِتِهِ وَكَاشَرَ كُهُ

آل پر کہ جس آقا کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر چلے روح الامین اور نہ شریک ہوا ان کے ساتھ

أَحَدٌ فِي عُلُوِّ جَلَالَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کوئی بھی ان کی بلندئی درجات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنْزَرُهُ شَامِخُ عِزِّهِ عَنِ

اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کی کوہ و قار عزت منزه رہی

النَّقْصِ وَالشُّلُوبِ وَثَبَتَ رَأْسُهُ مَجْدُهُ بِالذَّاتِ وَالْوُجُوبِ

نقص اور عیوب سے اور ثابت و راسخ رہی ان کی بزرگی ان کے مرتبہ ذات میں بطریق واجب و لازم کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الْقَائِمِ فِي الْمَلِكِ بِشُرْعِهِ وَجَلَالِهِ وَالرَّاحِمِ فِي

جو آقا قائم کرنے والے ہیں ملک خداوند تعالیٰ میں اس کی شریعت اور جلال کو اور رحم کرنے والے ہیں

الْمَلَكُوتِ بِرَحْمَتِهِ وَجَمَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تمام ملک میں اللہ کی رحمت اور شان جمال کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَانَ كُلُّ ذَخِرٍ غَيْرِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے جمع کر لیا ہر خضر کو بلا شرکت

مُشْتَرِكٍ وَحَلَّ مَنَزِلَةً مَّا حَلَّهَا نَبِيُّ وَلَا مَلِكٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

غیرے۔ اور قیام پذیر ہوئے اس مقام میں کہ جہاں کوئی نبی اور فرشتہ قدم رکھ سکا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کے

عَلِقَ اَهْلُ الْمَجْدِ بِنَوَالِهِ وَاَقْتَبَسَ اَهْلُ الْكَمَالِ مِنْ كَمَالِهِ

بجود نوال کے ریزہ خوار بنائے گئے اہل مجد اور انھیں سے خیرات کی کمال کی اہل کمال نے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

ذَاتِ الْعِزِّ وَالْمَجْدِ وَالْمُجِيبِ لِمَنْ دَعَاهُ فِي الرَّخَاءِ وَالشَّدَاةِ

کہ جو آقا عزت و مجد والے ہیں اور نیاہ دینے والے ہیں اپنے پکارنے والے کو فراخی اور سختی میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي اِيْدَى بِرُوحِ الْاِيْمَانِ الرُّوحَانِيَّ وَرُوحِ جُنْثَمَانَ الْاِمَانِيَّ

کہ جس محبوب کی تائید کی گئی ساتھ ایمان روحانی کی روح کے اور آرزوؤں کے اجمام کی روح سے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

الْاَعْظَمِ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ كُلِّ مَعْظَمٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

آل پر جو آقا کہ اللہ کے ہاں عظیم تر ہیں ہر عظمت والے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَاعَفَ اللّٰهُ لَهُ ثَوَابَهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کے لیے کئی گنا بڑھایا اللہ تعالیٰ نے ثواب کو

وَيَسِّرَ اللّٰهُ لِكُلِّ خَيْرٍ اَسْبَابَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اور آسان فرمایا ان کے لیے ہر خیر کے اسباب کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ لِنَقُضَ الْكُفْرَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقائے نامور کو ارسال فرمایا اللہ تعالیٰ نے کفر کے تار تار کرنے اور

حَلِّهِ وَنَادَتْ مُعْجَزَاتُهُ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ اللَّهُمَّ

اس کے مٹانے کے لیے اور اعلان فرمایا ان کے معجزات نے "فرما دیجئے اے اُو مخقر ہی سورت اس قرآن کی سورت جیسی اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ

كَانَ اللَّهُ لَهُ عَوْنًا وَمُعِينًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس محبوب کا معاون اور مددگار ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ خَاتَمَ النَّبِيِّاتِ بَيْنَ كِتْفَيْهِ

اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کی مرتبوت ان کے کندھوں کے درمیان تھی

وَكَانَ رُوحُ الْقُدُسِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور روح القدس ان پر نازل ہوتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصَلَّىٰ فِي مَحْرَابِ جَمْعِ الْجُمُعِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا نماز ادا کرنے والے ہیں مقام جمع الجمیع کی عبادتگاہ میں

وَالْمَعْصُومِ بِالضَّرُورَةِ وَالْقَطْعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور جن کا معصوم ہونا ضروری اور قطعی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُيِّدَ بِالآيَاتِ وَالسُّورِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کی تائید کی گئی ہے آیات اور سورتوں کے ساتھ

وَعَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور اعلان مغفرت فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے (مزعومہ) سابقہ ذنوب کا اور (مزمومہ) لاحقہ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَمَعَ وَجُودًا

بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے اپنے اندر جمع کر لیا بزرگی



الْكَرَامَةِ وَأَنْوَاعِ السَّعَادَةِ وَمَلَكَ أَسْتَاتِ الْإِنْعَامِ فِي الدَّارِ بَيْنِ

اور سعادت مندی کے جملہ اقسام کو اور مالک ہو گئے مختلف انواع کے انعامات کے دارین میں

وَالزِّيَادَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور مزید کے لئے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَفَقَّتُ مِنْهُ عُرُوسُ الْحَقَائِقِ وَلَمْ

آل پر کہ جس آقا سے نمودار ہوئے مزین حقائق اور نہ پا سکا ان کے درجات و مراتب کو

يُدْرِكُهُ سَابِقٌ وَلَا آخِرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کوئی پہلا اور نہ پچھلا۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْرَقَتْ فِي الْأَفَاقِ أَنْوَارُهُ وَ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جگمگائے آفاق میں انوار اس محبوب کے اور

طَابَتْ فِي الْمَسَامِعِ أَحَادِيثُهُ وَأَخْبَارُهُ اللَّهُمَّ يَا مَنْ بَيَّدَهُ

شیریں و پاکیزہ ہوئیں کانوں میں احادیث اور اخبار ان کی۔ لے اللہ لے کر اس کے دست قدرت میں ہیں

خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَّ يَا مَنْ نَعِمَةٌ لَا تُحْصَى

سموات و ارض کے خزانے۔ لے اللہ لے کر جس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا

وَأَمْرُهُ لَا يُعْطَى وَنُورُهُ لَا يُطْفِئُ وَلَطْفُهُ لَا يَخْفَى وَيَا مَنْ

اور جس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی۔ اور اس کا نور بجھایا نہیں جاسکتا اور اس کا لطف مخفی نہیں رہ سکتا۔ لے کر جس نے

فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى وَأَخِي هَارُونَ إِذْ يَمُرُّ الْفَارِغَةَ وَجَعَلَ النَّارَ بَرْدًا

پھاڑا موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو اور مردے زندہ کئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور کر دیا آگ کو ٹھنڈک

وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور سلامتی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَأَجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرْجًا وَمَخْرَجًا يَا مَنْ يُنَادِيكَ

اور بنا میرے لیے میرے امر سے کشائش اور راہ خلاص۔ لے کر جسے پکارتے ہیں

السَّادُونَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ وَمِنْ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ وَأَقْعَارِ

پکارنے والے ہر گہرے راستے سے اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے اور سمندروں کی

الْبَحَارِ وَأَوْكَارِ الطُّيُورِ بِاللِّسِنَةِ شَتَّىٰ وَلُغَاتٍ مُّخْتَلِفَةٍ وَحَوَائِجِ

گہرائیوں سے اور پرندوں کے گھونسلوں سے مختلف زبانوں کے ساتھ مختلف لغات میں اور ہر قسم کے حاجات میں

أُخْرَىٰ يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ يَا مَنْ لَا يَشْغَلُكَ

اے کہ جسے مشغول نہیں کر سکتی ایک حالت دوسری حالت سے۔ اے کہ جسے مشغول نہیں کر سکتی

شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ أَنْتَ الَّذِي لَا تُغَيِّرُكَ الْأَثْرُ مِنْهُ وَلَا تُحِيْطُ

ایک شئی دوسری شئی سے تو ہی ہے کہ جسے زمانے متغیر نہیں کر سکتے اور نہ مکان تیرا احاطہ

بِكَ الْأَمْكِنَةُ وَلَا تَصِفُكَ إِلَّا لِسِنَةٌ وَلَا يَأْخُذُكَ نَوْمٌ وَلَا

کر سکتے ہیں اور نہ زبانیں تیری توصیف کر سکتی ہیں اور نہ اپنی پھیلنے میں لے سکتی ہے نیند اور نہ

سِنَةٌ وَلَا يَشْبِهُكَ شَيْءٌ وَكَيْفَ لَا تَكُونُ كَذَلِكَ وَأَنْتَ

اونگھ۔ اور نہ مثاہب ہے تیرے کوئی شئی۔ اور کیونکر تیری یہ شان نہ ہو حالانکہ تو ہی

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ الْكَرِيمَ

ہر شئی کو عدم وجود میں لانے والا ہے۔ اور ہر چیز مرتبہ ذات میں فانی ہے سوائے تیری ذات کے

سُبُوْحٌ ذَكَرَكَ قَدْ وُسَّ أَمْرُكَ وَاحِدًا حَقُّكَ نَافِذٌ قَضَائِكَ

پاکیزہ ہے ذکر تیرا، مقدس ہے امر تیرا۔ شرکت سے منزہ ہے حق تیرا، نافذ ہے قضاء تیری

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي مِمَّا أَرْجُو مِنْكَ وَأَصْرِفْ عَنِّي مَا أَخَافُ

اور آسان فرما میرے لیے وہ امور جن کی تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ اور پیچھے دے مجھ سے جس سے میں اندیشہ رکھتا ہوں

عَنْهُ بِصَرْفِ حَرْفٍ يُسْرِمَهَا أَخَافُ عُسْرَتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

بدلہ میں دینے حرف یسر کے اس سے جس کی عسرت سے غائف ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكُلِّ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سب کے سردار ہیں

فِي الْكُلِّ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَشَرَفِ شَرَّافِ الْأَوْصَافِ بِحَرَمَتِهِ

سب زمانوں میں، اشراف کے سردار ہیں۔ اور اعلیٰ اوصاف کیلئے سراپا شرف ہیں (صلوٰۃ نازل فرما) بطفیل انہیں کی حرمت

وَقَبُولِهِ وَشَرَفِهِ اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنِّي مَا أَخَافُ ضَيْقَتَهُ اللَّهُمَّ

وقبولیت اور شرف کے۔ اے اللہ دور فرما مجھ سے جس کی تنگی سے میں خائف ہوں۔ اے اللہ

يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَسَهِّلْ لِي مَا أَخَافُ حَزُونَكَ سُبْحَانَكَ

آسان فرما اور تنگی نہ فرما اور آسان فرما میرے لیے جس کی درستی سے میں خوفزدہ ہوں۔ پاک ہے تو

اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

اے اللہ اور تیری حمد کے ساتھ مصروف ہیں، نہیں معبود برحق مگر تو ہی، تو پاک ہے۔ بیشک میں

الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ

ظلم کرنے والوں سے ہوں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لُبَابِ اللَّبَابِ وَأَكْرَمِ نَبِيِّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ

آل پر جو کہ خلاصہ ہیں خالص و مخصوص بندگان خداوند تعالیٰ کے اور انتہائی عزت والے نبی ہیں نازل کی گئی ہے ان پر

أَفْضَلُ كِتَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

سب فضیلت والی کتاب۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَشَاةِ الْأُمْدَادِ وَنُقْطَةِ دَائِرَةِ الْاِسْتَوَاءِ

آل پر جو وسیلہ فریغ ہیں امداد موصول ہونے کا۔ اور مرکز ہیں استواری اور بھلائی کے

وَالرَّشَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ

دائرہ کا۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعَّةِ الْجُودِ وَالْمَنَابِحِ وَأَفْضَلِ غَاذٍ وَخَيْرِ

آل پر جو محبوب کہ سرچشمہ ہیں جود و عطیات کا۔ اور افضل ترین ہیں صبح آنے والوں سے اور بہترین ہیں



رَأَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تھچھلے وقت آنے والوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي افْتَخَرَتْ بِهِ الرِّسَالَةُ وَتَعَزَّزَتْ بِهِ وَفَاقَتْ بِهِ مَنَاقِبَ

کہ جس محبوب پر فخر کیا رسالت نے اور عزت پائی ان کے بدولت اور بلندوں پر پہنچے بسبب ان کے مناقب

النَّبُوَّةِ وَغُلِقَتْ بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نبوت اور انہیں کے ذریعے بند کئے گئے از سر نو پیدا کئے جانے سے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَتَهُ وَكَمَّلَ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور کامل کر دیا

اللَّهُ لَهُ دِينُهُ وَمِلَّتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا دین اور ان کی ملت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خُصَّ بِبَدَائِعِ الْحِكْمِ وَيُعْرَفُ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو مخصوص ٹھہرایا گیا ہے انوکھی حکمتوں کے ساتھ اور نمایاں کر دی جائیگی

أُمَّتَهُ بَيْنَ الْأُمَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان کی امت دوسری امتوں کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَلَّ لَهُ اللَّهُ الْحَقِيقَةَ وَأَظْهَرَ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا (اسرار) حقیقت کو اور ظاہر کیا

اللَّهُ صِدْقَهُ لِلْخَلِيقَةِ وَتَصَدَّقَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اللہ تعالیٰ نے ان کا صدق اور تصدیق ساری مخلوق پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ اللَّهُ لَهُ حَافِظًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ حافظ

وَنَاصِرًا وَأَصْبَحَ بِهِ الْإِسْلَامُ لِلْكَفْرِ قَاهِرًا اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ

و ناصر ہے۔ اور انہیں کی بدولت اسلام کفر پر غالب ہوا۔ اے اللہ بیشک میں تیرا بندہ ہوں



وَابْنُ أُمَّتِكَ جَمِيعِ الْخَلْقِ مَقْهُورُونَ بِقُدْرَتِكَ وَتَوَاصِيهِمْ

اور تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ ساری مخلوق تیری قدرت کے تحت مغلوب ہے اور سب کی پیشانیاں

بِيَدِكَ وَقُلُوبُهُمْ فِي قَبْضَتِكَ وَمَفَاتِيحُهُمْ عِنْدَكَ لَا تَتَحَرَّكَ

تیرے دست قدرت میں ہیں۔ اور ان کے دل تیرے قبضے میں ہیں اور سب (خزائن) کی چابیاں تیرے پاس ہیں نہیں حرکت

ذَرَّةً إِلَّا بِإِذْنِكَ لَيْسَ مَعَكَ بَرٌّ فِي الْخَلْقِ وَلَا شَرٌّ لَكَ فِي

کرتا کوئی ذرہ مگر تیرے اذن سے، نہیں ہے تیرے ساتھ احسان کرنے والا مخلوق میں۔ اور نہ کوئی شریک ہے ملک

الْمَلِكِ يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ رَبَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

میں تیرے لیے۔ اے معبود اولین و آخرین کے۔ اے رب ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے

وَجِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ تَوَسَّلْتُ إِلَيْكَ بِأَسْمِكَ الْعَظِيمِ وَ

اور جبرئیل و میکائیل علیہما السلام کے میں نے وسیلہ پکڑا ہے تیری بارگاہ میں ساتھ تیرے اسم عظیم اور

بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِدِينِكَ الْقَوِيمِ وَبِصِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ

وجہ کریم کے اور ساتھ تیرے مستکم دین کے اور صراط مستقیم کے۔

وَبِسَبْعِ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبِأَلْفِ أَلْفِ قُلُوبِ اللَّهِ

اور ساتھ سبع مثنائی (فاتحہ کی سات آیات کے) اور قرآن عظیم کے۔ اور ہزار در ہزار قلوب ہر اللہ

أَحَدٌ وَبَيْتِكَ الْحَرَامِ وَبِأَسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْقَدِيمِ

احد کے۔ اور تیرے بیت حرام اور عظیم و اعظم، قدیم و اکرم

الْأَكْرَمِ الْمُكْرَمِ الَّذِي أَخْفَيْتَهُ فِي كِتَابِكَ الْعَزِيزِ الَّذِي أَنْارَتْ

اور مکرم نام کے ساتھ جس کو مخفی کر دیا ہے تو نے اپنی کتاب عزیز میں جس کی بدولت نور سے

بِهِ الظُّلُمَاتُ وَأَقَامَتْ بِهِ السَّمَوَاتُ وَخَضَعَتْ بِهِ الْأَقَالِيمُ

بدل گئیں ظلمتیں اور برپا ہوئے سب آسمان اور سرنگوں ہوئیں اقالیم

وَالْأَفلاكُ وَذَلَّتْ بِهِ الْأَرْضُونَ وَأَخْضَعَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَ

اور افلاک اور تاج ہوئیں زمینیں اور مانند پڑ گئیں حرکتیں شیاطین کی بظہیر اُس کے۔ اور

انْفَتَحَتْ بِهِ الْأَقْفَالُ وَتَصَدَّعَتْ مِنْ خَشْيَتِهِ الْجِبَالُ وَلَا أَنْتَ

کھل گئے بسبب اس کے بند قفل۔ اور پھٹ پڑے اس کے خوف سے پہاڑ۔ اور نرم ہو گئے

بِهِ الصُّخُورُ وَهَانَتْ بِهِ صِعَابُ الْأُمُورِ وَذَلَّ مِنْ خَشْيَتِهِ

بسبب اس کے سخت پتھر۔ اور نرم ہو گئے بسبب اس کے سخت امور۔ اور تالچدار ہو گیا بسبب اس کے خوف

كُلُّ ذِي رُوحٍ وَسَلِمَتْ بِهِ سَفِينَةُ نُوحٍ وَتَكَلَّمْتُ بِهِ الْمَوْتَى

ہر ذی روح اور سلامت رہی بسبب اس کے نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اور کلام کیا بسبب اس کے مردوں

لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ

نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے ساتھ۔ اور مسخر کر دیا تو نے عرب و عجم کو بسبب اس کے

لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَجَبْتُ بِهِ الدُّعَاءَ وَ

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور قبول کیا تو نے بسبب اس کے دعا کو اور

أَنْقَذْتَ بِهِ الْغُرُقَى وَأَنْجَيْتَ بِهِ الْهَلَكَى وَأَحْرَسْتَ بِهِ

بچا یا بسبب اس کے غرق ہونے والوں کو۔ اور نجات دی ہلاکت سے دوچار ہونے والوں کو اور نگہبانی کی

الْأَلْسُنَ وَبِهِ تُعَزَّمُنْ تَشَاءُ وَتُدَالُّنْ مَنْ تَشَاءُ تَوَسَّلْتُ إِلَيْكَ

زبانوں کی بسبب اس کے اور بسبب اس کے عزت دیتا ہے تو جسے چاہے اور حقیر کرتا ہے جس کو چاہے۔ وسیلہ بگاڑا میں نے تیری طرف

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِحَفِي لُطْفِ اللَّهِ وَبِجَمِيلِ سِتْرِ اللَّهِ دَخَلْتُ فِي

لے جی۔ لے تیوم ساتھ غیر گیری کرنے والے لطف خداوندی کے۔ اور ساتھ خوبصورت پردے خداوند تعالیٰ کے۔ میں داخل ہوا

كَتَفِ اللَّهِ وَتَشَفَّعْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ أَنَا فِي حِصْنِ اللَّهِ أَنَا فِي ذِقَةِ

اللہ تعالیٰ کے پہلوئے رحمت میں اور شفاعت حاصل کی رسول اللہ کی۔ میں اللہ تعالیٰ کے قلعہ میں ہوں۔ میں اس کی ذمہ داری میں

اللَّهُ أَنَا فِي قَبْضَةِ اللَّهِ وَلَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ لَخَلْقِ

ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوں اور نہیں پھیرتا بلانی یا شدت کو مگر اللہ تعالیٰ۔ اور نہیں طاقت مخلوق کیلئے (میری ضرورت رسانی کی)

إِذَا كُنْتُ مَعَ اللَّهِ وَحَمْدُ كُلِّ جَبَّارٍ بِسُطُوَةِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا

جب کہ اللہ کی معیت میں ہوں۔ اور ستائش کی ہر جبار نے اللہ کی سطوت کی۔ ماشاء اللہ۔ نہیں



قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ط الْخَيْرُ كُلُّهُ ط بِيَدِ اللَّهِ ط وَلَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهُ ط اللَّهُمَّ

توت مگر ساتھ اللہ کے، تمام خیر اور بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور نہیں غالب مگر اللہ۔ اے اللہ

أَحْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَكُنْفُنَا بِكَنْفِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَ

ہماری نگرانی فرما اپنی نگاہ عنایت سے جو نیند سے پاک ہے اور جگہ عطا فرما اپنے پہلوئے رحمت میں سے کہ جس کا کوئی قصد نہیں کر سکتا اور

أَرْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

رحم فرما ہم پر ساتھ اپنی قدرت کے، بیشک تو ہر چیز پر ہمیشہ کے لیے بہت ہی قدرت والا ہے۔ اے ہی، اے قیوم

تَحَصَّنَا بِكَ فَاحْمِنَا بِحِمَايَتِكَ يَا حَلِيمٌ يَا سَتَّارٌ وَأَدْخِلْنَا يَا

ہم نے حفاظت حاصل کی ہے ساتھ تیرے پس ہماری حمایت فرما اپنی مخصوص حمایت کے ساتھ۔ اے علم والے، اے پردہ پوش۔ اور

أَوَّلُ يَا آخِرُ فِيمَا مَكْنُونٍ غَيْبٍ سِرٍّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

داخل کرہیں۔ اے اول۔ اے آخر، ماشاء اللہ لا قوتہ الا باللہ کے کمون اور پنهانی غیب میں۔

وَاجِرْنَا مِنْ خَزْيِكَ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِكَ وَاضْرِبْ عَلَيْنَا

اور ہمیں بچا اپنے ہاں رسوا ہونے سے۔ اور اپنے بندوں کے شر سے۔ اور قائم فرما ہم پر

سُرَادِقَاتِ حِفْظِكَ وَأَدْخِلْنَا فِي حِفْظِ عَنَائِتِكَ وَجُدْ عَلَيْنَا

اپنی حفاظت کے نیچے اور داخل فرما ہمیں اپنی عنایت میں اور سخاوت فرما ہم پر

بِخَيْرِ مَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط بِسْمِ اللَّهِ اِحْتَجِبْنَا وَبِحَوْلِ

اپنی مخصوص خیرات سے اے ارحم الراحمین۔ اللہ کے نام کے ساتھ پردہ حاصل کیا ہم نے۔ اور اللہ تعالیٰ کی

اللَّهِ اِعْتَصَمْنَا وَبِقُوَّةِ اللَّهِ اسْتَمْسَكْنَا فَمَنْ أَسْرَدْنَا بِسُوءِ أَوْ

طاقت کے ساتھ حفاظت حاصل کی ہم نے۔ اور اللہ کی قوت کے ساتھ چنگل مالا ہم نے۔ پس جس نے ارادہ کیا ہمارا ساتھ لڑائی کے۔ اور

كَأَدْنَا بِكَيْدِ فَيَا ذِي اللَّهِ مَمْنُوعٌ مَّدْفُوعٌ يَا اللَّهُ يَا وَاحِدٌ

تندیر کی ہمارے غلات مگر کی بس وہ اللہ تعالیٰ کی ترفیق سے محروم اور دھتکارا ہوا ہے۔ یا اللہ، یا واحد

يَا أَحَدٌ يَا جَوَادُ أَنْفَحْنَا مِنْكَ بِنَفْحَةِ خَيْرِ اللَّهُمَّ يَا مَنْ

یا احد، یا جواد۔ عطیہ دے ہمیں اپنی بارگاہ فیض سے عطیہ خیر کا۔ اے اللہ، اے کہ جس نے

لَطَفَتْ بِخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَطَفَتْ بِالْأَجْنَةِ فِي بُطُونِ

مہربانی فرمائی ساتھ پیدا کرنے آسمانوں اور زمین کے اور لطف فرمایا ساتھ ہر جنین کے انہی ماؤں کے ارحام

أُمَّهَاتِهَا الطُّفُّ بِنَا فِي قَضَائِكَ وَقَدْرِكَ لُطْفًا يَلِيقُ بِكَرَمِكَ

میں لطف فرما ساتھ ہمارے اپنی قضاء و قدر میں ایسا لطف جو لائق ہے ساتھ تیرے کرم کے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝

یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ صلوٰۃ اور سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بِهِ اللَّهُ كُلُّ الْمُؤْمِنِينَ هُدًى ۝

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت اللہ تعالیٰ نے سب مومنین کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور

لَهُ اللَّهُ فَضْلًا بِالإِسْلَامِ بِدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

انہیں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ازراہ فضل اسلام کو ظاہر فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی صرف آنکھیں سوتی ہیں اور دل انور نہیں

قَلْبُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

سوتا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ جَسَدَهُ الْكَرِيمِ

کہ جس آقا کے لیے حرام فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر کہ کھائے ان کے جسد کریم کو

وَجَعَلَ اللَّهُ الْمُصَلِّيَ عَلَيْهِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ

اور کر دیا ہے اللہ نے ان پر درود بھیجنے والے کو اپنے عرش عظیم کے سایہ کے نیچے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے

أَنْفَذَ أَمْرَكَ وَأَشَادَ ذِكْرَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نافذ کیا تیرا امر اور عام کیا تیرا ذکر اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ مِنْ أَطْيَبِ بَطُونِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو چنے گئے ہیں عرب قبائل کی شانوں میں سے پاکیزہ ترین

العَرَبِ وَوَحْيِهِ غَيْرُ مُكْتَسَبٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

شاخ سے اور ان کی وحی ان کی محنت اور کوشش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللهُ طَاعَتَهُ نَجَاتًا

محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے عین نجات اور

وَرَبُوحًا وَجَاءَ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّامِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

سراسر منفعت بنا دیا ہے۔ اور آپ کو لائے ہیں ایسی ملت جو سراسر حق ہے اور سہل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائیے

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ السَّكِينَةَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا سکینت کو

وَآخَذَ اللهُ الْبَيْثَاقَ عَلَى النَّبِيِّينَ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ

اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء علیہم السلام سے کہ ضرور بالضرور ایمان لائیں گے ساتھ آپ کے اور ضرور بالضرور مدد کریں گے ان کی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الْمُتَّقِلِبِ فِيْ اَصْلَابِ النَّبِيِّينَ وَيَجْلِسُ عَلَى يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ

جو محبوب کہ منقل ہوتے رہے ہیں (بعض) انبیاء علیہم السلام کی اصلااب میں بھی۔ اور بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب (وزارتِ عظمیٰ)

وَكَتَبَتْ اَيْدِيْهِ يَمِيْنُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

کی کرسی پر) اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمن میں (از روئے یمن و برکت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلِ مَنْ يَسْتَاذِنُ عَلٰى رَأْسِهِ وَلَمْ يَرْضَ اللهُ

آل پر جو محبوب پہلے شخص ہوں گے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اذن طلب کریں گے۔ اور نہیں پسند کیا اللہ تعالیٰ نے

دِيْنَ اَحَدٍ اِلَّا بِحُبِّهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کسی کا دین مگر بطفیل انہیں کی محبت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ مُؤْتَمَّرًا بِهٖ وَبِيَدَيْهِ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے مقتدر بنا دیا اور ان کے دین کو لائق اقتدار بنایا

وَجَعَلَهُ اللَّهُ مُتَّبِعًا مِّنْ يُّومِ خَلْقِهِ وَتَكْوِينِهِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور اللہ نے بنایا ان کو مقتدر ان کی تخلیق اور ایجاد کے دن سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے متعلق اللہ نے مخلوق کو

الْخَلْقَ أَنْ يَهْتَدُوا بِهٖ وَأَنْ يَقِفُوا عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ

حکم دیا ہے ہدایت حاصل کریں ان کی سیرت و کردار سے اور عمل پیرا ہوں ان کے امر و نہی پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي لَا يَرِثُهُ مِنْ ذَوِي رَحْمَةٍ وَارِثٌ وَأَحَلَّ اللَّهُ لَأُمَّتِهِ

کہ جس آقا کے ترکہ کا وارث نہیں ہو سکتا ان کے رشتہ داروں سے کوئی بھی۔ اور حلال ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے ان کی

الطَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اُمت کے لیے پاکیزہ اشیاء کو اور حرام ٹھہرایا ان پر خبیث اشیاء کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ مَلَائِكَةَ عِنْدَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے طفیل مقرر کئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بیت المعمور

الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَرْوَاحِ أُمَّتِهِ عِنْدَ الْحُضُورِ ۗ اللَّهُمَّ

کے پاس جو درود بھیجتے ہیں آپ کی اُمت کی روحوں پر وہاں حاضر ہونے پر موت کے بعد اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۗ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس

جَعَلَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ الْأَبْرَارَ رَحِمَاءَ بَيْنَهُمْ أَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ

آقا کے اصحاب ابرار کو اللہ نے بنایا ہے آپس میں رحیم و مہربان۔ کفار پر سخت اور شدید

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ كُلَّ سِحْرٍ يَسْحَرُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبَاءِ بِأُطْلَايَوْمٍ

کہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہر جادو کو جو کرتا تھا کوئی بھی شخص منقذ سے باطل اور بے اثر۔ ان کی

وَلَادَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ولادت کے دن۔ علیہ السلام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَبَقَتْ رُوحُهُ أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ وَ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی روح سبقت لے گئی تمام ارواح انبیاء و

الرُّسُلِ فِي مِيَادِينِ الْمَعْرِفَةِ إِلَى رِيَاضِ الْوَصَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ

رسولین پر معرفت کے میدانوں میں طرف وصال خداوند تعالیٰ کے باغات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی روح سبقت لے گئی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے

اللَّهُ ثَوَابَ أُمَّتِهِ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْحَسَنَةِ بَعْشَرَ أَمْثَالِهَا

ان کی امت کے نیک اعمال کے ثواب کو (کم از کم) دس گنا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَتُرْعَةَ الْفِرْدَوْسِ

کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے صلوٰۃ بھیجنا واجب کر دیا ہے ان کا ذکر آنے پر اور جنت الفردوس کا باغیچہ

بَيْنَ مَنْبَرِهِ وَقَبْرِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا

ان کے منبر شریف اور قبر انور کے درمیان ہے۔ پاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی معبود برحق مگر

أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَتَّانُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

تو ہی مہربان صاحب احسان، اے جلال و اکرام والے۔ اے حی۔ اے قیوم

يَا بَرُّ يَا سَلَامٌ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ

اے نیکوکار، اے مہر سلاحتی، اے از سر نو پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے۔ جاننے والے غیب اور

الشَّهَادَةِ الْكَبِيرَةِ الْمُتَعَالِ اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ظاہر کے، کبریائی اور برتری کے مالک۔ اے اللہ از سر نو پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے،

ذَالِ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا

اے مالک جلال و اکرام اور ایسے غلبہ کے جس کے خاتمہ کا قصد نہیں کیا جاسکتا۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے۔ اے اللہ، اے

رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تَلْتَزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ

رحمن بظہیل تیرے جلال اور نور ذات کے کہ لازم کر دے میرے دل میں حفظ اپنی کتاب کا جیسے

كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْتُقِنِي أَنْ أَتْلُوهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ

کہ تو نے مجھے تعلیم دی اور مجھے نصیب فرما اس کی تلاوت ایسے انداز میں جو راضی کر دے تجھے

عَنِّي اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصْرِي وَأَنْ تُطْلِقَ

مجھ سے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ منور کر دے ساتھ اپنی کتاب کے میری نگاہ کہ اور روانی بختے

بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَن قَلْبِي وَأَنْ تُشْرَحَ بِهِ صَدْرِي

ساتھ اس کے میری زبان کو اور کھول دے سبب اس کے میرے دل سے (عجبات) اور وسیع کر دے سبب اس کے میرے سینے کو

وَأَنْ تَسْتَعْمَلَ بِهِ بَدَنِي فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ

اور عامل بنائے ساتھ اس کے میرے بدن کو کیونکہ نہیں اعانت کرتا میری حق پر سوائے تیرے کوئی بھی

وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

اور نہیں کوئی معبود برحق مگر تو اور نہیں طاقت اور قوت مگر ساتھ اللہ علیٰ عظیم کے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَلَا أَسْأَلُ إِلَى غَيْرِكَ وَأَسْرَعُ إِلَيْكَ وَ

اے اللہ جیسے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اور نہیں دامن سوال دلاز کرتا تیرے غیر کی طرف اور رغبت کرتا ہوں طرف تیری

لَا أَسْرَعُ إِلَى غَيْرِكَ وَأَسْأَلُكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ وَيَا جَارَ

اور نہیں رغبت رکھتا تیرے غیر کی طرف۔ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے خوفزدگان کو امان دینے والے اور طلبگار ان پناہ

المُستَجِيرِينَ أَنْتَ الْفَتَّاحُ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَمُقِيلُ الْعَثَرَاتِ

کو پناہ دینے والے تیری کھولنے والا ہے (دروازے) طرف خیرات کے۔ اور در گزر کرنے والا ہے لغزشوں سے

وَمَا حَى السَّيِّئَاتِ وَكَاتِبُ الْحَسَنَاتِ وَرَافِعُ الدَّرَجَاتِ وَمَانِعُ

اور مٹانے والا ہے برائیوں کا۔ اور ثبات رکھنے والا ہے حسنات کو اور بلند کرنے والا ہے درجات کا۔ اور روکنے والا ہے

الْبَلِيَّاتِ وَأَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَأَعْظَمِهَا وَأَنْجِحَهَا

مصائب کو اور سوال کرتا ہوں تجھ سے ساتھ بہترین عظیم تر اور کامیاب ترین انداز سوال کے تمام تر سوالات میں سے کہ

الَّتِي لَا يَتَّبِعُنِي لِلْعِبَادِ أَنْ يَسْأَلُوكَ إِلَّا بِهَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ

نہیں لائق بندوں کے کہ سوال کریں تجھ سے مگر ساتھ اس کے۔ اے اللہ بے شک ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے

الْقُرْبَةَ الْأَعْظَمِيَّةَ وَعَدَارِي الْمَشْرِفَةِ بِشَرْفِهِ وَشَرَفَتِهِ صَلَّى

عظیم تر قربت کا اور مقبول معذرتوں کا بطفیل شرف اور شرافت محبوب صلی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَصِفَاتِكَ

علیہ وسلم کے اور سوال کرتے ہیں تجھ سے بطفیل تیرے اسماء حسنیٰ کے اور تیری بلند مرتبت

الْعُلْيَا وَكَلِمَاتِكَ الثَّمَامَاتِ وَبِكُتُبِكَ الْمُنْزَلَةِ وَبِكِتَابِكَ

صفات کے اور کلمات تمامہ کے۔ اور نازل کردہ کتابوں کے اور کتاب

الْعَزِيزِ وَبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِكَ وَ

عزیز کے اور بطفیل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیرے عبد اور

رَسُولِكَ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَيَا مُنْزِلَ الْكِتَابِ يَا سَرِيعَ

رسول ہیں، اے رب الارباب، اے نازل کرنے والے کتاب کے۔ اے جلدی لینے والے

الْحِسَابِ يَا مَنْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ يَا رَحِيمَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا

حساب کے۔ اے کہ جب دعا کیا جائے تو قبول فرماتا ہے، اے مہربان۔ اے اللہ رحم فرما ہم پر

بِمَارْحَمَتِكَ يَا مُضْطَرِّينَ وَأَجْبُنَا بِمَا أَجَبْتَ بِهِ السَّائِلِينَ

ساتھ اس رحمت خاصہ کے کہ رحم فرماتا ہے ساتھ اس کے مجبوروں پر۔ اور قبول فرما ہمیں ساتھ اس قبولیت کے کہ قبول کیا سائلین کو

اللَّهُمَّ هَذَا الْمَطْلَبُ فِي غَايَةِ الْحَقَارَةِ إِذَا انْظَرْتَ إِلَى كَرَمِكَ

اے اللہ یہ مطلب انتہائی حقیر ہے جب نظر فرمائے تو طرف اپنے کرم

وَرَحْمَتِكَ وَعَظِيمِ الْوَسِيلَةِ اللَّهُمَّ صَحِّحْنِي وَأَوْصِلْنِي إِلَى

اور رحمت کے اور طرف وسیلہ کی عظمت کے۔ اے اللہ مجھے صحت بخش اور مجھے واصل فرما اس

مَا أَوْصَلْتَ إِلَيْهِ أَوْلِيَاءُكَ وَهُوَ عَيْنُ الْمَقْصُودِ اللَّهُمَّ

مقام تک کہ واصل فرمایا تو نے طرف اس کے اپنے دوستوں کو اور وہی عین مقصود ہے۔ اے اللہ

رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ط رَبَّنَا وَرَبِّ

ماک ساتوں آسمانوں کے اور ماک عرش اعظم کے۔ اے رب ہمارے اور رب

كُلِّ شَيْءٍ مُّنْزِلِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ

ہر شئی کے، نازل کرنے والے تورات و انجیل کے اور زبور و فرقان

الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اعظم کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَعَ عَن سَاقِهِ فِي اللَّهِ وَاجْتَهَدَ وَأَدْخَلَ

آل پر جنہوں نے اپنی سعی و کوشش کو صرف کیا اور جہد و جہد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اور داخل کیا

فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَمْ يَدْخُلْهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

اللہ کے دین میں راتھی کثیر تعداد کو جسے نہیں داخل کیا انبیاء میں سے کسی نے بھی۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے طفیل

اشْتَدَّتْ بِهِ الدَّعْوَةُ وَعَزَّ ذُرَاهَا وَأَقَامَ أَوْدَ النَّبِيَّةِ وَشَدَّ

پختہ ہو گئی دعوت توحید و رسالت اور عزت والی ہو گئیں جوڑیاں اس کی۔ اور درست کیا توت کی مشقتوں کو اور مضبوط کیا

عُرَايَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اس کے ارکان کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْجَزَ اللَّهُ فِيهِ الْمُحَامِدَ وَدَمَاءَ اللَّهِ بِهِ

آل پر کہ عاجز کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو (عظیم کمالات دے کر مخلوق کو) ان کے معاملہ سے اور دور کیا بسبب ان کے

الْمَفَاسِدِ وَطَهَّرَ اللَّهُ بِهِ الْمَحَارِبَ وَالْمَسَاجِدَ اللَّهُمَّ صَلِّ

مفاسد کو اور پاک فرمایا اللہ تعالیٰ نے بسبب ان کے عبادت گاہوں اور مساجد کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب میں

الْقِيَتُ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ وَبِئْسَ ثَوْبَ الْخُشُوعِ وَالْإِنَابَةِ اللَّهُمَّ

قدرتی ہیبت اور رعب پیدا کیا گیا (مگر انہوں نے اپنے طور پر) اور خاشع اور انابت کا لباس اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

فَاقَتْ مُعْجَزَاتِهِ كُلَّ مُعْجَزَةٍ وَأَصْبَحَ بِهِ الْإِسْلَامُ فِي عِزَّةٍ

فوقیت پائی اس محبوب کے معجزات نے ہر معجزہ پر اور ہو گیا بسبب ان کے اسلام کا بول بالا

وَقُلُوبُ أَعْدَائِهِ مُسْتَفْرَّغَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اور ان کے اعداء کے دل (بوجہ خوف و ہیبت) ترسان و لرزاں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُعْظَمِ فِي الْقُلُوبِ وَالنَّفُوسِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ عظیم تر ہیں قلوب و نفوس میں۔

وَالْمُهَابِ فِي عِيُونِ أَعْدَائِهِ عِنْدَ الْبُؤْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور ہیبت والے ہیں اعداء کی نظروں میں لڑائیوں کے وقت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب دعوت دینے والے ہیں طرف اللہ تعالیٰ کے اس کی توفیق سے

بِأَذْنِهِ وَأَذْنِ جِبْرَائِيلَ فِي أَذْنِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

اور آذان دی جبرائیل امین نے ان کے کان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَافَ الْبَيْتَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے طواف کیا بیت اللہ کا

مَحْبُورًا وَكَانَ فِي الْحَرْبِ مُؤَيَّدًا أَوْ مَنْصُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ

یعنی چاروں کا احرام باندھ کر اور سختی حرب میں اللہ تعالیٰ کی طرف توفیق اور نصرت دے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَصَرَ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو نصرت دی گئی

بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَأَيَّدَ بِأُغْتِزَانِ وَالْقَهْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ساتھ رعب و دہرہ کے مہینہ کی راہ تک اور تقویت دے گئے ساتھ غلبہ اور قہر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کے متعلق

لَا يَسْمَعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَعْدَائِهِ مِنَ الْخَلْقِ إِلَّا وَجَلَ قَلْبُهُ

نہیں سنتا تھا ساری مخلوق میں سے کوئی دشمن مگر اس کا دل خوفزدہ ہو جاتا تھا

مِنْهُ وَخَفِيَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور لرز جاتا تھا آپ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَالَتْ بِهِ التُّحُوسُ وَأَصْبَحَ بِهِ عَرْشُ

آل پر کہ جس محبوب کی بدولت نحوستیں زائل ہو گئیں اور ابلیس کا تخت

إِبْلِيسَ مَنكُوسًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اوندھا ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَطْمَسُ اللَّهُ عَلَىٰ وُجُوهِ أَعْدَائِهِ

آپ کی آل پر کہ بے نور کردے گا اللہ تعالیٰ ان کے کانسر و دشمنوں کے

مِنَ الْكُفَّارِ فَيَتَسَاقَطُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

چہرے پس وہ منہ کے بل گر پڑیں گے آگ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْفَى

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس سراج منیر کے

نُوْرُهُ الْوَهَّاجُ ضَوْءُ الْبَدْرِ وَالسِّرَاجِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

نور تاباں نے چھپا لیا اپنے اندر اچڑھویں کے چاند اور چراغ کے نور کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ جَعَلَ اللّٰهُ نُوْرًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس نورانی محبوب کے روشن نور کو اللہ تعالیٰ نے

الْوَضَاحِ اَوْضَحَ مِنْ ضَوْءِ الصُّبْحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

صبح کے سپیدہ سے بھی زیادہ روشن بنایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ جَعَلَ اللّٰهُ نُوْرًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس نور مجسم کے نور غالب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے

السَّاطِعِ اَشْرَقَ مِنَ الْهَلَالِ الطَّالِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

زیادہ روشن ہلال روشن سے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَضَاءَ نُوْرًا فِي الْاَكْوَانِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کا نور جگمگایا سب جہانوں میں

وَانْتَشَرَ وَاخْبَلَ نُوْرًا ضَوْءَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور پھیلا۔ اور شرمندہ کر دیا ان کے نور نے سورج اور چاند کی روشنی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ جَلَّ عَرْوُسُ

بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے جمال دریا کا عروس حسن

جَمَالِهِ الْمَبْرُورِ فِيْ خِلْعَةِ الْكِمَالِ وَالسُّرُورِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جلوہ نما ہوا کمال و سرور کی خلعت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَرَبِّ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ہر ایمان دار نفس کے ولی و مولیٰ ہیں



وَمَوْلَاهَا وَمَلَأْ نُورَهُ الْبُقَاعَ وَكَسَاهَا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور پُر کر دیا ہے ان کے نور انور نے قطعات ارضی کو اور انھیں لباس نور پہنا دیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ بَهْجَةُ

بیچ سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ بہار ہیں

الِدِّينِ وَالدُّنْيَا وَاسْتَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُشْرِقَةِ الضِّيَاءِ وَ

دین اور دُنیا کی۔ اور ظاہر فرمایا ہے انھیں اللہ تعالیٰ نے روشن نورانی شجرہ سے۔ اور

أَشْرَقَ نُورُهُ الْعُلَى اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

چمکان نور بندوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بیچ سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَرَّهَانَهُ يَلُوحُ وَنُورُهُ وَاضِحٌ الْوُضُوحِ

کی آل پر کہ جس رسول کا برہان صدق چمکتا ہے اور ان کا نور بہت ہی واضح و آشکار ہے

اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بیچ سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

خَيْرٍ مَنْ زَانَتْ الْحَسَنَاءُ مَحَاسِنَهُ وَخَيْرٍ مَنْ نَشَأَ عَيْنُ الْأَكْوَانِ

جو محبوب کہ خوبتر ہیں ان تمام لوگوں سے کہ مزین کیا حسن و خوبی نے ان کے محاسن کو اور نشوونما دی کائنات کے چشمہ نے

كَأَنَّهَا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس کے وجود کو اے اللہ صلوٰۃ و سلام بیچ سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ أَجْمَلِ أَجْمَلِ النَّاسِ عِزَّةً وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي

آل پر جو محبوب کہ جمیل تر ہیں سب سے جمیل ترین لوگوں میں سے از روئے عزت کے اور مبعوث فرمائے جائیں گے قیامت کے

أَوَّلِ زُمْرَةٍ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

دن پہلے گروہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَمَلَتْ مَحَاسِنُهُ وَشَرَفَتْ مَوَاطِنُهُ وَ

پر کہ جس محبوب کی خوبیاں کامل ہو گئیں۔ اور شرافت پائے ان کے مقامات سکونت۔ اور



رَكَتْ مَعَادِنُهُ وَعَظَمَتْ مَطَالِبُهُ وَكَرُمَتْ مَوَاهِبُهُ وَفَخَّرَتْ

پاکیزہ ہو گئیں اس کو ہر پیتا کی کانیں۔ اور عظیم ہو گئے ان کے مطالب اور بزرگتر ہو گئے ان کے عطیے اور قابل فخر ہو گئے

مَنَاصِبُهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ان کے منصب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِىْ حُبُّهُ مَشْرُوعٌ وَذِكْرُهُ مَرْفُوعٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر کہ جس محبوب کی محبت میں شریعت ہے اور ان کا ذکر بلند کیا ہوا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ شَرَّفَ اللّٰهُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا

بِنِيَّانِهِ وَعَظَّمَ اللّٰهُ شَانَهُ وَاظْهَرَ اللّٰهُ عِزَّهُ وَبُرْهَانَهُ وَعَمَّ

جن کے نسب و حسب کو اور عظیم بنایا ان کی شان کو۔ اور غالب فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور دلیل حقانیت کو اور کثیر بنایا

اُمَّتَهُ وَخَيْرَكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ان کی امت کو اور عام کیا ان کے فیض کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ سَآءَ بِاُمَّتِهِ نَحْوَ الْمَسْرُوْبَةِ سَيْرَةً وَعَمَّ

آپ کی آل پر کہ جس آقا نے چلایا اپنی امت کو مسرت کی جانب مانند اپنی سیر کے اور احاطہ کیا

الْعِبَادَ بِالْخَيْرِ طَرًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ساتھ خیر اور بھلائی کے سب بندگان خداوند کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ لَوْلَا مَا رُفِعَتِ الْخَضِرَاءُ وَلَا

آپ کی آل پر کہ جس آقا محبوب کا وجود مسعود نہ ہوتا تو نہ بلند کیا جاتا سبز نیچہ افلاک کا اور نہ

بُسِطَتِ الْغُبْرَاءُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

پھیلائی جاتی زمین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ جَعَلَ اللّٰهُ النَّارَ عَلٰى اُمَّتِهِ بَرْدًا وَ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی امت پر اللہ تعالیٰ نے نار جہنم کو ٹھنڈک اور



سَلَامًا وَجَعَلَ اللَّهُ أُمَّتَهُ يَدْ خُلُونَ الْجَنَّةِ قَبْلَ الْأُمَمِ بَارِيعِينَ

سلامتی بنا دیا ہے۔ اور بنایا ان کی امت کو کہ داخل ہوں گے جنت میں تمام امتوں سے پہلے چاہیں

عَامًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

سال۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أُعْطِيَ تَرْكِيَةً أُمَّتِهِ فِي الْمَحْشَرِ وَكَانَ وَجْهَهُ فِي

پر کہ جس آقا کو عطا کیا گیا ہے مرتبہ اپنی امت کی صفائی بیان کرنے کا مشر میں۔ اور تھا آپ کا چہرہ انور

الْبَيْتِ كَالسِّرَاجِ يُظَهِّرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

گھر میں چمٹا مانند حیران کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْكَشَفَتْ بِسَبَابِ ذِكْرِ مَدِيحِهِ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کا ذکر و مدح سننے سے مشکلات حل ہو جاتی

الْغُمَّةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ مِنَ الْأُمَّةِ مِنْعَ حِفْظِ الْحِكْمَةِ

پر کہ جو ایمان نہ لے آئے ساتھ اس آقا کے امت دعوت سے محروم کر دیا جاتا ہے حکمت کے حفظ کرنے سے

وَكَانَ نُورًا عَلَيْهِ ظُلْمَةٌ اللَّهُمَّ حُلِّ هَذِهِ الْعُقْدَةِ وَأَزِلْ هَذِهِ

اور ہو گا اس کا (ظاہری) نور اس پر تاریخی حقیقت میں۔ اے اللہ اس عقدہ کو حل فرما اور زائل فرما اس

الْعُسْرَةَ وَلِقِنِّي حَسَنَ الْمَيْسُورِ وَقِنِّي سُوءَ الْمَقْدُورِ وَأَرْزُقْنِي

تنگی کو۔ اور سکھلا مجھے خوبتر آسان عمل۔ اور بچا مجھے برے عمل سے۔ اور مجھے نصیب فرما

حَسَنَ الطَّلَبِ وَالْكَفَيِّ شَوْمَ الْمُنْقَلَبِ اللَّهُمَّ حُجَّتِي حَاجَتِي

اچھا انداز طلب کا۔ اور کفایت فرما مجھے باز گشت کے برے منظر سے۔ اے اللہ میری دلیل و حجت میری محتاجی ہے

وَعَدَّتِي فَاقَتِي وَوَسَّيْلَتِي انْقِطَاعَ حَبِلَتِي وَرَأْسَ مَالِي عَدَمٌ

اور میرا ساز و سامان میرا فقر وفاقہ ہے۔ اور میرا وسیلہ میری تدابیر کا انقطاع اور بے اثری ہے اور میری پونجی میری



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَرَحْمَتِهِ

اِحْتِيَائِي وَشَفِيْعِي دُمُوْعِي وَكَتْرِي عَجْزِي الْهِي قَطْرَةٌ مِّنْ بِحَارِ

یہ بھاری ہے۔ اور میرے سفارشی میرے آنسو ہیں۔ اور میرا خزانہ میری عاجزی و بے بسی ہے۔ اے بار الہ ایک قطرہ تیرے

جُودِكَ تُغْنِيْنِي وَذَرَّةٌ مِّنْ تِيَارِ عَفْوِكَ تَكْفِيْنِي فَارْزُقْنِي وَعَافِنِي

جو دونوں کے سمندر سے مجھے غنی کر سکتا ہے اور ایک ذرہ تیری عفو کی موجزن لہر سے مجھے کافی ہو سکتا ہے پس مجھے عطا فرما اور عافیت

فَاعْفُ عَنِّي فَاغْفِرْ لِي وَاقْضِ حَاجَتِي وَنَفْسُ كُرْبَتِي وَفَرْجُ هَمِّي

بخش مجھ سے درگزر فرما پس مغفرت فرما، میری حاجت پوری فرما اور میری مشکل دور فرما

وَ الْكُشْفُ غَمِّي وَ اَهْلِكَ عَدُوِّي وَ اَرْضُ قَبْرِي خَيْرُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

اور میرا تنگ دور فرما۔ اور میرا غم غلط فرما۔ اور میرے دشمن کو ہلاک فرما۔ اور مجھے دنیا و آخرت کی بہتری نصیب فرما

اَللّٰهُمَّ يَا حَفِيَّ الْاَلْطَافِ نَجِّنَا مِمَّا نَخَافُ يَا حَيُّ حِيْنَ لَا حَيَّ

اے اللہ کہ جس کے الطاف (عز و دکان کی) خبر گیری کرنے والے ہیں نجات دے ہیں ہر خوفناک شئی سے۔ اے زندہ جبکہ نہیں ہوگا

فِي دِيْمُوْمَةٍ مَّلِكِهِ وَ بَقَائِهِ رَبِّ اِنِّي مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ وَ اجْبُرْ

کوئی زندہ جمع اس کے دوام و بقا و ملک کے۔ اے میرے رب میں مغلوب ہوں پس میرا بدلہ لے۔ اور درست فرما

قَلْبِي الْمُنْكَسِرَ وَ اجْمَعْ شَمْلِي الْمُنْتَشِرَ اِنَّكَ اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الْمُقْتَدِرُ

میرے ٹوٹے دل کو اور جمعیت بخش میری پراگندگی خاطر کو۔ بے شک تو ہی بہت رحم کرنے والا صاحب اقتدار ہے

اِكْفِيْنِي يَا كَافِي وَ هُوَ الْعَبْدُ الْمُفْتَقِرُ وَ كَفِيَ بِاللّٰهِ نَصِيْرًا اِنَّ الشِّرْكَ

مجھے کفایت فرمائے کفایت فرمانے والے اور یہ بندہ محتاج ہے۔ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ از روئے مددگاری کے۔ بے شک شرک

لَطْمٌ عَظِيْمٌ وَ مَا اللّٰهُ يَرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ هُ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ

البتہ ظلم عظیم ہے۔ اور نہیں ارادہ فرماتا اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کا۔ پس قطع کر دیا گیا اثر و نشان

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هُ يَا مَنْ سَبَّحْتَ وَقَدَّسْتَ

ظالم قوم کا۔ اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار عالمین ہے۔ اے کہ تسبیح و تقدیس

وَعَظَمْتَ وَ كَبَّرْتَ وَ مَجَّدْتَ لِجَلَالِ جَمَالِ كَمَالِ اَقْدَامِ

اور عظمت و کبریائی اور مجد بیان کی بسبب اس کے غلبہ و جبروت کے مضبوط اور عظیم اقدامات کے



أَقْوَامٍ أَعْظَمَ عِزَّهُ وَجَبْرُوتِهِ مَلَائِكُ سَبْعِ سَمَوَاتِكَ اجْعَلْنَا فِي

جلال و جمال اور کمال کے ساتوں آسمانوں کے ملائکہ نے بنا دے ہمیں

هَذَا الْعَامِ وَهَذَا الشَّهْرِ وَفِي هَذَا الْيَوْمِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ

اس سال - اس مہینے - اس دن اور اس ساعت میں اور

فِي هَذَا الْوَقْتِ الْمُبَارَكِ مِمَّنْ دَعَاكَ فَأَجَبْتَهُ وَسَأَلَكَ

اس مبارک وقت میں ان پیاروں سے جنہوں نے دعا کی پس تو نے قبول فرمائی اور تجھ سے سوال کیا

فَاعْطَيْتَهُ وَتَضَرَّعَ إِلَيْكَ فَرَحِمْتَهُ وَإِلَى دَارِكَ دَارِ السَّلَامِ

پس تو نے انہیں عطا کیا۔ اور تیری طرف نزاری کی پس تو نے ان پر رحم کیا اور اپنے مخصوص دارالسلام کی طرف

أَدْنَيْتَهُ بِفَضْلِكَ يَا جَوَادُ يَا جَوَادُ جُدْ عَلَيْنَا وَعَامِلْنَا

قرب کیا اپنے فضل سے۔ یا جواد۔ یا جواد۔ یا جواد ہمیں جو دو کرم سے نواز اور سوک فرما ساتھ ہمارے

بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تُقَابِلْنَا بِمَا نَحْنُ أَهْلُهُ إِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى

جیسا کہ تیری شان کے لائق ہے اور تمہارے سامنے لاوہ عذاب و عقاب جس کے ہم سزاوار ہیں، بے شک تو ہی اس کا اہل ہے کہ تجھ سے ڈرا

وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ صَرِّفْتُ رَجَائِي إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ

جائے اور تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے اللہ میں نے اپنی امیدوں کو تیرے وجہ کریم کی طرف پھیرا ہے۔ اور

أَحْسَنْتُ ظَنِّي فِي عَفْوِكَ الْعَظِيمِ فَارْحَمْنِي وَارْحَمْ وَالِدَائِي وَ

میں نے حسن ظن سے کام لیا ہے تیری عفو عظیم میں پس رحم فرما مجھ پر اور میرے والدین پر۔ اور

إِخْوَانِي وَالْمُنْتَسِبِينَ إِلَيَّ وَارْضَ عَنِّي وَعَنِ الْمُنْعَمِينَ عَلَيَّ

میرے بھائیوں اور مجھ سے نسبت رکھنے والوں پر۔ مجھ سے اور مجھ پر انعام واحسان کرنے والوں پر راضی ہو

اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَعِثُ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَعِثِّينَ أَخِثْنَا

اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ ہم استغاثہ کرتے ہیں اے فریادیوں کے فریادرس ہماری امداد فرما۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ نَزْعِيمُ الْأَرْكَانِ

اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ تیرے ارکان دولت کے سردار ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

عَلَى فِي الْجَلَالَةِ فَرْعَةً وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ دِينَهُ وَ

بلند ہوئی بزرگی میں اولاد (نسبی و معنوی) ان کی اور غالب کیا اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان پر ان کے دین اور

شَرْعَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

شریعت کو۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَصْبَحَ كُلُّ جَبَّارٍ عِنْدَ بَعْرَتِهِ ذَلِيلًا اللَّهُمَّ

ہو گیا ہر جبار و معاند اس محبوب کی عزت کے صدمے میں ذلیل۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَرْشِدَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کسب زیادہ رہمانی

النَّاسِ لَطُرُقِ الْقَوَامِ وَأَعْدِلْ مَنْ قَامَ بِرِعَايَةِ الْأَحْكَامِ

فرمانے والے ہیں استقامت کی راہوں کی اور سب زیادہ عادل ہیں احکام خداوند تعالیٰ کی رعایت و نگہبانی کرنے والوں سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب

أَفْضَلِ مَنْ سَاقَ الْمَطِيُّ بِهِ وَخَيْرِ مَوْتَمِنِ أَدَى أَمَانَةِ رَبِّهِ

کہ افضل ہیں ان تمام حضرات سے کہ سواریاں جن کو لے کر چلیں اور سب بہتر متمدن علیہم ہیں جنہوں نے اپنے رب کی امانت کو ادا کیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

أَبْرَ مَنْ لَقِيَ الْوُفُودَ بِنَفْسِهِ وَفَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ جَنْسِهِ

جو محبوب ان سب سے محسن ہیں جو در پر آنے والوں کو بنفس نفیس لے۔ اور فضیلت دی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اہل جنس پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر



خَيْرَ مَنْ وَطِئَ التُّرَابَ بِنَعْلِهِ وَاسْتَمَدَّ الْفُضْلُ مِنْ جُودِهِ

جو محبوب کہ بہتر ہیں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے پامال کیا مٹی کو اپنے جوتوں سے اور مدد و افزونی حاصل کی فضل

وَفُضِّلَهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کمال نے ان کے جود و نوال سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعْظَمِ النَّاسِ فِي الْبَرِّيَّةِ حَقًّا وَخَيْرِ الْبَرِّيَّةِ

محمد کی آل پر جو محبوب کہ ساری مخلوق میں سب سے عظیم تر ہیں از روئے حقوق کے۔ اور ساری مخلوق سے بہتر ہیں

طَرًا سُودًا وَتُقَا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

از روئے سیادت اور تقویٰ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَسَدِ الْمَذَاهِبِ مَذْهَبًا وَعَلَى الْمَنَاصِبِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ سب سے قوی اور مستحکم ہیں از روئے مذہب کے۔ اور سب سے بزرگ ہیں از روئے

مَنْصِبًا وَأَفْضَلِ الْخَلْقِ كَهْلًا وَطِفْلًا وَمُحْتَلِمًا وَمَا اشْتَمَلَتْ قَطُّ

منصب کے۔ اور ساری مخلوق سے افضل ہیں کسوت بچپن میں اور بلوغت میں۔ اور نہیں مشتمل ہوا کبھی

عَلَى مِثْلِهِ رَحِمَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان جیسی بلند مرتبت ذات پر کوئی بطن در رحم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخِلَافِ وَبَيَّنَّ اللَّهُ

کی آل پر کہ جس ہادی برحق کے ذریعے ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے اختلافی امور میں۔ اور واضح کیا ان کے ذریعے

بِهِ سَبِيلَ الْعِفَافِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

عفت و پاکیزگی کا راستہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَانَتْ بِهِ الْإِمَامَةُ وَبَشَّرَتْ بِهِ وَرِقَاءُ

آل پر کہ زینت پائی اس محبوب کی بدولت امامت نے۔ اور بشارت دی آپ کے متعلق و رِقَاءُ

الْيَمَامَةِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

یمامہ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الْمَخْلُصِ بِاللَّهِ بِالشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالْمُسَبِّحِ لِلَّهِ بِحَمْدِهِ

جو محبوب کہ اللہ کے لیے اخلاص کا اظہار کرنے والے ہیں ساتھ شہادت و اقرار کے۔ اور اس کی تسبیح کہنے والے ہیں جو محمد

فِي الْعَتَبِيِّ وَالْإِبْكَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہر شام اور صبح۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَاعِيِ الْخَلْقِ إِلَى إِرَادَتِهِ بِنُبُوَّتِهِ وَقَائِدِ الْخَلْقِ

کی آل پر جو محبوب کہ دعوت دینے والے ہیں مخلوق کو طرف اپنے مقاصد کے ساتھ نبوت کے اور قائم ہیں

إِلَى شَرِيعَتِهِ بِرِسَالَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مخلوق کے طرف اپنی شریعت کے ساتھ رسالت کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ شَرِيعَتَهُ فِي الْعَالَمِينَ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ غالب کیا اللہ تعالیٰ نے اس آقا کی شریعت کو تمام جہانوں میں

عَلَى جَمِيعِ شَرَائِعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سب انبیاء و مرسلین کی شریعتوں پر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَلْفَ الْإِبْتِدَاعِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ ابتداء الابداد کی الف یعنی مباد ہیں

وَبَاءِ بِدَايَةِ الْإِخْتِرَاعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور باء ہیں ہدایت یعنی آغاز تخلیق کی۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَاءِ تَمَامِ الْقَوَائِدِ وَتَاءِ ثُبُوتِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ تاء ہیں تمام قواعد اور ان کے کمال کی اور ثناء ہیں ثبوت

الْعَقَائِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ

عقائد کی۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جِيمِ جَمَالِ الْأَكْوَانِ وَحَاءِ حَيَاتِ الْأَعْيَانِ

آل پر جو محبوب کہ جیم ہیں جمال کائنات کی اور حاء ہیں حیات اعیان کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ خَاءِ خُلُوصِ الْإِخْلَاصِ وَذَالِ دُعَاءِ الْخَوَاصِّ

آل پر جو محبوب کہ خاد ہیں خلوص اخلاص کی۔ اور ذال ہیں دعاء خواص کی۔

وَذَالِ ذَوَابَةِ الْفَخْرِ وَالْعُلَاةِ وَرَأَةِ رَحْمَةِ الْمَلِكِ الْمَوْلَى

اور ذال ہیں فخر اور علو کے ذواب (چرٹی) کی۔ اور راہ ہیں ملک و مولیٰ جل و علی کی رحمت کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ زَاءِ نَرِيْنَةِ الْمَقَامَاتِ وَطَاءِ طَهَارَةِ الْقُلُوبِ وَالذَّوَاتِ

آل پر جو محبوب کہ نراء ہیں مقامات و مراتب کی زینت کی اور طاء ہیں قلوب و ذوات کی طہارت کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ ظَاءِ ظُهُورِ الْأَوَّخِرِ وَالْأَوَّابِلِ وَظِلَالِ الْأَمَالِ وَ

آل پر جو محبوب کہ ظاد ہیں اوائل و آواخر کے ظہور کی اور آمال و آرزوؤں کے ظلال (سایوں) کی اور

كَافِ كَمَالِ الْأَكْمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کاف ہیں کمال اکمال کی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِأَمْرِ بَابِ التَّعْمَاءِ وَمِيمِ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ لام ہیں نعمتوں کے لباب (خلاصہ) کا۔ اور میم ہیں اسماء کے معانی کا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ

نُونِ نَهَائِيَةِ الْمَطَالِبِ وَصَادِ صَفَاءِ الْمَشَارِبِ وَوَاوِ وَرُودِ أَهْلِ

نون ہیں مطالب کی نہایت کا۔ اور صاد ہیں مشارب اور گھاڑوں کی صفاء کا اور واو و رُوڈ ہیں اس

الْمَشَارِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مشارب کے ورود کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ ضَادٍ ضِيَاءِ الْمَحَافِلِ وَعَيْنِ عَنَّا صِرَ الْفَضَائِلِ اللَّهُمَّ

آل پر جو محبوب کہ ضیاء ہیں محافل کی ضیاء کا اور عین ہیں فضائل کے عناصر ارکان کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ غَدَاءِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ عین ہیں ارواح

الْمَهْجِ وَفَاءِ فَضِيلَةِ الْفَرَجِ وَقَافِ قُرْبَانَ الْقُرْبَاتِ وَسَيْنِ سِرِّ

و نفوس کی غداء کا۔ اور فاء ہیں کشائش و فراخی کی فضیلت کی۔ اور قاف ہیں قربات و عبادات کے قربان و قرب کا اور سین

الْأَسْرَارِ وَالْعَنَائِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں اسرار و عنایات کے سر اور راز کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَشِينِ شَرَفِ الْأَبْرَارِ وَهَاءِ هِدَايَةِ الْأَخْيَارِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ تشین ہیں ابرار کے شرف کا۔ اور ہاء ہیں اعلیٰ کردار والوں کی ہدایت کی

وَصَادِ صَفَاءِ قُلُوبِ الْأَخْيَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور صاد ہیں اعلیٰ سیرت والوں کے قلوب کی صفاء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَوَّلِيَّةِ النَّهْيِ وَلَا مِ الْفِ الْإِبْتِدَاءِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ واد ہیں عقول و اذہان کی ولایت کے اور لام ہیں ابتداء

وَالْإِنْتِهَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

و انتہاء کی الف کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ يَاءِ يَنْابِيعِ الْإِمْتِنَانِ الْمُوَصَّلَةِ إِلَى الرِّضَاءِ وَالرِّضْوَانِ

جو محبوب کہ یاد ہیں امتنان و احسان کے ینابیع (سرچشموں) کی جو پہنچانے والے ہیں طرت رضاء و رضوان کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَلَاةٌ تُبَلِّغُ حَرْفَ الْيَاءِ وَحَقِيقَةَ الْبَدَاءِ إِلَى أَهْلِ الْإِصْطِفَاءِ

ایسی صلوٰۃ جو پہنچائے حرف یا اور حقیقت نداء کو اہل اصطفاء

وَالْاجْتِبَاءِ وَتُوصِلُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَبِحُرْمَةِ أَسْمَاءِ أَصْحَابِ

واہل اجتباء تک اور واصل کرے مہاجرین و انصار کو اور بظہیل حرمت و عزت اصحاب بدر

الْبَدْرِيَّةِ وَالْأَحْدِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَقْبُولِينَ الْمَرْضِيِّينَ رِضْوَانُ

اور اصحاب احد کے اسماء کے اور دیگر مقبولان و پسندیدگان بارگاہ خداوند تعالیٰ کے اسماء کے رضوان اللہ

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۚ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ

تعالیٰ علیہم اجمعین۔ پہنچائے بارگاہ الوہیت اور بارگاہ رسالت تک۔ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَا الْخَلِيقَةَ عِنْدَ خَلْقِ الْأَرْوَاحِ كَمَا دَعَاهُمْ عِنْدَ

آل پر جس محبوب نے دعوت تو حیدر رسالت دی مخلوق کو اپنے فرزان وجود کے ساتھ ارواح کی تخلیق کے وقت جیسے کہ دعوت

خَلْقِ الْأَشْبَاحِ ۚ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

دی انہیں وقت پیدا کئے جانے اجماع کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بُعِثَ وَالْخَلْقُ فِي ظُلْمَةٍ وَعَمَّاوَا لَمْ يَزَلْ

آل پر کہ جو محبوب اس وقت مبعوث ہوئے جبکہ مخلوق ابھی ظلمت اور پردہ عدم میں تھی۔ اور آپ ہمیشہ

يُخْرِجُ الْخَلْقَ بِنُورِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ طَوْعًا وَرَغْمًا ۚ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نکالتے رہے اپنے نور کی بدولت انہیں ظلمتوں سے (طرف نور ایمان کے) طوعاً و کرہاً۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ بِهِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس مرشد کریم کی بدولت کھول دئے اللہ تعالیٰ نے

أَبْوَابَ الْهُدَايَةِ وَسَدَّ اللَّهُ أَبْوَابَ الضَّلَالَةِ وَالْغَوَايَةِ ۚ اَللَّهُمَّ

دروازے ہدایت کے اور بند فرمادئے دروازے ضلالت و غوایت کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ دعوت دینے والے ہیں

اِلَى الْاِيْمَانِ فِي السِّرِّ وَالْاِعْلَانِ وَبِوَاكُلِّ اللهُ اَعْلٰى دَرَجَاتِ

طرف ایمان کے پنهانی اور علانیہ طریقہ پر۔ اور جگہ دی انہیں اللہ تعالیٰ نے جنات کے اعلیٰ درجات

الْجَنَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ يَبْدَأُ بِهٖ الذِّكْرُ الْجَمِيْلُ وَيَخْتَمُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کہ جس محبوب کی بدولت آغاز ہوا ذکر جمیل کا (عالم ارواح میں) اور انہیں رکے ذکر پر اسکی انتہاء ہوئی (عالم اشباح میں)

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی

اٰيَاتُهُ اَضْوَاءُ الْاٰيَاتِ وَاَجْلٰى وَاَعْلٰى اللهُ قَدْرَهُ عَلٰى كُلِّ مَنْ

آیات سب آیات و معجزات سے روشن تر اور واضح تر ہیں اور بلند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کو ہر

اَعْتَلٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

بلند بالاترین پر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ تَقَلَّدَ بِسَيْفِ الرِّسَالَةِ وَمَحَا اللهُ بِهٖدَايَتِهِ كُلَّ

پر کہ جس آقائے گلے میں لٹکانی رسالت کی تلوار اور مٹایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کی بدولت

شُبُهَةٍ وَّضَلٰلَةٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ہر شبہ اور گمراہی کو۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ نَعَتَهُ اللهُ فِيْ كُلِّ كِتَابٍ اَنْزَلَ وَفَصَّلَ

آل پر جس محبوب کی نعت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہر اس کتاب میں جس کو اس نے نازل فرمایا

اَللّٰهُ عَلٰى كُلِّ رَسُوْلٍ اُرْسَلَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اور فضیلت دی انہیں ہر اس رسول پر جسے ارسال فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَىٰ اللَّهُ بِهِ مَنِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہر ہدایت

اَهْتَدَىٰ وَبِاطْنِهِ نُورٌ وَظَاهِرُهُ هُدَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پانے والے کو اور اس محبوب کا باطن سراسر نور ہے اور ظاہر سراسر ہدایت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَبْعُوثٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بذات خود افضل ہیں اور مبعوث ہوئے ہیں

بِأَفْضَلِ مَلَّةٍ وَتَحَلَّلَ الْأَنَامُ بِهِ أَحْسَنَ حُلَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

ساتھ افضل ترین ملت کے اور مخلوق نے زیب تن کیا ان کے طفیل غویزین حلہ و خلعت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَمَامِ نِظَامِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ متمم ہیں سلسلہ

النَّبِيِّينَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرَائِيلُ الْأَمِينُ بِالرِّسَالَةِ مِنْ رَبِّ

انبیاء علیہم السلام کے اور نازل ہوئے ان پر جبرائیل امین ساتھ احکام رسالت کے

الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

رب العالمین کی طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا جُودَ إِلَّا مِنْ بَنَانِ يَمِينِهِ وَتَلَا لَأَ الْبَرْقِ فَوْقَ

آل پر کہ نہیں ہے جو دو عطا مگر اس محبوب کے دست راست کی انگلیوں سے اور چمکا نور مانند برق کے ان کی

جَبِينِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پیشانی مبارک پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَرَّقِيَ السَّبْعَ الطَّبَاقَ بِجَسْمِهِ وَفَضَّلَهُ

آل پر کہ جو محبوب چڑھے آسمانوں کے ساتوں طبقات پر جسم اقدس کے ساتھ اور فضیلت بخشی ہے انہیں

اللَّهُ فِي غَيْبٍ سَابِقٍ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سابق اور علم غیب ازلی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَادَ مَنْ يَأْتِي وَمَنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آتا کہ سردار ہیں آنے والوں کے اور گزرے

مَضَىٰ وَجَعَلَهُ اللَّهُ لِلرَّسَالَةِ مُرْتَضَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہوؤں کے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَمَّلَ اللَّهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامل فرمایا ہے

لَهُ الْمَجْدَ وَالْعُلَىٰ وَتَلَقَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّسُلُ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ

بزرگی و برتری کو۔ اور استقبال کیا ان کا ملائکہ اور رسل کرام نے ملا اعلیٰ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي شَيَّدَ اللَّهُ ارْتِقَاءً وَكَسَاهُ اللَّهُ نُورًا وَبَهَاءً اللَّهُمَّ

پختہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ارتقاء و بلندی کو اور خلعت پہنائی انھیں اپنے نور اور حسن کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت

سَلِمَ بِهِ الدِّينُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَلَا تَعْتَرِي حَادٍ سَيُوفِهِ مَذَلَّةٌ

دن محفوظ ہو گیا ہر آفت سے اور نہیں پیش آتی ان کی تلواروں کی دھار کو زنت

وَلَا مَخَافَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور نہ ہی خوف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَافَقَهُ جِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَكَلْبُ

آل پر کہ جس محبوب کے ساتھ رفاقت کا شرف حاصل کیا جبرائیل و میکائیل نے اور پہنا انہوں نے

تَبَاجِ الْهَبَابَةِ وَالتَّبَجِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رعب و دبدبہ اور تعظیم و تکریم کا تاج۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَطْلَعَ شَمْسَ نَهَارِ الدِّينِ وَ

اور آپ کی آل پر جس محبوب نے دین کے روز روشن کا آفتاب بلند اور

أَشْرَقَهُ وَأَخْفَى لَيْلَ ظُلَامِ الْكُفْرِ وَأَمَحَقَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

روشن کیا۔ اور کفر کی شب تاریک کو روپوش اور نیست و نابود کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخْصُوصِ بِالْفَضْلِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو مخلص ٹھرایا گیا ہے ساتھ فضل و کمال کے

فِي الْأَنْزَالِ وَسَدَّدَهُ اللَّهُ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ازل میں اور راسخ و مستحکم فرمایا گیا انھیں قول و عمل میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَىٰ اللَّهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کی بدولت ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے

بِهِ الْخَلْقَ إِنْسَهُ وَجَنَّةَهُ وَأَظْهَرَ شَرْعَ اللَّهِ فِيْنَا وَسَنَّهُ

سب مخلوق جن و انس کو اور ظاہر کیا ہمارے اندر شرع خداوندی کو اور اسے جاری فرمایا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَكْرَمَ اللَّهُ مَثْوَاهُ وَأَظْهَرَ سِرَّهُ وَشَرَحَ

جس محبوب کے ٹھکانے کو اللہ نے عزت والا بنایا اور ان کے راز ہستی کو ظاہر فرمایا۔ اور کشادہ فرمایا

اللَّهُ لِدَحْقِ صَدْرِهِ وَشَرَّفَ اللَّهُ قَدْرَهُ وَشَرَّافَتَهُ

حق کے لیے ان کے سینہ کو۔ اور بزرگی دی ان کی قدر و منزلت اور شرافت و

وَفَخْرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

فخر کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخْصُوصِ بِالشَّفَاعَةِ الْكُبْرَىٰ فِي الْوَارِ

کی آل پر جنہیں مخصوص کیا گیا ہے شفاعت کبریٰ کے ساتھ مخلوق کے لیے

وَأَعْجَزَتْ مُعْجَزَاتُهُ الْآنَا مَطْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اور عاجز کر دیا ہے ان کے معجزات نے ساری مخلوق کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَحَ اللَّهُ بِهِ الْهُدَى

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کیا

وَأَقَامَهُ وَسَارَتْ بِهِ بِرِيَا حِ النَّصْرِ شَهْرًا خَلْفَهُ وَشَهْرًا

اور اسے قائم فرمایا اور چلیں ان کی بدولت نصرت کی تند ہوا میں ایک مہینہ کی راہ تک ان کے پیچھے اور ایک مہینہ کی راہ تک

أَمَامَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ان کے آگے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَصَّعَتْ لَهُ فَنَنْ الْأَمْلاِكِ وَأَطْفَاءَ

آل پر کہ جس محبوب کے لیے نیاز مندی ظاہر کی تمام اقسام کے ملائکہ نے اور بچھا دیا

نُورِ نُبُوَّتِهِ ظَلَامِ الْإِشْرَاكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

ان کے نور نبوت نے شرک کی ظلمتوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْجَحَ اللَّهُ قَصْدَا

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے قصد و ارادہ کو اللہ نے کامیاب فرمایا

وَنَصَرَ اللَّهُ حَزْبَهُ وَأَنْجَزَ وَعْدَا وَكَمَّلَ اللَّهُ لَهُ وَصْفَهُ

اور آپ کی جماعت کی امداد فرمائی اور اپنا وعدہ پورا کیا اور کامل کیا آپ کے لیے آپ کے ہر وصف کو

وَصَلَّى إِمَامًا وَالتَّبِيُّونَ خَلْفَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

اور آپ نے نماز ادا فرمائی بطور امام ہونے کے جبکہ بھی انبیاء آپ کے پیچھے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْبُشْرَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ مسرت و خوشی

تَلَوَّحَتْ فِي وَجْهِهِ وَلَا يَأْتِي الزَّمَانُ بِشِبْهِهِ وَلَا يَقُومُ بِكُنْهِهِ

چمکتی تھی ان کے چہرہ اقدس میں اور نہیں لاسکے گا زمانہ آپ کے مشابہ شخص کو جیسے نہ لاسکا، اور نہ ہی موجود رکے گا ان کے



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مجانس کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي اتَّضَحَتْ بِهِ لِلْعَالَمِينَ الْمَعَالِمُ وَأَحَلَّ اللَّهُ

کہ جس محبوب کی بدولت واضح ہوئے سب اہل جہاں کے ایسے معالم دین۔ اور حلال بظہر ایا اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر

لَهُ مَا كَانَ حَرَامًا مِنَ التَّفْلِ وَالْغَنَائِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اموال نے اور غنیمت کو جو کہ پہلے حرام تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ انبیاء علیہم السلام کے امام و

وَخَطِيبِهَا وَدَوَاءِ الْأَدْوَاءِ وَطَيِّبِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

خطیب ہیں اور سب بیماریوں کی دوا اور طیب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَيَّاهُ اللَّهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا کو تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے

بِأَشْرَفِ الْمَكَارِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بزرگ و برتر خوبیوں کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَشَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِكْمَةَ فَجَمَعَهَا

اور آپ کی آل پر جس محبوب پر اللہ تعالیٰ نے حکمت کو پھیلا دیا پس انہوں نے اس کو اپنے دامن قلب میں سمیٹ لیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

بِالَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ أَفْضَلَ قُدْوَةٍ وَعُرْوَةٍ فِي الدِّينِ أَوْثَقَ

جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا افضل ترین مقتدا اور ان کے دین کی گرہ کو اور اسباب تشک کو مضبوط ترین

عُرْوَةَ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

گرہ اور ذریعہ تشک بنایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر



مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَوْتُهُ فِي الْمَحْشَرِ أَنْفَعُ دَعْوَةٍ أَللَّهُمَّ صَلِّ

کہ جس محبوب کی دعا محشر میں سب سے زیادہ نافع ہو گی۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَخَّصَّتْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے عبادت کی عمارتیں

فِي الْغَايِرِ قَبْلَ أَنْ يُوْحَىٰ إِلَيْهِ وَجَعَلَ اللَّهُ كُلَّ خَيْرٍ فِي الصَّلَاةِ

قبل اس کے کہ ان پر وحی نازل کی جائے اور بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر خیر ان پر درود بھیجنے

عَلَيْهِ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَعَثْتَهُ أَمَانٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْوَجَلِ أَللَّهُمَّ

محبوب کی بعثت امان ہے خوف و خطر سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے

جَدَّ فِي مَحْوَ الصَّلَاةِ وَمَحَقَهُ وَتَمَّ اللَّهُ بِهِ تِمَامَ خُلُقِهِ أَللَّهُمَّ

کوشش فرمائی گراہی کے مٹانے اور بے نام و نشان کرنے میں اور عیال فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنے تمام پسندیدہ اخلاق کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے

فَأَرَمْنَا مِنَ الْفِي إِلَيْهِ زَمَامَةٌ وَشَرَحَ اللَّهُ بِهِ الْهُدَىٰ وَأَقَامَهُ اللَّهُمَّ

حوالے کیا جس نے اپنی باگ ڈور کو تو وہ کامیاب ہو گیا اور واضح کیا اللہ نے ان کے طفیل ہدایت کو اور حکم فرمایا۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو

دَعَا اللَّهُ لِمَنَّا جَاتِهِ وَفَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَي جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهِ مِنْ

اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنی ہمکلامی کے لیے اور انہیں فضیلت دی اپنی تمام مخلوق پر



أَهْلِ أَرْضِهِ وَسَمَوَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خواہ اہل ارض سے ہے یا اہل سموات سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْآدِيَانِ دِينَهُ

اور آپ کی آل پر کہ جس آقا کا دین اللہ نے سب ادیان پر بلند فرمایا

وَيُحْشَرُ تَحْتَ لَوَائِهِ أَدْمُ فَمَنْ دُونَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور جمع کئے جائیں گے ان کے پرچم کے نیچے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَضَّلَ اللَّهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی صفت کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ

مَنْ صُنْفِ النَّبِيِّينَ صُنْفَهُ وَحَسَنَ اللَّهُ مِنَ الْأَوَّلِينَ مَرَاهُ

نے انبیاء علیہم السلام کے اصناف اور فروع پر اور حسین بنایا تمام اولین سے ان کے منظر کو

وَلَكِنَّ عِطْفَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور نرم بنایا ان کے سپرد کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْتَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ سُلَالَةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ عبد المطلب

ابْنِ هَاشِمٍ وَحَمَا اللَّهُ بِهِ أَهْلَ الدُّنْيَا وَالِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

بن ہاشم کی نسل سے اور محفوظ فرمایا ان کے طفیل دُنیا والوں کو اور دُنیا والوں کو۔ اے اللہ رحمت

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمَحَ

و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے

غَمَامَ الْجُودِ مِنْ يَمِينِهِ وَجَعَلَهُ اللَّهُ مُقْتَدِي بِهِ وَبِدِينِهِ

جو دو نوال کے ابرو کو جاری فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اور اللہ نے ان کو مقتدی بنایا اور ان کے دین کو لائق اقتداء۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر



مُحَمَّدٍ الَّذِي صَدَّقَهُ أَهْلُ الصِّدْقِ وَالْفَضَائِلِ وَقَامَتْ

جس رسول برحق کی تصدیق کی اہل صدق اور باب فضائل نے اور قائم ہوئے

بِصِدْقِهِ الْآيَاتُ وَالذَّلَالَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

ان کے صدق و حقانیت کے ساتھ آیات اور دلائل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَقْضَىٰ بِعَظِيمِ شَأْنِهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ فیصلے صادر کئے جاتے ہیں اس محبوب کی عظمت شان کیساتھ

وَتُلْقَى الْقُرْآنُ مِنْ فَيْصِحٍ لِسَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

اور حاصل کیا جاتا ہے قرآن ان کی فیصیح و بیخ زبان سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ أَعْظَمَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم تر

وَسَأَلَهُ وَشَفَعَهُ اللَّهُ فِي كُلِّ خَائِفٍ وَنَاعِلٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

وسید۔ اور شفیع بنایا انہیں ہر خوفزدہ اور محشیت والے میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ذَلَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ تا بعد از بنایا

كُلَّ الْعَدَىٰ بِحُسَامِهِ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ خَيْرِ الدَّارِينَ فَوْقَ فَطْلِهِ

جس آقائے تمام دشمنوں کو اپنی تلوار سے۔ اور عطا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دارین کی خیر سے ان کے مقصد و مرام

وَمَرَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

سے زیادہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَدَأَ آيَتَهُ لِلْمُرْسَلِينَ نِهَآيَةً ۖ وَلَهُ مِنَ اللَّهِ

پر کہ جس آقائے خلق کی ابتداء مرسلین کے مقامات کی انتہا ہے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

كِفَايَةً ۖ وَحَوْطَةً ۖ وَحِمَايَةً ۖ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

کفایت و حفاظت اور حمایت حاصل ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَسَاهُ اللَّهُ نُورًا وَبِهَاءَهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پہنایا اللہ تعالیٰ نے انہیں نور اور حسن

وَظَهَّرَ اللَّهُ مَكَانَهُ وَمَثْوَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور پاک کیا ان کے مکان اور ٹھکانے کو۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُهِيَ عَنِ نَرْ خَارِفِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو روک دیا گیا دُنیا کی آرائشوں کی طرف نظر کرنے

الدُّنْيَا وَأَقْرَلَهُ بِالْفَضْلِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَ

سے اور اقرار کیا ان کے فضل و کمال کا پہلے مرسلین اور

الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

انبیاء علیہم السلام نے۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خُصَّ بِالْحَوْضِ وَاللِّوَاءِ وَأَرْسَلَهُ اللَّهُ

آل پر کہ جو محبوب مخصوص ٹھہرائے گئے حوض کوثر اور لواءِ حمد کے ساتھ اور مبعوث فرمایا انہیں اللہ

إِلَىٰ كَافَّةِ الْخَلْقِ بِالسَّوَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تے تمام مخلوق کی طرف ساتھ راہ اعتدال کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَبَعَهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

اور آپ کی آل پر کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کو مکامِ اخلاق پر

وَأَعْطَاهُ اللَّهُ سُؤْلَهُ يَوْمَ التَّلَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور عطا کرے گا انہیں ان کا مطلوب قیامت کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَغَاثَ اللَّهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے فریاد رسی فرمائی

بِهِ الْوَرَىٰ وَسَجَمَ اللَّهُ بِهِ الْعِبَادَ طَرًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ان کی بدولت سب مخلوق کی اور ان کے طفیل رحم فرمایا سب بندوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْيَى اللَّهُ بِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا ان کی بدولت

رُسُومَ الدِّينِ وَأَذَلَّ اللَّهُ بِهِ رِقَابَ الْكُفْرَةِ الْجَاهِلِينَ

دین کے آثار کو اور ذلیل کیا ان کے فریضے کفار و مسکین کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي هُوَ بِكُلِّ خَيْرٍ يُوصَفُ وَهُوَ بِالْصِّدْقِ قَبْلَ النَّبِيِّ

جو محبوب کہ ہر خیر و خوبی کے ساتھ موصوف ہیں۔ اور اعلان نبوت سے قبل صدق کے ساتھ

يُعْرَفُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

معروف تھے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْتَرَمَتْ بِهِ النَّفُوسُ وَرَفَعَ اللَّهُ بِهِ

آل پر کہ احترام کیا گیا ان کے صدقے میں نفوس کا اور اٹھایا اللہ تعالیٰ نے ان کے طفیل

الضَّرَاءَ وَالْبُؤْسَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نقصانات اور شدائد کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ دَاعِيًا

اور آپ کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے ارسال فرمایا اس محبوب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے

وَبَعَثَهُ اللَّهُ لِلْكَفْرِ مَا حَيًّا وَعَنِ الْبُهْتَانِ نَاهِيًا اللَّهُمَّ

اور مبعوث فرمایا انہیں کفر کو مٹانے کے لیے۔ اور بہتان تراشی سے منع کرنے کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ مِنْ مَّامِرِ الْعَالِي فِي يَدَيْهِ وَحَرَمًا امْنًا لِمَنْ

کہ اللہ تعالیٰ نے دے دی برتریوں کی نگام اس محبوب کے ہاتھوں میں۔ اور بنایا انہیں امن والا حرم واسطے



يَدُجَا إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پناہ طلب کرنے والے کے طرف ان کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ لَمْ يَزَلْ مَكِينًا أَمِينًا اللَّهُمَّ صَلِّ

آل پر جو محبوب کہ ہمیشہ سے برتری اور امانت کے مالک رہے۔ اے اللہ رحمت

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الطَّاهِرِينَ

اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ فرزند ارجمند ہیں پاکیزہ مردوں

وَالطَّاهِرَاتِ وَالْمُحْصِنِينَ وَالْمُحْصَنَاتِ اللَّهُمَّ يَا مَنْ يَعْلَمُ

اور عورتوں کے اور نکاح والے مردوں اور عورتوں کے۔ اے اللہ، اے کہ جانتا ہے

مَرَادَ الْمُرِيدِينَ وَيَا مَنْ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ يَا مَنْ

مراد مراد والوں کی، اے کہ جانتا ہے خاموش لوگوں کے قلبی معاملات کو۔ اے کہ

يَسْمَعُ أُنِينَ الْوَاهِنِينَ يَا مَنْ يَرَى بُكَاءَ الْخَائِفِينَ يَا مَنْ

سنا ہے کمزوروں کی آہوں کو۔ اے کہ دیکھتا ہے رونا خوفزدگان کا۔ اے کہ

يَسْمَعُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ يَا مَنْ يَقْبَلُ عُدْرَ التَّائِبِينَ يَا مَنْ

مالک ہے سائلوں کی حاجات کا۔ اے کہ قبول فرماتا ہے معذرت تو بہ کرنے والوں کی۔ اے کہ

لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ يَا صَانِعَ كُلِّ مَصْنُوعٍ وَيَا

نہیں ضائع کرتا اجر نیکو کاروں کا۔ اے اللہ، اے بنانے والے ہر شئی کے۔ اور اے

جَابِرُ كُلِّ كَسِيرٍ وَيَا حَاضِرَ كُلِّ خَائِفٍ وَيَا مُؤَنِّسَ كُلِّ فَقِيرٍ

درست کرنے والے ہر ٹوٹی شئی کے۔ اے موجود ہونے والے پاس ہر خوفزدہ کے۔ اے انس دینے والے ہر

وَيَا خَالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ وَيَا فَاتِحَ كُلِّ مَفْتُوحٍ وَيَا حَافِظَ كُلِّ

فقیر کے۔ اے پیدا کرنے والے ہر مخلوق کے۔ اے فتح کرنے والے ہر مفتوح کے۔ اے حفاظت کرنے والے ہر

مَحْفُوظٍ وَيَا غَالِبَ كُلِّ مَغْلُوبٍ وَيَا مَالِكَ كُلِّ مَمْلُوكٍ وَيَا

محفوظ کے۔ اے غالب ہر مغلوب کے اے مالک ہر مملوک کے۔ اے

شَاهِدَ كُلِّ مَشْهُودٍ بِأَجْعَلُ مِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَقَدْ فُ

شاہد ہر مشہود کے بنا میرے لیے کشائش اور خلاص کی راہ میرے امور میں۔ اور ڈالنے

فِي قَلْبِي أَنْ لَا أَرْجُو أَحَدًا سِوَاكَ يَا مَقْلَبَ الْقُلُوبِ قَلْبُ

میرے دل میں (اپنی رجا اس حد تک) کہ نہ امید رکھوں تیرے سوا کسی سے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے پھیر دے

قُلُوبَنَا اللَّهُمَّ يَا دَائِمَ الْأَبَدِ الْمُحْصَى الْهُدَى بَعْدَ

ہمارے دلوں کو (اپنی طرف) اے اللہ اے ہمیشہ رہنے والے، اے احاطہ کرنے والے۔ ہدیہ دینے والے بمطابق گنتی

الْحِصَى الْحُنْفَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کنکریوں کے حق کی طرف مائل ہونے والوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي يُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِكْرَامًا لَعَلَّوْشَرَفِ قَدْرِهِ وَشَرِافَةِ

کہ نداء دی جائے گی قیامت کے دن ان کی قدر و منزلت کی بلندی اور عظمت و شرافت

عَظْمِهِ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ يُسَبِّحُ بِاسْمِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنَا

کے اکرام کے لیے کہ ضرور داخل ہوں گے جنت میں جو ہر سو گئے گئے ہیں اس محبوب اسم پاک کے ساتھ۔ اے اللہ ہمیں محفوظ

مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْقَضَاءِ بِمَا أَهْلَكَ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَبِإِيْهِجِ

فرما تمام بلیات سے اور قضاء سے ساتھ اس شئی کے جو ہلاک کرے یعنی اعداء کے شر سے اور ساتھ اس شئی کے جس کو بھڑکانے

الْحُمْرَاءِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِحَقِّ خَاتِمِ سَلِيمَانَ

گرا کی شدت یعنی شر ہر اس شئی کا جسے پیدا کیا زمین اور آسمان کے درمیان بحق خاتم سلیمان بن

بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَبِحَقِّ تَمْخِيْنَا يَا تَمْخِيْنَا يَا مُوْشَطِيْنَا يَا

داؤد علیہما السلام اور بحق تمخیشا یا تمخیشا یا موشطیشا یا

كَهَيْجِ يَا كَهْهَيْجِ يَا رَبَّاهُ يَا سَيِّدَا أَلْيَا مَوْلَاهُ يَا غَايَةَ رَغْبِيَا بُشْرَفِ

کھیج یا کھھیج، اے رب۔ اے سید، اے مولیٰ اے میرے منتہائے رغبت بطفیل اپنے شرف

رَغْبَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ يَا

رغبت و محبت کے۔ اے فریادوں کے فریادرس۔ اے خوفزدگان کی امان۔ اے

مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ اسْتَجِبْ دُعَائِي بِحَقِّ آدَمَ

دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے حاجات کے پورا کرنے والے قبول فرما میری دعا کو بظہیر حق آدم

صَفِيِّ اللَّهِ وَنُوحِ نَبِيِّ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ وَمُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ وَ

صفی اللہ کے اور نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ کے اور

عِيسَى رُوحِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَبِحَقِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ

عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ کے اور بحق جبرائیل و میکائیل

وَإِسْرَافِيلَ وَعِزْرَائِيلَ وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ وَالْكَرُورِيِّينَ

اور اسرائیل و عزرائیل کے اور حاملین عرش و کرسی اور کروڑیوں

وَالرُّوحَانِيِّينَ وَالْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ وَبِحَقِّ سَفَرَةِ الْبُرَّةِ وَالْكَرَامِ

اور روحانیوں کے اور ملائکہ مقربین کے اور بحق ان ملائکہ کرام کے جو کاتبان (صحف و کتب ہیں) اور بزرگ

الْكَاتِبِينَ وَبِحَقِّ تَوْرَةِ مُوسَى وَإِنْجِيلِ عِيسَى وَزَبُورِ دَاوُدَ وَفِرْقَانَ

ملائکہ کے جو کاتبان اعمال ہیں۔ اور بحق تورات موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داؤد اور فرقان

مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اعْطِنِي شَرَفًا

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم۔ اے اللہ مجھے عطا فرما شرف

وَشَرَفًا بَشْرَفِهِ وَشَرَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور بزرگی بظہیر شرف اور شرافت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَوَّنَهُ اللَّهُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ بنا یا اس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ہر موجود سے

قَبْلَ كُلِّ وَجُودٍ وَكَانَ آدَمُ غَيْرَ مَوْجُودٍ وَلَا ذَبِيهِ آدَمُ فَتَيَّبَ عَلَيْهِ

پہلے جبکہ حضرت آدم بھی موجود نہیں ہوئے تھے۔ اور پناہ پکڑی ساتھ ان کے آدم علیہ السلام نے پس ان پر توبہ کی گئی

وَبَيَّوَأَادِرْيسَ مَكَانَ صَدَقِ لَدَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور جگہ دی اور یس علیہ السلام کو مکان صدق میں پاس اپنے (انھیں کے طفیل) اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَالَ بِهِ نُوحٌ فِي
محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پایا انہیں کے طفیل نوح علیہ السلام نے

السَّفِينَةِ أَمْنَا وَخَصَّ بِهِ صَالِحًا بِالْمَقَامِ الْأَسْنَىٰ وَعَزَّرَ بِهِ
سستی میں امن - اور خاص کئے گئے بطفیل ان کے صالح علیہ السلام ساتھ بلند مرتبت کے - اور عزت پائی بطفیل ان کے

شُعَيْبٌ وَهُودٌ وَجَاهِدَ بِهِ مُوسَىٰ الْيَهُودَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
شعیب اور ہود علیہما السلام نے - اور جہاد کیا انہیں کے طفیل موسیٰ علیہ السلام نے یہود سے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَجَّىٰ بِهِ آدَمَ مِنْ
سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ نجات پائی بطفیل ان کے آدم علیہ السلام نے اپنی

ذَنْبِهِ الَّذِي كَانَ وَنُوحًا مِنَ الطُّوفَانِ وَالْكَلِيمُ بِشِقِّ الْبَحْرِ مِنْ
خطا و اجتہاد ہی کے اثر مرتب سے اور نوح علیہ السلام نے طوفان سے - اور حضرت کلیم نے (طفیل ان کے) سمندر کے پھٹ جانے کے

فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ وَرَفَعَ اللَّهُ بِهِ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ فَتَجَّىٰ مِنْ يَهُودِهِ
بعد فرعون سے اور اس کے لشکروں سے - اور اٹھایا انہیں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پس نجات پائی انہوں نے یہود سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي
اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اسی محبوب کے طفیل

بِهِ صَيَّرَ النَّارَ بَعْدَ الضَّرِّ أَمَّ عَلَىٰ الْخَلِيلِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَأَعْطَىٰ بِهِ
کر دیا اللہ نے آگ کے بھڑکنے کے بعد حضرت خلیل علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی اور عطا کئے گئے انہیں کے

دَاوُدَ الْحَكِيمَةَ وَفَصَلَ الْخَطَّابِ وَأُوتِيَ بِهِ سُلَيْمَانَ الْمُلْكَ وَحَسَنَ
طفیل داؤد علیہ السلام حکمت اور فصل خطاب اور دیا گیا انہیں کے طفیل سلیمان علیہ السلام کو ملک اور اچھا

الْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا
ٹھکانہ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أُفْدِيَ بِهِ الذَّبِيحُ وَكَانَ بِهِ دُعَاءُ الْمَسِيحِ ط
کہ جس محبوب کے طفیل فدیر دئے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یحییٰ انہیں کے صدرتے میں دعائے مسیح کی مقبول اور

مُحَمَّدٍ الَّذِي أُفْدِيَ بِهِ الذَّبِيحُ وَكَانَ بِهِ دُعَاءُ الْمَسِيحِ ط
کہ جس محبوب کے طفیل فدیر دئے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یحییٰ انہیں کے صدرتے میں دعائے مسیح کی مقبول اور

مُحَمَّدٍ الَّذِي أُفْدِيَ بِهِ الذَّبِيحُ وَكَانَ بِهِ دُعَاءُ الْمَسِيحِ ط
کہ جس محبوب کے طفیل فدیر دئے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یحییٰ انہیں کے صدرتے میں دعائے مسیح کی مقبول اور

كشَفَ اللهُ بِهِ الصَّرْعَ عَنْ أَيُّوبَ وَبِاسْمِهِ رُدَّ يُوْسُفُ إِلَى

دور کیا اللہ تعالیٰ نے بطفیل ان کے ایوب علیہ السلام سے بیماری کو۔ اور انہیں کے نام کے صدقے میں لوٹا یا گیا یوسف علیہ السلام کو

يَعْقُوبَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

طرف یعقوب علیہ السلام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَالَ الصَّبْرَ وَالرِّضَى زَكْرِيَّا بِعِلَاةٍ وَأَنْسَ ذُو النُّونِ

کہ پایا صبر و رضا کو زکریا علیہ السلام نے ان کی برتری کے صدقے میں۔ اور انس حاصل کیا ذوالنون علیہ السلام نے

مَنْ سَنَاهُ وَنَجَّى اللهُ بِهِ لُوطًا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَهُوَ بِهِ مَنُوطٌ اللَّهُمَّ

ان کے نور و ضیاء سے اور نجات دی ان کے صدقے لوٹا علیہ السلام کو اور نہیں موجود ہوا کوئی نبی مگر وہ آپ کے ساتھ متعلق تھا اے اللہ

اعصمني من الشيطان الرجيم بعصمة شرفه صلى الله عليه

مجھے بچا شیطان رجیم سے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و شرف کے

وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَلَا يَهْدِنِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا

طفیل۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اچھے اخلاق کی اور نہیں ہدایت دیتا ان کی مگر

أَنْتَ وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ

ترہی اور دور کر مجھ سے بُرے اخلاق کو اور نہیں دور کرتا انہیں مگر تو ہی۔ اے اللہ

بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

دوری پیدا فرما درمیان میرے اور میری خطاؤں کے جیسے کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کی

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَتَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا

اے اللہ دھو ڈال میرے گناہوں کو ساتھ پانی، برف اور اولوں کے اور پاک کر مجھے گناہوں سے

كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجَلَّةً

جیسے پاک کیا جاتا ہے کپڑا میل سے۔ اے اللہ بخش دے میرے گناہ تمام چھوٹے اور بڑے

وَأَوَّلَهُ وَأَخْرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ اللَّهُمَّ اعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا

اول و آخر اور علانیہ و خفیہ۔ اے اللہ عطا کر میرے نفس کو تقویٰ اور اسے پاک فرما

أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّيْتَهَا أَنْتَ وَلِيَّتُهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے اس کا۔ تو ہی اس کا ولی اور مولیٰ ہے۔ اسے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْ مَقَامِهِ الْأَنْبِيَاءُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اسی محبوب کے مرتبہ و مقام کی بدولت انبیاء نے بندی پائی

سَتْ وَمِنْ بَحَارِ جُودِهِ عَرَفْتُ وَمَا نَالَ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَنَّةً إِلَّا بِهِ

اور انہیں کے جود و عطا کے سمندروں سے چلو بھرے۔ اور جس نے جو انعام پایا انہیں کے ذریعے پایا اور انہیں پر

وَالْيَهُ أَنْتَهُتُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ان انعامات کی انتہا ہوئی۔ اسے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَدْرَ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ وَتَهُمْ وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ وَخَيْرَتَهُمْ

جو محبوب کہ انبیاء عظیم السلام کے صدر اور مقتدر ہیں اور مرسلین سے منتخب اور افضل ہیں

وَسَمَكَ صُعُودُهُمْ وَسَبَبٌ وَجُودُهُمْ وَعَيْنٌ كَمَا لَهُمْ وَرِيَاضُ

ان کی ترقی کی انتہا اور معراج ہیں۔ ان کا سبب وجود اور عین کمال ہیں۔ اور ان کے جمال

جَمَالِهِمْ وَمَهَبٌ رِيَاحِهِمْ وَعَنْبَرٌ أُرْيَاحِهِمْ وَعِزَّةٌ يُسْنِهِمْ وَ

کے باغات اور ان کے لیے اٹھنے والی ہواؤں کا منبع ہیں اور ان کی خوشبوؤں کے لیے عنبر۔ ان کی برکتوں کی عزت

بَهْجَةٌ حُسْنِهِمْ وَمَحْضٌ هَدَايَتِهِمْ وَعَيْنٌ عِنَايَتِهِمْ وَقَبْلَةٌ

ان کے حسن کی بہار۔ خالص ہدایت اور مجسم عنایت، قبلہ

صَلَاتِهِمْ وَمَدَدٌ صَلَاتِهِمْ وَكَعْبَةٌ طَوَافِهِمْ وَدَعْوَةٌ أَسْلَافِهِمْ

صلوٰۃ اور ان کی عطیات کی افزائش (برکات) ان کے طواف کا کعبہ۔ ان کے اسلاف کی دعوت

وَمِفْتَاحُ خَزَائِنِهِمْ وَيَتْبُوعُ مَعَادِنِهِمْ وَنُورٌ أَنْوَارِهِمْ وَسِرٌّ

ان کے خزانوں کی چابی۔ ان کے معاون کا سرچشمہ۔ ان کا نور انوار اور سرالاسرار

أَسْرَارِهِمْ وَتَاجٌ رُءُوسِهِمْ وَعِذَاءٌ نَفُوسِهِمْ وَعَلِمٌ أَعْلَامِهِمْ

ان کے سروں کا تاج۔ نفوس کی غذا، ان کے پرچموں کی زینت ہیں

وَمُسْكَةٌ خِتَامُهُمْ وَعِقْدٌ سِدِّكُهُمْ وَشِرَاعٌ فُلِكُهُمْ وَفَيْضٌ مِنْهُمْ

ان کی مہر کی کتوری اور ان کی لڑی کا ہار ہیں۔ ان کی کشتی کا بادبان۔ ان کے گھاٹ کا فیضان

وَبَابٌ مَدْخَلُهُمْ وَظِلَّهُمُ الْمَيْدِيدُ وَحَصْنُهُمُ الْمَشِيدُ وَفَجْرُهُمْ

ان کے داخل ہونے کا دروازہ۔ اور ان پر دراز سایہ۔ ان کا مضبوط قلعہ۔ ان کی چپتی فجر

الذَّامِعُ وَطُورٌ بِهِمُ الْمَانِعُ وَحَجَّجَهُمُ الْمَبْرُورُ وَسَعَّيْرُهُمُ الْمَشْكُورُ وَ

اور ان کا۔ محافظ طور۔ ان کا مقبول حج۔ ان کی قابل شکر یہ سعی

حِطَّهُمُ الْوَانِي وَدَوَائِبُهُمُ الشَّانِي وَسِرَاجُهُمُ الزَّاهِي وَطَرَارِيُّهُمْ

ان کا خط کامل۔ ان کی دواہ شانی۔ ان کا چمکتا چراغ۔ اور ان کا قابل فخر نقش و نگار

الْبَاهِي وَغُرَّةٌ أَفَاقُهُمْ وَبَابَةٌ أَعْرَاقُهُمْ وَهُدًى صُلَاحُهُمْ وَرُشْدٌ

ان کے آفاق کی روشنی۔ ان کی ہڈیوں کا مغز۔ ان کی بہتری کی ہدایت۔ اور کامیابی کی

فَلَاحُهُمْ وَوَصْلَةٌ مَوْصُولُهُمْ وَسَلَامٌ وَصُولُهُمْ وَحُلًى أَجْيَادُهُمْ

رہنمائی۔ ان کی پیوستگی کا ذریعہ وصل۔ اور ان کے وصول کی سیرطھی۔ اور ان کی گردنوں کے ہار اور زیورات

وَمَدَدٌ أَمْدَادُهُمْ وَجَامِعٌ شَيْبُهُمْ وَخِتَامٌ مَحْفَلُهُمْ وَمَبْلَغٌ شِيُونُهُمْ

ان کی امدادوں کا ذریعہ وسیلہ۔ ان کی جمعیت کا سامان۔ ان کی محافل کا انجام اور ان کے اوصاف و کمالات کا منتہا

وَأُنْسَانٌ عِيُونُهُمْ وَأَنْسٌ أَنْسُهُمْ وَضِيَاءٌ شَمْسُهُمْ وَذُرُورَةٌ سَتَامُهُمْ

ان کی آنکھوں کی پتلی۔ ان کے انس کا موجب۔ ان کے آفتاب کی ضیاء۔ اور ان کی بلندیوں کی چوٹی اور غایت

وَأِمَامٌ إِمَامُهُمْ وَمُسْكَةٌ حَبِيبُهُمْ وَذُرَيْرَةٌ طَبِيبُهُمْ وَ

اور ان کے اماموں کے امام۔ ان کے حبیب کے کنکھن۔ اور ان کے طبیب کی چھڑکنے والی دوائی اور

ضَوْءٌ سِرَاجُهُمْ وَسَمٌّ مَعْرَاجُهُمْ وَصَدْرٌ رِصْدُهُمْ وَرَاهِمٌ وَبَدْرٌ

ان کے چراغ کی روشنی۔ ان کے معراج کی بلندی اور ان کے صدر الصدور۔ اور ان کے ماہتابوں کے

بُدُورُهُمْ وَمَشْرِعٌ شَرِّعُهُمْ وَمَجْمَعٌ جَمْعُهُمْ وَقُطْبٌ فَلِكُهُمْ وَ

ماہتاب۔ ان کے شرائع کا گھاٹ۔ اور ان کے اجتماع کا محل و مقام۔ ان کے فلک کا قطب اور

عَيْنَ كَتَيْبَتِهِمْ وَوَاسِطَةَ قَلَادَتِهِمْ وَبَيْتَ قَصِيدَتِهِمْ وَنُقْطَةَ

ان کے شکر کے بحر - اور ان کے ہار کا درمیانی قیمتی جوہر - ان کے قصیدہ کا بیت - ان کے دائرہ تبرت

دَائِرَتِهِمْ وَشَمْسِ عُلَاهُمْ وَهَلَالِ كَيْلَتِهِمْ وَرَأْسِ مَشْرِبِهِمْ

کا مرکز - ان کی بلندی و برتری کا آفتاب اور ان کی رات کا ہلال - ان کے مشرب کا اصل

وَغَايَةَ مَطْلِبِهِمْ وَبَدْرَ هُدَاهُمْ وَنَجْمَ عُلَاهُمْ وَنُورَ بَهَاہُمْ

اور ان کے مطلب کی غایت - ان کی ہدایت کا بدر منیر - اور ان کی برتری کا ستارا اور ان کے حسن کا نور

وَضَوْءَ سَنَاهُمْ وَيَمِينَ طَرِيقَتِهِمْ وَعَضْنَ حَدِيقَتِهِمْ وَمَرْكَزَ

ان کی روشنی کی منور - ان کے طریقہ کی برکت - ان کے باغ کی تازہ شاخ - اور ان کے وجود کا

وَجُودِهِمْ وَفَلَکِ صُعُودِهِمْ وَمَدَدِ جَمَالِهِمْ وَسُودِ دِكْمَالِهِمْ

مرکز - ان کی بندگیوں کا آسمان - ان کے جمال کا موجب افزائش اور ان کے کمال کی سیادت

وَمَنْهَلِ وُرُودِهِمْ وَخَالِصِ وُدِّهِمْ وَمَطْلَعِ انْوَارِهِمْ وَرَوْضَةِ

ان کا (پیس بھانے کیلئے) وارد ہونے اور دھونے کا گھاٹ - ان کی محبت کا خلاصہ ان کے انوار کا افق مشرقی ان کے پھولوں کا باغ

اَزْهَارِهِمْ وَعَرْشِ اَكْنَافِهِمْ وَجَوْهَرِ اَصْدَافِهِمْ وَجَبَلِ اَعْتَصَامِهِمْ

ان کے اطراف و جوانب کے (محیط) عرش - ان کی سپیوں کے جوہر - ان کے نمک کے قابل جبل متین

وَنَيْتِجَةِ اَفْهَامِهِمْ وَرُكْنِهِمُ السَّيِّدِ وَطَالِعِهِمُ السَّعِيدِ وَصَبْحِهِمْ

ان کے انعام و عقول کا نتیجہ و ثمرہ - اور ان کا مضبوط سہارا - ان کا سعادت مند ستارا - ان کی واضح صبح سعادت

الْاَبْلَجِ وَحُسْنِهِمُ الْاَبْهَجِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ان کا رونق افزا حسن - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَعْطٰی خُلُقَ اٰدَمَ وَمَعْرِفَةَ شَيْثِ

اور آپ کی آل پر جس محبوب کو عطا کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کا خلق - حضرت شیث کی معرفت

وَشُجَاعَةَ نُوحٍ وَشِدَّةَ مُوسٰی وَخَلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ وَلِسَانَ

حضرت نوح کی شجاعت - حضرت موسیٰ کی شدت حضرت ابراہیم کی خلعت - حضرت اسماعیل کی

إِسْمَاعِيلَ وَحَبِّ دَانِيَالَ وَرِضَى إِسْحَاقَ وَنُرْهُدَا عِيسَى وَ

زبان فیصیح - حضرت دانیال کی محبت - حضرت اسحاق کی رضا - حضرت عیسیٰ کا زہد

فَصَاحَةَ صَالِحٍ وَحِكْمَةَ لُوطٍ وَجَمَالَ يُونُسَ وَبُشْرَى يَعْقُوبَ

حضرت صالح کی فصاحت - حضرت لوط کی حکمت - حضرت یوسف کا جمال - حضرت یعقوب کی بشارت

وَطَاعَةَ يُونُسَ وَجِهَادَ يُوْشَعَ وَصَوْتَ دَاوُدَ وَعَصْمَةَ يَحْيَى

حضرت یونس کی طاعت - حضرت یوشع کا جہاد - حضرت داؤد کی سُرُعی آواز - حضرت یحییٰ کی پاکدامنی

وَصَبْرًا أَيُّوبَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور حضرت ایوب کا صبر علیہم الصلوٰۃ والسلام - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ مَنْظَرُهُ يَدُلُّ عَلَى نُبُوَّتِهِ وَخُلُقُهُ

آل پر جن کا چہرہ اقدس ان کی نبوت پر دلالت کرتا تھا اور جن کا خلق حسن

يَدُلُّ عَلَى حُسْنِ سَيْرَتِهِ وَسِرِّيَّتِهِ وَظَهَرَتْ أَنْوَارُ النُّبُوَّةِ عَلَى

ان کے حسن کردار اور حسن باطن پر دلالت کرتا تھا اور ظاہر ہوئے نبوت کے انوار ان کی جبین اقدس پر

جَبِينِهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَلَمْ يَتْرُكْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا يَرْتَهَنَهُ وَرَثَتُهُ

ان کی بعثت سے قبل - اور انہوں نے ترکہ میں نہ چھوڑا درہم و دینار کو جس کے وارث بنتے ان کے قریبی رشتہ دار

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو

أَوْتِي مَقَالِيدَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ اللَّهُمَّ صَلِّ

عطا کی گئیں آسمانوں اور زمینوں (کے خزانوں) کی چابیاں چتے گھوڑے پر (لاد کر) - اے اللہ رحمت

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ عِبَادُ

اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ ستون ہیں

الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَآتَمَّ اللَّهُ بِهِ الْكَلِمَةَ الْعُلْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دین و دنیا کے اور کامل فرمایا ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کلمہ علیا کلمہ توحید کو - اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَغِضْتُ إِلَيْهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ مبغوض ٹھہرائے گئے طرف اس محبوب کے

فِي حَالِ صَغَرِهِ الْاَوْثَانُ وَاُعْطِيَ اَلْفَ قَصْرٍ مِّنْ لُّوْلُو تَرَابِهَا

بچپن میں ہی اصنام اور عطا کئے گئے آپ کو ہزار محلات موتی سے جن کے صحن کی تراب (کی جگہ)

الْمُسْكُ وَالزَّعْفَرَانُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ستوری اور زعفران بچھا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللهُ الْاَنْبِيَاءَ فِي الْمَعَادِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو آخرت میں

تَلَجًا اِلَيْهِ وَجَعَلَ اللهُ الْمَلٰٓئِكَةَ تَبْلِغُهُ صَلٰوةً مِّنْ صَلَّى عَلَيْهِ

پناہ پکڑنے والے طرف ان کے اور مٹین کر دیا ہے ملائکہ کو جو پہنچاتے ہیں انہیں درود و سلام درود و سلام

وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بھینے والوں کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي يَتَزَوَّجُ مَرْيَمَ وَاَسِيَةَ فِي الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ اَللّٰهُمَّ

جو محبوب کہ نکاح فرمائیں گے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے ساتھ جنت عالیہ میں۔ اے اللہ

اِنَّكَ خَلَقْتَ عَظِيْمًا اِنَّكَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اِنَّكَ

تو عظیم خالق ہے، تو ہی سُننے جاننے والا ہے۔ تو ہی بھنٹنے رحم کرنے والا ہے۔ تو ہی

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ فَالِقَ الْاَصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ

عرش عظیم کا مالک ہے۔ اے اللہ پھاڑنے والے صبح کے (شب نازکے بطن سے) اور نلنے والے

سَكْنَا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْنِنِي

رات کو وقت سکون و استراحت کا۔ اور سورج و چاند کو ذریعہ حساب کا۔ ادا کر ہم سے قرض اور غنی کر ہمیں

مِنَ الْفَقْرِ وَقَوِّنِي عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيْلِكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ

فقر سے۔ اور مجھے قوت دے اپنی راہ میں جہاد پر۔ اے اللہ۔ اے رب

السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ

ساتوں آسمانوں کے اور رب عرش عظیم کے۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے

لَا شَرِيكَ لَكَ وَالْفَرْدُ لَا يَدَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ

نہیں شریک تیرے لیے۔ اور تو ہی کیتا ہے نہیں تیرے مقابل تیرے لیے۔ ہر چیز ہلاک ہو جو ہی ہے ماسوائے تیری ذات کے

لَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَلَنْ تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ تُطَاعُ فَتَشْكُرُ

نیری ہرگز اطاعت نہیں کی جائے گی مگر تیری توفیق سے۔ اور ہرگز نافرمانی نہیں کی جائے گی مگر تیرے علم سے تیری اطاعت کی جاتی ہے پس توجہ دے کر تیرے غیر عطا فرماتا

وَتُعْصَى فَتَغْفِرُ أَقْرَبُ شَهِيدٍ وَأَدْنَى حَفِيظٍ حَلَّتْ دُونَ

ہے اور تیری نافرمانی کی جاتی ہے پس توجہ دیتا ہے۔ قریب ترین گواہ ہے۔ اور قریب ترین گواہ ہے۔ اور قریب ترین

الْأَنْفُسِ وَأَخَذَتْ بِالتَّوَّاصِي وَكَتَبَتْ الْأَشْرَارَ وَنَسَخَتْ الْأَجَالَ

محافظ، تو حوالہ ہو گیا نفوس کے آگے اور زہنے بچا دیا ہے سب کی پیشانیوں کو اور زہنے لکھوا دیا ہے آتا اور نشانات کو اور لکھوا دیا ہے عمروں کو

الْقُلُوبُ لَكَ مُفْضِيَةٌ وَالسَّرْعُ عِنْدَكَ عَلَانِيَةٌ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّتْ

قلوب تیرے لیے پہنچانے والے ہیں (راز ہائے دروں کو) اور پنهان تیرے نزدیک آشکارا ہے۔ حلال وہی ہے جس کو تو نے حلال ٹھہرایا

وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ وَالِدِينَ مَا شَرَعْتَ وَالْأَمْرُ مَا قَضَيْتَ وَ

اور حرام وہ ہے جس کو تو نے حرام ٹھہرایا اور دین وہی ہے جس کو تو نے جاری کیا۔ اور امر وہی ہے جس کی قضاء تو نے فرمائی۔ اور

الْخَلْقُ خَلْقِكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَأَنْتَ اللَّهُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ

مخلوق تیری ہی مخلوق ہے۔ اور بندہ تیرا ہی بندہ ہے اور تو ہی اللہ ہے جو بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے

أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظیفیل تیرے وجہ کریم کے نور کے جس کی بدولت روشن ہو گئے آسمان اور زمین

وَبِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَكَ وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْبَلَنِي فِي

اور بظیفیل ہر اس حق کے جو تیرے لیے ہے۔ اور بظیفیل حق ان کے جو تیری بارگاہ کے سوال ہیں کہ توجہ قبول فرمائے مجھے

هَذِهِ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيَّةِ وَأَنْ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ

اس صبح اور شام اور بجائے مجھے آگ سے اپنی قدرت کے ساتھ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذَا

لے اللہ اسے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے جاننے والے غیب و شہادت کے

الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَإِنِّي أَشْهَدُ بِكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

لے جلال و اکرام والے۔ میں شہادت دیتا ہوں طرف تیری اس حیات دنیا میں

وَأَشْهَدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اور تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو کافی ہے بطور گواہ کے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی

وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ عَلَى

واحد دیتا نہیں شریک تیرے لیے۔ ملک تیرا ہی ہے۔ اور حمد تیرے ہی لیے ہے۔ اور تو

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ

ہر چیز پر قادر ہے۔ لے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل تیرے اسم اعظم کے

الْمَكْتُوبِ مِنْ نُورٍ وَجْهَكَ الْأَعْلَى الْمَوْجِدِ الدَّائِمِ الْبَاقِي

جو لکھا ہوا ہے تیرے وجہ اعلیٰ کے نور سے جو تائید و تقویت دیتے والا ہے اور دائم و باقی اور

الْمُخَلَّدِ فِي قَلْبِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ

ہمیشہ رکھا جانے والا ہے تیرے نبی محمد کے قلب اور میں۔ میں سوال کرتا ہوں بطفیل تیرے اسم اعظم کے

الْوَاحِدِ بِوَحْدَةِ الْوَاحِدِ الْمُتَعَالَى عَنْ وَحْدَةِ الْكَمِّ وَالْعَدَدِ

جو منصف ہے احدیت والی وحدت کے ساتھ بالاتر ہے کیت اور عدد والی وحدت سے

الْمُقَدَّسِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ قُلُّهُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ


اور مقدس و پاکیزہ ہے ہر ایک کے (رشتہ و تعلق) سے فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ

نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ تھا


لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اس کے لیے کوئی رشتہ دار اور ہم پلہ





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على
المرسل والعلی



صحت نامه مجموعہ صلوات الرسول ﷺ

جلد نمبر	جز نمبر	صفحہ	سطر	سہو	صحت
۱	۱	۱۱۸	۵	وَجَمَالِ	وَالْجَمَالِ
۱	۱	۱۲۰	۱	أَنْوَارِهِ	أَنْوَارِكَ
۱	۱	۱۳۷	۱۰	صَارَ	صَارَ
۱	۱	۱۳۷	۱۱	وَمَنْ رَأَى	وَمَنْ رَأَى
۱	۱	۱۳۸	۹	طِينَتَهُ	طِينَتَهُ
۱	۱	۱۳۹	۹	اللَّهُ	اللَّهُ
۱	۱	۱۶۷	۲	وَالْآخِرَةَ	وَالْآخِرَةَ
۱	۱	۱۷۲	۱	نِ الذِّي اخْضَرَّتِ	نِ الذِّي اخْضَرَّتِ
۱	۱	۱۷۵	۷	وَعَلَى	وَعَلَى
۱	۲	۲۱۵	۶	وَالْحِكْمَةَ السِّرَاجِ	وَالْحِكْمَةَ السِّرَاجِ
۱	۲	۲۱۵	۱۰	بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ	بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
۱	۲	۲۱۶	۲	الْمُورُودِ النَّاهِضِ	الْمُورُودِ النَّاهِضِ
۱	۲	۲۱۷	۱۱	فَضِيلَةَ	فَضِيلَةَ
۱	۲	۲۱۹	۹	الْمُصْطَفَى	الْمُصْطَفَى
۱	۲	۲۲۰	۷	وَعَادَى	وَعَادَى
۱	۲	۲۲۲	۳	اللَّهُ النَّبِيِّ	اللَّهُ النَّبِيِّ
۱	۲	۲۲۲	۳	اللَّهُ النَّبِيِّ	اللَّهُ النَّبِيِّ
۱	۲	۲۲۲	۱۱	أَعْلَى	أَعْلَى
۱	۲	۲۲۵	۲	سَنَا الْجَبْرُوتِ	سَنَا الْجَبْرُوتِ
۱	۲	۲۲۷	۱۱	حِكْمَتِكَ	حِكْمَتِكَ
۱	۲	۲۳۰	۵	تَرْحَمْنِي	تَرْحَمْنِي

اللَّهُمَّ	اللَّهُمَّ	١٠	٢٣٥	٢	١
مَنْ يَنْصِتُ	مَنْ يَنْصِتُ	١١	٢٣٠	٢	١
الرِّسَالَةِ	الرِّسَالَةِ	٤	٢٣٢	٢	١
السُّرُورِ	السُّرُورِ	٩	٢٣٥	٢	١
مِنَ الْحَمَاءِ	مِنَ الْحَمَاءِ	٩	٢٥٢	٢	١
مُحَمَّدٍ	مُحَمَّدٍ	٢	٢٥٥	٢	١
ثَبَّتْ	ثَبَّتْ	١	٢٦٣	٢	١
ذِكْرِهِ	ذِكْرِهِ	٩	٢١٩	٢	١
فِيهَا	فِيهَا	١٠	٢٦٦	٢	١
عَزِيزًا	عَزِيزًا	٥	٢٦٤	٢	١
أَوْ سَوْدَاوِيٍّ	أَوْ سَوْدَاوِيٍّ	٨	٢٤٦	٣	١
نُخَاعِهِ	نُخَاعِهِ	٥	٣١٣	٣	١
كَتْفِهِ	كَتْفِهِ	٨	٣١٣	٣	١
يُمْنِيهِ	يُمْنِيهِ	٩	٣٢٠	٣	١
فِي الْقَوَى	فِي الْقَوَى	٩	٣٣٤	٣	١
وَعَيْنِ كُلِّ عَبِيدٍ وَعَيْنِ كُلِّ عَنِيدٍ	وَعَيْنِ كُلِّ عَبِيدٍ وَعَيْنِ كُلِّ عَنِيدٍ	٨	٣٢٠	٣	١
مُحَمَّدٍ	مُحَمَّدٍ	١٠	٣٢٤	٣	١
ح (حديث)	ح	٣	٣٥٩	٣	١
عَلَى النَّبِيِّ	عَلَى النَّبِيِّ	١٠	٣٦٢	٢	١
اِكْتِنَاهِ	اِكْتِنَاهِ	٤	٣٩٢	٢	١
اِسْتَوْجَبَ	اِسْتَوْجَبَ	١٠	٣٩٢	٢	١



لاِبِيْ اور مجھے اپنے (وجود) ساتھ بقاء عطا فرما، تک میرے وجود کے ساتھ۔	لاِبِيْ اور باقی رکھ مجھے اپنی توفیق سے میرے اصل کے لئے	۸	۳۹۴	۴	۱
مِيكَائِيْلُ	مِيكَائِيْلُ	۱۰	۴۰۸	۴	۱
اَلْمَصَّ اَلرَّو اَلرَّو	اَلْمَصَّ اَلرَّو	۶	۴۱۱	۴	۱
اَلرَّو اَلْمَرَّو اَلرَّو اَلرَّو	اَلرَّو اَلْمَرَّو اَلرَّو	۷	۴۱۱	۴	۱
اَلْمَّو اَلْمَّو اَلْمَّو	اَلْمَّو اَلْمَّو اَلْمَّو	۸	۴۱۱	۴	۱
اَفْضَلُ	اَفْضَلُ	۱	۴۱۴	۴	۱
طَوِيْلُ	طَوِيْلُ	۱	۴۲۶	۴	۱
مِنَ الْاَثَارِ	مِنَ الْاَثَارِ	۶	۴۵۵	۵	۱
ذُنْيَايُ	ذُنْيَايُ	۲	۴۵۸	۵	۱
مُكَيَّفَةٌ	مُكَيَّفَةٌ	۱	۴۷۲	۵	۱
ج م ز ب خ ت ذ	ج م ز ب خ ت ذ	۱	۴۷۳	۵	۱
عَمَّنُ	عَمَّنُ	۱	۴۹۵	۵	۱
اَلْبَلِيَّاتِ لِانْكَشَافِ	اَلْبَلِيَّاتِ لِانْكَشَافِ	۹	۴۹۹	۵	۱
مِنْ	مِنْ	۵	۵۰۱	۵	۱
وَالْبُؤْسِ	وَالْبُؤْسِ	۲	۵۰۶	۵	۱
السُّوِّءِ	السُّوِّءِ	۷	۵۰۸	۵	۱
اَلْغُلِّ (وزائد ہے)	اَلْغُلِّ وَ	۱	۵۱۲	۵	۱
مُحَمَّدِ الْمَوْقِرِ	مُحَمَّدِ الْمَوْقِرِ	۳	۵۱۵	۵	۱
مُحَمَّدِ الْمُعْظَمِ	مُحَمَّدِ الْمُعْظَمِ	۸	۵۶۸	۶	۱
وَالْبُؤْسِ	وَالْبُؤْسِ	۷	۵۹۲	۶	۱
يُنَادِي	يُنَادِي	۵	۵۹۴	۶	۱
صَبِحَهُمُ الْاَبْلَجِ	صَبِحَهُمُ الْاَبْلَجِ	۸	۶۰۰	۶	۱
لَوْلَوْ	لَوْلَوْ	۲	۶۰۲	۶	۱

شیخ المشائخ، قطب دوراں، وارث ولایت قادر یہ رحمانیہ

حضرت خواجہ محمد محمود الرحمن چھوہرویؒ

غوث الزماں حضرت خواجہ محمد عبدالرحمن چھوہرویؒ کے نور نظر سجادہ نشین اول، قدوۃ السالکین، زبدۃ الواصلین، شمس العارفین، سراج العابدین حضرت خواجہ محمد محمود الرحمن چھوہرویؒ ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۰۷ء کو متولد ہوئے۔ آپ کی ولادت کی خوشخبری حضرت خواجہ خضرؒ نے آپ کی ولادت سے قبل حضور چھوہرویؒ کو دے دی تھی۔ آپ حضور چھوہرویؒ کی زوجہ ثانیہ موضح گوجری ایٹ آباد کی متورع و متشرع، زاہد و متقی اور بزرگ ہستی میاں برکت اللہ کی عابدہ و زاہدہ اور شب زندہ دار صاحبزادی کے چہیتے اور لاڈ لے بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے آپ حضور چھوہرویؒ اور اپنی عارفہ ولیہ اور شب زندہ دار والدہ کی نگاہ تربیت میں تھے۔ یہی نہیں بلکہ عارف باخدا نانا، استاد العلماء علامہ سکندر علی شاہ محمدی، مولانا مفتی محمد اسماعیل کوکلوی اور دوسرے علماء صالحین جن کے سامنے آپ نے زانوئے تلمذ تہہ کیا، کی تربیت نے آپ کو آغاز بلوغت میں ہی شمس نصف النہار بنا دیا۔ ابھی آپ اپنی عمر مبارک کے اٹھارہویں سال میں ہی تھے کہ حضور چھوہرویؒ دنیائے فانی سے پردہ فرما گئے۔

جائشینی

حضور چھوہرویؒ کے وصال کے بعد احباب و مریدین نے دستار خلافت آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت قبلہ فضل الرحمن (المعروف چین پیر صاحب) کے سر پر رکھی مگر انہوں نے دستار خلافت قبول کرنے کی بجائے فرمایا کہ یہ دستار صاحبزادہ محمود الرحمن چھوہرویؒ کو بندھوائی جائے (جیسا کہ آپ نے حضرت مولانا سید احمد شاہ صاحب سری کوٹی کے نام ۱۹ ذی الحجہ ۱۳۲۳ھ کو رنگون خط میں لکھا) چنانچہ حضرت قطب دوراں نے خورد سالی میں ہی دربار عالیہ کا تمام انتظام و انصرام اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس ذمہ داری کو ایسی خوش اسلوبی، محنت اور تدبیر سے نبھایا کہ بڑے بڑے مدبر و منتظم آپ کے اس انتظام کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ حتیٰ کہ مختلف تقاریب و اعراس میں حضرت قبلہ چین پیر صاحب آپ کے مشورہ کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتے تھے۔ ان ہی دنوں میں خواجہ صاحب میرا شریف حضور چھوہرویؒ کے وصال پر تعزیت کیلئے تشریف لائے تو آپ کو زائرین کی میزبانی اور انتظامی امور میں مصروف دیکھ کر فرمایا ”بیٹا! یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضور چھوہرویؒ کی جائشینی تمہارے حصے میں آگئی ہے اور تمہارا مقدر بن گئی ہے اب چاہے کوئی لاکھ کوشش کرے مگر تم سے یہ عظیم منصب ہرگز نہیں چھین سکتا۔ کیونکہ تم ہی اس کے اہل ہو۔“

اس صغریٰ میں دربار عالیہ کے انتظام کی ذمہ داری کو بطور احسن نبھانے میں حضرت قبلہ فضل الرحمن صاحب اور حضرت قبلہ حاجی فضل سبحان صاحب کے علاوہ آپ کی والدہ ماجدہ کی خصوصی توجہ بھی آپ کے شامل حال رہی۔ حضور چھوہرویؒ کے وصال کے

بعد کسی دن ایسا اتفاق ہوا کہ آستانہ کی مسجد کا چراغ گل ہو گیا اور مسجد میں کچھ دیر اندھیرا رہا کسی نے اس طرف توجہ نہ دی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو قلبی اشارے سے اس کا علم ہوا تو انہوں نے اسی وقت چراغ روشن کر کے آپ کو دیا اور ہدایت کی کہ حضور چھوہرویؒ کی مسجد اور دربار کا چراغ ہمیشہ روشن رکھنا اور کبھی اندھیرا نہ ہونے دینا۔ گویا آپ کیلئے والدہ ماجدہ کا دربار عالیہ کے حسن انتظام کو برقرار رکھنے کا ایک تربیتی اشارہ تھا جس کی آپ نے زندگی بھر پاسداری کی۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دربار عالیہ کے حسن انتظام کے لیے وقف کر دیا یہی وجہ تھی کہ حضرت قبلہ چین پیر صاحبؒ اور حاجی فضل السبحان صاحبؒ آپ کے حسن انتظام کو دیکھ کر کہتے کہ اس منصب کیلئے آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ حضرت قبلہ چین پیر صاحبؒ کی فرط محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ عرس مبارک کی تقاریب میں حضرت سجادہ نشین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے فرط مسرت سے ”سجادہ نشین زندہ باذ“ کا نعرہ لگواتے۔

مجاہدات و معمولات

آپ حضور چھوہرویؒ کی طریقت و تعلیمات کا زندہ نمونہ و عملی پیکر تھے۔ آپ نے ہر دو صاحبزادگان حضرت قبلہ چین پیر صاحب اور حضرت قبلہ حاجی فضل السبحان صاحب کی طرح حضور چھوہرویؒ کی حیات مبارکہ میں آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی۔ تاہم آپ نے حضور چھوہرویؒ کے روحانی فیضان اور امانت ہائے معرفت کو آپ کے خلفاء حضرت خواجہ حافظ سید احمد سرکیوٹی، حضرت مولانا سید عالم صاحب نواں شہر، حضرت امان علی شاہ گنجوی اور حضرت خواجہ جہلمی سے حاصل کیا اور زندگی بھر حضور چھوہرویؒ کے تمام اورداد، اسباق اور وظائف پر کار بند رہے۔ آپ نے حضور چھوہرویؒ کے حکم پر بارہ مولا، سری نگر، گن چھتر شریف اور دوسرے علاقوں میں سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کے مزارات سے بھی روحانی فیوض حاصل کئے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ گیارہ بجے رات آرام کیلئے گھر تشریف لے جاتے اور تہجد کے وقت باہر تشریف لاتے۔ رات کا آخری حصہ حجرہ اقدس میں نماز تہجد اور اذکار میں صرف کرتے اور نماز فجر تک ذکر الہی میں محو رہتے۔

کمالات و کرامات

آپ عارف باللہ، محرم اسرار ربانی، سرپا زہد و اتقا اور زمین پر اللہ کی نشانی تھے۔ الاستقامۃ فوق الکرامۃ کے مصداق آپ اسوہ حسنہ کا نمونہ اور احکام شریعت کے کامل تابع تھے۔ آپ کو احکام شریعت سے ایک سرو انحراف بھی گوارا نہ تھا۔ لباس، نشست و برخاست اور عمومی معاملات میں بھی آپ شریعت مطہرہ کی پیروی کو ملحوظ رکھتے تھے۔ آپ کا یہی کردار متوسلین و مریدین کیلئے بھی مینارہ نور تھا۔ جب بھی کوئی سائل کسی روحانی و جسمانی مشکل میں گرفتار آپ کے پاس دعا کیلئے آتا تو آپ اسے نماز کی تلقین فرماتے اور اسے دعا کے بعد تعویذ عطا کرتے تو ساتھ تلقین فرماتے کہ تعویذ باندھنا لیکن جب بھی قضائے حاجت کو جاؤ تو فوراً استنجائ کر لینا اور طہارت کا اہتمام رکھنا۔ آپ اپنے تمام معتقدین اور مریدین کو شریعت کی پابندی، تلاوت قرآن مجید،

حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی اور والدین کی خدمت کی تلقین کرتے۔ گویا آپ کی ذات ستودہ صفات ایسا سرچشمہ تقویٰ تھی جو ہر آنے والے کو تقویٰ کے نور سے منور کر کے ومن یتق الله يجعل له مخرجا من كل مكان تک لارہی تھی۔

دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کیلئے خدمات

حضور چھوہروٹی کے جانشین اور دربار عالیہ کے سجادہ نشین ہوتے ہوئے آپ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کے سرپرست اور دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے صدر بھی تھے۔ آپ کی دارالعلوم کی خدمت کے جذبے کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ حضور چھوہروٹی کی رضا دارالعلوم کی خدمت میں ہے۔

دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کا افتتاح حضور چھوہروٹی نے ۱۳۲۸ھ میں فرمایا۔ اور درس قرآن و دینی علوم کی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم کیلئے بھی پرائمری کلاسوں کا اجراء فرمایا۔ حضرت محمود الرحمن صاحب نے دارالعلوم کے استحکام اور فروغ کیلئے کمال مساعی انجام دیں۔ آپ کی تحریک پر انجمن رحمانیہ رنگون نے ۱۳۳۹ھ میں دارالعلوم کی مالی امداد کی جس سے دارالعلوم کی پختہ عمارت تعمیر ہوئی۔ انہی عقیدتمندوں نے مزید ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے دارالعلوم کیلئے ماہانہ امدادی رقم مقرر کر دی اور مزید توسیع کیلئے ۱۳۵۷ھ میں دوبارہ زرکثیر کی امداد کی جس سے بقیہ تعمیرات مکمل کی گئیں۔

آپ نے عمارت کی تعمیر کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کے علمی معیار کو بھی بلند کیا اور دور و نزدیک سے آنے والے تشنگان علم و طالبان دانش کیلئے انتہائی قابل اور ثقہ اساتذہ کا انتظام فرمایا جن میں حضرت قاضی صدر الدین نقشبندی، مولانا خلیل الرحمن اور حضرت مفتی سیف الرحمن صاحب جیسے اہل کمال شامل ہیں۔ یہ آپ کی کوششوں کا اثر تھا کہ آج دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کا شمار برصغیر کی اہم درسگاہوں میں ہوتا ہے۔ اور اس کے فارغ التحصل فضلاء دنیا بھر میں مختلف حیثیتوں سے خدمت دین میں مصروف عمل ہیں۔

دارالعلوم کے علاوہ آپ نے اشاعت اسلام کیلئے اپنی سرپرستی میں تعمیرات مساجد کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ ان میں دارالعلوم رحمانیہ کے ساتھ برسر نہر موجود مسجد، ریلوے اسٹیشن کی مسجد، جی ٹی روڈ کے کنارے پانڈک ٹلو کر سڑک کی مسجد اور مغربی سرکلر روڈ کی مسجد شامل ہیں جو آپ نے اپنی نگرانی میں تعمیر کرائیں اور عوام الناس کیلئے مراکز دین قائم کیے۔

مجموعہ صلوات الرسول ﷺ کی اشاعت

حضور چھوہروٹی نے اپنی حیات مبارکہ میں مجموعہ صلوات رسول ﷺ کی طباعت کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا جیسا کہ حضرت حافظ احمد سرکیوٹی کے نام آپ کے مکتوبات سے عیاں ہے۔ مگر آپ کی یہ خواہش مبارکہ حضرت محمود الرحمن چھوہروٹی کے دور جانشینی میں رو بہ عمل ہو سکی۔ مجموعہ شریف کی طباعت حضرت حافظ سید احمد شاہ سرکیوٹی کی سعی پیہم سے ہوئی جس میں آپ کی

کوششیں بھی شامل تھیں۔ مجموعہ صلوات رسول ﷺ کی پہلی طباعت ۱۹۳۳ء میں سیٹھ احمد اللہ صاحب اور اخوان رنگون کے تعاون سے عمل میں آئی۔ دوسری اشاعت ۱۹۵۳ء میں حضرت مولانا امیر شاہ صاحب پشاور کی مساعی اور تیسری اشاعت ۱۹۸۲ء میں چانگام وڈھا کے برادران طریقت کے تعاون سے عمل میں آئی جس میں آپ کی مساعی جلیلہ بھی شامل تھیں۔

حضرت خواجہ محمود الرحمن چھوہرویؒ نے دربار عالیہ کے انتظام و انصرام، دارالعلوم کی سرپرستی اور حضور چھوہرویؒ کے روضہ مبارک اور دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کی وسیع اور شاندار دو منزلہ بلڈنگ کی تعمیر کروائی اور دربار عالیہ سے وابستہ مریدین و متوسلین کی تربیت و غمخواری کیلئے وہ عدیم المثل خدمات انجام دیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔

وصال

حضرت غوث الاعظمؒ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب کے چند دن بعد آپ اچانک بیمار ہو گئے اور چند دن علیل رہ کر ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۰۶ھ بمطابق ۲ جنوری ۱۹۸۶ء بحساب قمری ۸۲ سال اور بحساب شمسی ۹۷ سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر متوسلین کیلئے ایک حادثہ جانکاه سے کم نہ تھی۔ ہر دردمند دل اس منبع حسنات، مخزن عرفان اور ملت کے سرمایہ گراں سے محرومی پر نوحہ کناں تھا۔

از فراق اوہمہ گریاں شدند در غمش دل ہاہمہ بریاں شدند

عارف اسرار حقیقت، پیر طریقت، چمنستان چھوہرویؒ کے گل سرسبد

حضرت خواجہ محمد طیب الرحمن چھوہرویؒ

غوث الزماں حضرت خواجہ محمد عبدالرحمن چھوہرویؒ کے جگر گوشہ اور قطب دوراں حضرت خواجہ محمود الرحمن چھوہرویؒ کے نور نظر، منبع جود و سخا، صاحب زہد و تقویٰ حضرت خواجہ محمد طیب الرحمن چھوہرویؒ اپنے قدیمی مسکن سرانے صالح ہری پور کے ایک معزز اور پابند شریعت گھرانے کی دختر بلند اختر کے لطن سے ۱۹۳۵ء میں متولد ہوئے۔ آپ نے دینی و دنیاوی تعلیم دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور کے قابل قدر علماء سے حاصل کی اور تحصیل مزید کیلئے دارالعلوم حزب الاحناف لاہور تشریف لے گئے۔ اس دوران دن میں اکتساب علم کرتے اور رات کو اکثر حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ العزیز کے روضہ پر حاضر رہتے۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت داتا صاحب کا آستانہ طالبان حق کیلئے نہایت فیض رساں اور سالکین کیلئے بہترین راہ نما ہے۔ لاہور میں دوران قیام آپ کا معمول تھا کہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دیتے۔ تحصیل و تکمیل علم کے بعد آپ مزارات کے جوارات اور سجادہ نشینوں کی صحبت با برکت میں حاضر رہ کر فیضیاب ہوتے رہے، مگر آپ کے اخفائے حال کا یہ عالم تھا کہ آپ نے جو باطنی منازل طے کیں ان کا اظہار کیا نہ ہی کبھی با کمال و کرامت ہونے کا مظاہرہ کیا۔

آپ اپنے لنگر کے ذریعہ مہمان نوازی، دینی علوم کے طلباء کی پرورش، مساکین کی خود خدمت کر کے خوش ہوتے۔ آپ نے دعوت الی الحق میں لنگر کی افادیت پیش نظر رکھ کر اس کو مزید ترقی دی جہاں پر آنے والے سالکین و مساکین اور مسافرین کی حسن خلق، ایثار و مہمان نوازی اور مساوات و تواضع سے خدمت کی جاتی۔ آپ کا یہ عمل ارشاد نبوی ﷺ حسب القلب بظہر بالید ”دل کی محبت ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے“ کا صحیح مصداق تھا۔ خدمت خلق کا جو جذبہ آپ کے دل میں تھا وہ آپ کے عمل سے ظاہر تھا۔ خلق خدا خصوصاً غرباء و مساکین کی جو قدر اور محبت آپ کے دل میں تھی وہ بے ساختہ آپ کے افعال و کردار سے ظاہر تھی۔ آپ کو خلق اللہ کی خدمت محبوب تھی اور غرباء و مساکین کی ظاہری و باطنی امداد ہر حالت میں مقدم رکھتے۔ ان کو کھلاتے پلاتے اور پہناتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہ صرف ہم مجلسی کی عزت بخشتے بلکہ انہیں ساتھ بٹھا کر کھلاتے۔ ان کے مسائل کے حل کیلئے انکے ساتھ جاتے اور ان کی حاجت روائی فرماتے۔

اشاعت اسلام اور دارالعلوم کی خدمت

اشاعت اسلام اور دین کی خدمت کا جذبہ آپ کے دل میں بعد طفلی ہی موجزن تھا۔ جب آپ علم دین کی تحصیل سے فارغ ہو کر لاہور سے واپس تشریف لائے تو دارالعلوم کے انتظامی امور آپ کے سپرد کیے گئے۔ اس طرح آپ کا دارالعلوم سے لگاؤ بڑھا۔ آپ کے شعور میں یہ بھی تھا کہ آپ کے جد امجد حضرت خواجہ چھوہروی قدس سرہ العزیز کی خوشنودی کا انحصار دارالعلوم کی خدمت و فروغ پر ہے۔ اس لیے آپ نے دارالعلوم کی خدمت کو لگن کا رنگ دے دیا۔ کچھ تو دوران تعلیم عربی مدارس کے نظام و نصاب کا تجربہ، پھر یہ نظر عمیق مطالعہ و مشاہدہ سے جو نتیجہ اخذ کیا اسے اپنے والد محترم سرپرست دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ حضرت خواجہ الحاج حافظ محمد محمود الرحمن صاحب، سجادہ نشین چھوہر شریف کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سجادہ نشین صاحب خود بھی اس امر کو محسوس فرما رہے تھے کہ قدیم درس نظامی کا عربی مدارس میں مردہ نصاب عہد حاضر کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے۔ کچھ ترمیم و اضافہ کر کے اس کو عہد حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ملک کے مندرجہ ذیل جید علمائے کرام کو ایک جگہ مل بیٹھ کر غور و فکر کرنے کیلئے ہری پور آنے کی دعوت دی:

- ۱۔ ڈاکٹر سید حامد حسن صاحب بلگرامی و اُس چانسلر جامعہ بہاولپور ۲۔ مولانا قاضی عبدالقادر صاحب کونڈ (بلوچستان)
- ۳۔ مولانا نصر اللہ خان افغانی صاحب جامعہ رضویہ لاکل پور ۴۔ الحاج مولانا محبوب الہی صاحب مانسہرہ ۵۔ شیخ الحدیث مولانا ابوالبرکات سعید احمد قادری صاحب لاہور ۶۔ مفتی محمد حسین نعیمی صاحب لاہور ۷۔ مولانا سید احمد سعید کاظمی صاحب مدرسہ انوار العلوم ملتان ۸۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب سجادہ نشین، بھیرہ شریف سرگودھا ۹۔ شیخ الحدیث مولانا غلام علی صاحب اڈاکاڑہ
- ۱۰۔ صاحبزادہ سید فیض الحسن صاحب سجادہ نشین آلو مہار شریف ۱۱۔ میاں عبدالحق صاحب غور غشتی ۱۲۔ مفتی اعجاز علی بریلوی صاحب لاہور ۱۳۔ مولانا امیر شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ یکہ توت شریف پشاور ۱۴۔ مولانا مطیع الرضا صاحب راولپنڈی۔

آپ کی سعی پیہم کا یہ نتیجہ نکلا کہ ۸، ۹ اور ۱۰ دسمبر ۱۹۶۵ء کو دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ میں حضرت محمود الرحمن چھوہروی کی زیر صدارت اجلاس ہوئے۔ پہلے دن علماء کرام اور دارالعلوم کی انتظامیہ پر مشتمل ایک نصاب کمیٹی تشکیل دی گئی جس کی دو یوم تک متعدد نشستیں ہوئیں۔ اور علماء کرام نے نصاب کی بہتری کیلئے تجاویز تیار کیں۔

آپ کو حضرت خواجہ محمد عبدالرحمن چھوہروی کی تصنیف لطیف مجموعہ صلوات الرسول شریف کے ساتھ خصوصی شغف تھا۔ مجموعہ صلوات الرسول شریف کے ترجمہ کی ضرورت عرصہ سے محسوس کی جا رہی تھی۔ آپ نے اس کے لئے ملک کے متعدد علماء سے رابطے کئے جس پر حضرت مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب مدظلہ العالی سے ترجمہ کروانے کا فیصلہ ہوا۔ آپ کی کاوشوں سے چوتھی مرتبہ مجموعہ صلوات الرسول شریف ترجمہ کے ساتھ پانچ جلدوں میں شائع ہوا۔

روحانی تعلیم و تربیت

دارالعلوم رحمانیہ کے انتظامی امور کی اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ نے عہد حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور آج کے انسان کے مزاج کے مطابق روحانی تعلیم و تربیت کو رواج دیا، تمام طلباء کو خواہ وہ شعبہ دینیات سے تعلق رکھتے ہوں یا رواجی تعلیم حاصل کرتے ہوں نماز کی پابندی اور قرآن حکیم کی تلاوت کرائی جاتی اس کے علاوہ شعبہ تعلیم القرآن (حفظ ناظرہ) اور رواجی تعلیم کے طلباء کو مہد تالحد کام آنے والی دعائیں، دینی معلومات اور مذہبی باتیں بتائی جاتیں۔ دربار شریف پر اکتساب فیض کے شائقین، مریدین اور متعلقین میں خشیت الہی و تقویٰ، عشق الہی اور حب رسول ﷺ کا جذبہ پیدا کرنے کیلئے ان کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تربیت دی جاتی کہ طریقت کے سفر سے پہلے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور اوامر و نواہی کا علم و جانکاری پھر اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب، فرائض و واجبات کی پابندی اور نوافل و مستحبات کو شغل بنانا ضروری ہے۔ تقویٰ رہبانیت اور فطری خواہشات کے قتل ناروا میں نہیں بلکہ نفسانی خواہشات اور غیر فطری آرزوؤں کو ختم کرنے میں ہے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا عہد توبہ ہے اور ذات الہی سے غفلت نہ کرنے کا عزم اصل مردانگی ہے وہی انسان کامیاب ہے جو زندگی کے کسی بھی لمحہ میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، ہر لمحہ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد، ذہن و دماغ میں اللہ کا خیال اور زبان و لب پر اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ آپ کی ذکر الہی پر استقامت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب نے آپ سے علم دعوت القبور کے بارے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وقت کا ضیاع ہے اس کی بجائے انسان کو ذکر الہی میں مگن ہونا چاہیے اور ذکر الہی سے اپنا دل منور کرنا چاہیے۔ ایک مجلس میں مولانا احمد خان صاحب خطیب اعظم ٹیکسلانے آپ کے ایک کفش بردار پر آپ کی شفقت و عنایت دیکھتے ہوئے عرض دعا کی تو آپ نے فرمایا میری اس کے لئے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذکر کی لذت عطا کرے۔ آپ فرماتے تھے ہالی (ہل چلانے والا) پہلے زمین جوتا ہے پھر رائی (بیج بونے والا) راہتا (بیج بوتتا) ہے اور آپاشی کرتا ہے، قدرت مہربانی فرما کر روئیدگی فرماتی ہے تب فصل لہلہاتی ہے۔ طریقت کا بھی یہی حال ہے کہ طالب معرفت اللہ کی رضا

کیلئے اوامر پر عمل، نواہی سے اجتناب اور نوافل مستحبات کو اختیار کر کے اپنی زمین دل کو قابل کاشت بناتا ہے پھر مشدیار ہبہ اس کے دل میں اپنی تعلیم و توجہ سے عرفان کی تخم ریزی کرتا ہے اور چونکہ یہ سارا عمل اللہ کی رضا کیلئے ہوتا ہے اس لیے قدرت اس پر مہربانی کرتی ہے اور ساک کاد ل انوار عرفان سے روشن ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عمل مسلسل جاری رہے تو انوار عرفان روشن تر ہوتے جاتے ہیں، اگر عمل میں کوتاہی ہوتی ہے تو انوار عرفان کی بجائے ظلمت جہل طاری ہوتی جاتی ہے۔ اے اللہ! تو ہمیں اس خسران عظیم سے بچا۔ (آمین)

وصال

آہ کسی غمناک ہے یہ محرومی اور کتنی المناک ہے یہ مایوسی، کس کو یارا ہے کہ یہ کیفیت بیان کرے، کس کا قابو ہے جو شرح احوال کرے یہ لکھتے ہوئے قلم کانپ رہا ہے کہ حامی سنت، ہادی شریعت، شمع طریقت، حضرت خواجہ محمد طیب الرحمن خضری قادری چھوہروی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ رحمانیہ چھوہر شریف ۱۶ شوال ۱۴۱۵ھ بمطابق ۱۹۹۵ء (بمہر ۶۰/۶۱ سال) اس دار فانی کو چھوڑ کر محبوب حقیقی سے واصل ہو گئے اور ہم آپ کی محبت ظاہری سے محروم ہو گئے۔

انا للہ وانا الیہ راجعون ○

آپ کا دم غنیمت تھا، آپ نے عظمت مصطفیٰ ﷺ کو اپنے حلقہ اثر میں ایسے ہمہ گیر انداز میں رواج دیا کہ ہر دل عشق حبیب ﷺ سے منور اور ہر بزم ذکر حبیب ﷺ سے معطر ہو گئی۔ آپ کی ہر مجلس ذکر الہی سے آراستہ اور ہر محفل تعلیم شریعت و طریقت سے پیرا تھی، اگر جلوت میں خشیت الہی اور حب مصطفیٰ ﷺ کا شہرہ تھا تو خلوت میں تہلیل و تسبیح کا دور دورہ۔ آپ نے اپنی سجادگی کے چند برسوں میں معتقدین کو ایسے بھرپور اور مؤثر انداز میں فیضیاب فرمایا کہ اس کی نظیر نہ ملے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے عمل و کردار سے لوح دہر پر ایسے گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو فراموش نہ کیے جاسکیں گے۔

آپ کے وصال کے بعد آپ کے جگر گوشہ حضرت صاحبزادہ احمد الرحمن چھوہروی عرف شہزادہ پیر ادا م اللہ برکاتہ و اطول عمرہ کو سجادہ عالیہ دربار شریف کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ آپ لنگر کا اہتمام، دربار عالیہ کے تمام امور کا انتظام اور اعراس و تقاریب کا انعقاد بطور احسن فرما رہے ہیں۔ آپ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کی مجلس شوری کے سربراہ بھی ہیں اور دارالعلوم کے تعلیمی و انتظامی امور کو بھی چلا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی نگرانی میں دارالعلوم کی تعمیر و توسیع کے کئی منصوبوں کو مکمل کیا جن میں خواجہ محمد عبدالرحمن چھوہروی آڈیٹوریم کی تعمیر، بیوب ویل کی تنصیب اور جامع مسجد رحمانیہ کی تعمیر و توسیع شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کو فیوضات قادر یہ خضر یہ رحمانیہ کا امین اور جملہ متوسلین و معتقدین دربار عالیہ کے لئے موجب انوار و برکات و فیوضات کرے۔ (آمین، بجاہ سید المرسلین ﷺ)

کشادہ باد الہی! ہمیشہ ایں درگاہ
بخت اشہد ان لا الہ الا اللہ

احقر العباد حقیر دہلیز گیر حضور چھوہروی

ڈاکٹر طاہر حمید تنولی

ایم اے، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی